

ماہنامہ

درونی

June  
2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

☆ نامور مصنفہ رفعت سراج کا شاہکار ناول ”دام دل“ اندرونی صفحات پر ملاحظہ فرمائیں  
☆ اس کے علاوہ شمیم فضل خالق، صدف آصف، ام مریم، زمر نعیم اور دیگر نامور مصنفین کی یادگار تحریریں



بانی  
سہام مرزا



# دو شہزادہ

ماہنامہ کراچی

مدیر اعلیٰ ————— منزہ سہام

مدیر ————— کاشی چوہان / رضوانہ پرنس

نائب مدیر ————— دانیال شمشی

میجر مارکیٹنگ ————— زین العابدین

قانونی مشیر ————— جی ایم بھٹو (ایڈووکیٹ ہائی کورٹ)

انکم ٹیکس ایڈوائزر ————— مخدوم اینڈ کمپنی (ایڈووکیٹ)

خط و کتابت کا پتہ

MEMBER  
APNS  
CPNE

کن آل پاکستان ٹیڈ و پبلسٹی سہماگی  
رکن انٹرنیشنل آف پاکستان ٹیڈ و پبلسٹی سہماگی

88-C II - فرسٹ فلور - خیابان

جامی کمرشل - ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی - فیزہ 7، کراچی

فون نمبر: 35893122 - 021-35893121

ان میل: [pearlpublications@hotmail.com](mailto:pearlpublications@hotmail.com)

جون 2015ء

جلد: 43 ☆ شماره: 06

قیمت: 60 روپے

پبلشر ایڈمن اینڈ سرکولیشن: محمد اقبال زمان ☆ عکاس: موسیٰ رضا / مرزا محمد یاسر







- 07 اُمید... زندگی ہے کاشی چوہان  
 08 زادِ راہ منورہ نوری خلیق  
 12 محفل رضوانہ پرنس

**باتیں ملاقاتیں**

- 30 یمنی زیدی سے... ذیشان فراز  
 33 منی اسکرین م شخ  
 34 لائف بوائے... اسماء اعوان  
 35 شادی میرے بیٹے کی نزہت جنیں ضیاء

**ناول**

- 42 دامِ دل رفعت سراج  
 206 تیرے عشق نچایا بینا عالیہ

**مکمل ناول**

- 100 رحمن، رحیم، سدا سائیں امّ مریم

**ناولٹ**

- 78 مقدر کی سکندر شمیم فضل خالق

**ناولٹ**

- 164 جس صدف آصف  
 188 لہجوں نے خطا کی تھی فوزیہ احسان رانا

**ناولٹ**

پرل پبلی کیشنز کے تحت شائع ہونے والے پرچوں کا نام سدا شہزاد اور سچی کہانیاں میں شائع ہونے والی ہر تحریر کے حقوق طبع و نقل بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ کسی بھی فرد یا ادارے کے لیے اس کے کسی بھی حصے کی اشاعت یا کسی بھی ٹیکنالوجی کے ذریعہ ڈرامائی تشکیل اور سلسلہ وار قسط کے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پبلشرز سے تحریری اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ صورت دیگر ادارہ قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہے۔





## افسانے

- 67 سال گرہ زمر نعیم
- 158 بند دروازے بشری سعید احمد
- 96 پچھتاوا سویرا فلک

## انتخاب خاص

- 228 زنجیر اور تالا خالدہ حسین

## رنگ کائنات

- 243 بیٹھے چاول شوکت تھانوی

## دوشیزہ میگزین

- 234 دوشیزہ گلستاں اسماء اعوان
- 238 نئے لہجے، نئی آوازیں قارئین
- 240 یہ ہونی نابات زین العابدین
- 246 لولی وڈ، بولی وڈ ڈی خان
- 250 نفسیاتی الجھنیں مختار بانو طاہرہ
- 252 کچن کارنر نادیہ طارق
- 255 حکیم جی! محمد رضوان حکیم
- 257 بیوٹی گائیڈ ڈاکٹر خرم مشیر

## ناولٹ

- 124 راہیں محبت کی تمثیلہ زاہد
- 140 مرے نصیب... تمہینہ طاہرہ بٹ

زر سالانہ بذریعہ رجسٹری  
 پاکستان (سالانہ)..... 890 روپے  
 ایشیا افریقہ یورپ..... 5000 روپے  
 امریکہ کینیڈا آسٹریلیا..... 6000 روپے

پبلشر: منورہ سہام نے سنی پریس سے تیار کر شائع کیا۔ مقام: شی-7 OB-7، پور روڈ۔ کراچی  
 Phone : 021-35893121 - 35893122  
 Email : pearlpublications@hotmail.com









## امید..... زندگی ہے

ساتھیو!

آج ہم جس عہد میں جی رہے ہیں۔ اس عہد کا کیا ذکر کروں کہ یہ عہد مختلف آسمانوں والی کئی دنیاؤں کی بقائے باہمی کا اظہار کرتا، روشنی کی دھجیاں لیے، نیلے آسمان کی جھلک دکھاتا۔ اسکا ج ٹیپ سے ہر دن کو وقت کی ڈائری پر چسپاں کرتا، ہر برس پُر ہجوم دنیا کو غریب سے غریب تر کرتا جا رہا ہے۔

ابھی 60 انسان اڑا دیے گئے۔ سر نہیں ٹوپیاں کاٹی گئیں۔ (یہ استعارہ دنیا نے دیکھ بھی لیا) کیا ہم حضرت انسان اس عہد ناگفتہ بامیں اتنے ارزاں ہو گئے ہیں؟ انصاف!! ایک لفظی التماس کا استعارہ بن چکا ہے۔

غلط دقت پر بولنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

داویلا کرنے میں اگر امید ہے تو داویلا کریں۔ امید بہر طور ایک ایسے شہر کی طرح ہوتی ہے جو قدامت اور جدت کی دو اینٹوں سے تعمیر ہوتا ہے۔

اس شہر کے بچ سے محبت کا دریا بہتا ہے۔ رات کے روشن دانوں سے امید ہمارے بدن میں سرایت کرتی ہے اور خوابوں تک پھیلتی چلی جاتی ہے۔

کوئی کی تلخی بہت مزہ دیتی ہے۔ جب یہ سب سوچتا ہوں، لکھتا ہوں۔

ابھی بھی امید کا تازہ پھول میرے اندر کہیں نہ کہیں کھلا پڑا ہے۔

لبہلہلا رہا ہے اور اپنی مہکار سے مجھے آگے بڑھنے اور ہر غم اور سانچے کو ہمت سے برداشت کرنے کا حوصلہ دے رہا ہے۔

ساتھیو! امید زندہ رکھو! خدا سب کچھ آپ

کاشی چوہان

کے حسب منشا کر دے گا۔



## زادِ راہ

آج ذرا ہم اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں جینے کا مقصد صرف ایک ہی نظر آتا ہے کہ کسی طرح عالیشان مکان، کوٹھی یا بنگلہ بنالیں اور جنہیں اللہ نے عالیشان مکان دیے ہوئے ہیں وہ اس فکر میں غلطاں رہتا ہے کہ میں اس مکان کو مزید عالیشان کیسے بناؤں۔

### زندگی کو آسان، باعمل اور ایمان افروز بنانے کا روشن سلسلہ

ﷺ مال کی تقسیم میں انہیں نظر انداز فرما رہے ہیں۔ انہیں خیال گزرا کہ چند دن قبل فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کی اسلام کے لیے اتنی قربانیاں نہیں ہیں لیکن انہی نو مسلموں کو مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دیا جا رہا ہے جب کہ اسلام کے لیے ہم نے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا لیکن ہمیں ان کے مقابلے میں بہت کم دیا گیا ہے۔ انہیں مال کے کم ملنے سے زیادہ اس بات کا احساس ہوا کہ رسول ﷺ کی نظر اقدس میں ان کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ انصار مدینہ کو اداسی اور یاسیت نے گھیر لیا۔ رسول اللہ ﷺ سے ان کی یہ کبیدہ خاطر کی کہاں چھپی رہ سکتی تھی چنانچہ آپ نے انصار کو بلوایا۔ جب انصار ایک جگہ جمع ہو گئے تو اللہ کے حبیب حضرت محمد ﷺ ان کے درمیان جلوہ افروز ہوئے۔ انصار کے چہروں پر اداسی نمایاں تھی۔ آپ ﷺ نے انصار کی جانب محبت

ایک نو مسلم اعرابی آیا اور اس نے نظر بھر کر بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرف دیکھا اور کہا ”کاش میں ان کا مالک ہوتا۔“ اسے خبر نہ تھی کہ وہ شہنشاہِ دو عالم ﷺ کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ رسول ﷺ نے وہ ریوڑ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اعرابی ہکا بکا کبھی اللہ کے رسول ﷺ کو دیکھتا اور کبھی اپنی تنگ دامانی کو دیکھتا۔ آخر جب اسے یقین آ گیا کہ ایک جنبش لب پر وہ اتنے بڑے ریوڑ کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی تعریف بیان کرتے ہوئے خوشی خوشی وہاں سے روانہ ہوا۔ یہ غزوہ حنین کا موقع تھا۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال غنیمت کی اتنی کثرت سے نہیں نوازا تھا۔ مال غنیمت کے ڈھیر جتنے بلند تھے پادی برحق ﷺ کا دست مبارک اتنی سرعت سے انہیں تقسیم کرنے میں مصروف تھا۔ اس دوران انصار مدینہ کے بعض نوجوانوں کو شکایت پیدا ہوئی کہ نبی کریم



پاش نظروں سے دیکھا اور فرمایا: ”اے گروہ انصار! کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو مال دو دولت کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر واپس جاؤ؟“

رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہی تھے کہ انصار کی چنچیں نکل گئیں۔ شمع رسالت کے پروانوں میں نعرہ مستانہ بلند ہوا اور وہ زوردار ہچکیوں سے رو پڑے یہاں تک کہ ان کے داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ سب نے بے اختیار ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ ہم راضی ہیں۔ (زاد المعاد جلد 3)

یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اپنے آقا و مولانا ﷺ سے بے پناہ محبت کی ادنیٰ مثال ہے۔ ان کی نگاہ میں سیم و زر کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ تو محبت رسول ﷺ کی لازوال دولت سے مالا مال تھے اور ایک آج ہم ہیں کہ یہی دامانی پر اتراتے پھرتے ہیں۔ حضور کی محبت کے لیبل چسپاں کیے ہوئے ہیں مگر ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور سچ بتائے کہ ایسا ہے کیا؟ یقین جانیں کہ حضور سر اپا نو رسول ﷺ کی محبت کے ماسوا مومن کے لیے کوئی دولت نہیں ہے۔ یہ حضور ﷺ سے صحابہ کرام کی محبت ہی تھی جو ان کی زندگیوں میں عظیم انقلاب لے آئی۔ ہماری زندگیاں اونچے اونچے اونچے محللات کی تعمیر میں صرف ہوئی جاتی ہیں مگر ذرا نگاہ ناز نبوت ﷺ کی ناراضی کا واقعہ بھی پڑھیے کہ کسی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خفا ہو گئے تو سمجھ لو کہ اس کی دنیا و آخرت ویران ہو گئی۔

ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ المبارک کی ایک گلی سے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک اونچا اور پختہ مکان

نظر آیا اس پر قبہ (گنبد دار حجرہ) بنا ہوا تھا۔ آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے۔ عرض کیا گیا کہ حضور یہ فلاں انصاری صحابہ نے مکان بنایا ہے۔ یہ سن کر حضور خاموش ہو گئے اس کے بعد جن صحابہ کا مکان تھا وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ حضور ان صحابہ سے ایسے ہو گئے جیسے انہیں دیکھا ہی نہیں۔ یہ حضور کا اپنے پروانوں سے ناراضی کا ایک انداز تھا۔ وہ صحابی سمجھے شاید حضور مصروفیت کی وجہ سے میری طرف متوجہ نہیں ہو پارہے ہیں مگر جب کئی مواقع پر ایسا ہوا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے آقا ﷺ ناراض ہیں۔ اس بات کا ادراک ہونا تھا کہ ان صحابی کی تو دنیا ہی ویران ہو گئی۔ بے قرار اور دیوانے ہو کر ہر ایک سے پوچھنے لگے کہ شاید کسی سے حضور کی ناراضگی کا سبب پتا چل سکے۔ آخر تحقیق کرنے پر پتا چل ہی گیا کہ حضور کو ان کا گنبد دار پختہ مکان ناپسند ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی۔ حضور کے پاس جا کر کوئی عذر پیش نہیں کیا فوراً گئے اس مکان کا سرے سے وجود ہی مٹا دیا۔ اسے تو زکر زمین کے برابر کر دیا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہر تعمیر آدمی کے لیے وبال ہے سوائے اس تعمیر کے جو سخت ضرورت اور مجبوری کے ہو۔“ (ابوداؤد)

آج ذرا ہم اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں جینے کا مقصد صرف ایک ہی نظر آتا ہے کہ کسی طرح عالیشان مکان کوٹھی یا بنگلہ بنا لیں اور جنہیں اللہ نے عالیشان مکان دیے ہوئے ہیں وہ اس فکر میں غلطاں رہتا ہے کہ میں اس مکان کو مزید عالیشان کیسے بناؤں۔ اسراف کے دریا ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہم نے بہا رکھے ہیں۔ نافرمانی کے ماہر تیرا ک بنے بیٹھے



ہیں۔ سوچتے سمجھتے ہیں کہ کبھی نہیں ڈوبیں گے۔ شریعت ہمیں پختہ مکان بنانے کی اجازت ضرور دیتی ہے مگر ضرورت کی حد تک مکان اور اس کی سہولیات اتنی کافی ہیں جن کے سہارے زندگی کے سرد و گرم عزت و آبرو سے کٹ سکیں بے جا آسائش و آرام اسراف کے زمرے میں آتا ہے اور اسراف سراسر ہلاکت ہے۔ اسراف پورے معاشرتی نظام کو بھی درہم برہم کرتا ہے۔ دولت کی تقسیم عدم توازن کا شکار ہوتی ہے۔ جس نمود و نمائش پر آپ خوش ہو کر اپنی شان بڑھا رہے ہوتے ہیں اس نمائش شان و شوکت کو دیکھ کر بہت سے محروم لوگ حسد و رقابت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب وہ جائز طریقوں سے ان آسائشات کو حاصل نہیں کر سکتے تو ناجائز راستے اپناتے ہیں۔ رشوت خوری ہونے لگتی ہے، چوری، ڈاکہ زنی، لوٹ مار عام ہو جاتی ہے۔ ہمارے آج کے معاشرے میں جو لوٹ کھسوٹ کا عمل عام ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ امراء اپنے مکانات اور اپنے رکھ رکھاؤ کے ذریعے مال و دولت کی بے پناہ نمائش کرتے ہیں جس سے محروم اور غریب لوگوں میں بھی ان چیزوں کو حاصل کرنے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور اس کے لیے جائز و ناجائز کو پس پشت ڈال کر ہر وہ طریقہ اپناتے ہیں کہ بس جس سے دولت کا حصول ہو جائے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جو یہ سطریں پڑھتا ہوگا اور اسے اچھائی اور برائی کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ اسراف اور میانہ روی کے بارے میں معلوم نہ ہو مگر اس کے باوجود ہماری عملی زندگیوں اسلام کے ان عظیم اسباق سے خالی نظر آتی ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرامؓ اللہ کے رسول ﷺ بس ذرا سے خفا ہی ہو جاتے

تھے تو انہیں اپنی زندگی بے کار لگنے لگتی تھی اور وہ اس بات کی جستجو کرتے تھے جس کی بنا پر حضور خفا ہیں اور اگر حضور کسی بات کے بارے میں منع فرماویں تو وہ تو صحابہ کرام کے لیے پتھر پر لکیر ہو جاتی تھی۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر صحابہ حضور کے فرمان سے بال برابر نہیں ہٹتے تھے۔ ان میں یہ حوصلہ یہ ہمت صرف اور صرف سچی اور پاک محبت رسول ﷺ کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ ان کے دل عشق رسول ﷺ کے جذبے سے معمور تھے۔ وہ تو حضور کو دیکھ کر جیتے تھے۔ ان کے کان ہر وقت سرگوشی رسول ﷺ سننے کے لیے بھی ہمہ وقت چوکس و تیار رہتے تھے۔ ایک جنبش آبرو وہ اپنی جانیں حضور ﷺ پر نچھاور کر دیا کرتے تھے۔

ایک صحابہ حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد کے کچھ عرصے بعد کفار مکہ نے دھوکے دہی سے قید کر لیا۔ انہیں صفوان بن امیہ نے پچاس اونٹوں کے بدلے خرید لیا تاکہ وہ اپنے باپ امیر بن خلف کے بدلے میں انہیں قتل کر سکے۔ جب انہیں شہید کیا جانے لگا تو ابوسفیان نے کہا۔ ”اے زید خدا کی قسم سچ کہنا، کیا تم یہ بات منظور کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد (ﷺ) کو قتل کر دیا جائے اور تم اپنی جان بچا کر واپس چلے جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کے درمیان عیش و عشرت سے رہو۔“ (نعوذ باللہ)

حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز جواب سننے۔ جنہیں تاریخ نے سنہرے الفاظ سے اپنے سینے پر رقم کیا ہے۔ حضرت زید نے فرمایا۔ ”تم میرے قتل کی بات کرتے ہو۔ خدا کی قسم مجھے یہ بات بھی گوارا نہیں کہ محمد ﷺ کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر



میں آرام سے رہوں۔“ ابوسفیانؓ نے جواب سن کر ہکا بکارہ گیا۔ قریش کہنے لگے کہ محمد ﷺ کے ساتھی جتنی ان سے محبت کرتے ہیں اس کی نظیر ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ لیکن ان ظالموں نے حضرت زیدؓ کو تلواروں اور نیزوں سے چھلنی چھلنی کر کے شہید کر دیا۔ (ابوداؤد)

غزوہ احد میں مسلمان شہداء کی خبریں مدینہ کی گلیوں میں پہنچ رہی ہیں ایسے میں ایک صحابیہ خاتون دیوانہ وار دوڑی دوڑی میدان جنگ کی طرف جاتی ہیں۔ راستے میں کوئی ملا تو اس سے پوچھتی ہیں کہ بھائی مجھے یہ تو بتاؤ ”حضور کیسے ہیں؟“ وہ جواب دیتے ہیں تمہارے والد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ صبر سے تسبیح پڑھتی ہیں اور بے قراری سے دوبارہ حضور کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ اتنے میں کوئی انہیں بتاتا ہے کہ بی بی تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے ہیں۔ حضور کی یہ غلام بے قرار ہو کر پوچھتی ہے۔ میرے آقا کے بارے میں بتاؤ وہ کیسے ہیں؟ مگر ابھی تو عشق و محبت کے امتحان اور باقی ہیں کوئی بتاتا ہے کہ بی بی تمہارا بھائی اور تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں مجھے میرے حضور کا بتاؤ وہ کیسے ہیں۔ کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا تو دوڑی دوڑی احد کے میدان میں جا پہنچتی ہیں۔ سامنے ہی حضور ﷺ کے رُخ روشن کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اس میدان میں ان کے باپ ان کے شوہر بیٹے اور بھائی راہِ خدا میں سرکٹائے پڑے ہیں یہ ان کی طرف نہیں جاتیں سیدھا دامنِ مصطفیٰ کی طرف جاتی ہیں۔ حضور کا دامن تمام کر عرض کرتی ہیں ”یا رسول اللہ ﷺ میرے ماں باپ آپ پر قربان جب آپ زندہ و سلامت ہیں تو مجھ پر کوئی تکلیف اور ہلاکت

بھاری نہیں ہے۔“ (سبل الہدیٰ تاریخ خمیس)

صحابہ کرام کی زندگیاں حضور ﷺ کی محبت سے عبارت تھیں۔ حضور جیسا جیسا فرماتے جاتے تھے ان کی زندگیاں اسی قالب میں ڈھلتی جاتی تھیں۔ آج بس اتنا ہی کہنا ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے اور اپنی زبان کا محاسبہ کیجیے جو بار بار حضور کو بر ملا رسول ﷺ سے محبت کرنے والا بتاتی ہے۔ اس سے پوچھیے کہ اے میری زبان کیا تو نے میرے اندر ایسا عمل بھی دیکھا ہے جو محبت رسول کا مظہر ہو۔

یہ شکایت عام سننے کو ملتی ہے کہ ہمیں اسلامی احکامات کے بارے میں علم تو ہے مگر نہیں ہو پاتا سستی رہتی ہے۔ اسلام کے سچے اور ہدایت یافتہ احکامات پر عمل کرنے کا آسان نسخہ ہے اور وہ ہے کہ رسول ﷺ کی سچی محبت کو اپنے دلوں میں بسائیے۔ اس کے بعد ایسا ہو گا کہ ہر عمل کے بعد آپ کو خیال گزرے گا کہ کہیں یہ عمل میرے حضور ﷺ کو ناپسند نہ ہو، کہیں میرا یہ کام سنت کے خلاف نہ ہو جائے۔ حضور ﷺ سے محبت ہی ہماری تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے نجات کا حل ہے۔ حضور ﷺ سے قلبی محبت کا طریقہ اہل طریقت کے ہاں کثرت سے درود شریف کا پڑھنا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جنت میں میرے سب سے قریب وہ شخص ہو گا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے دل کو عشق رسول ﷺ سے روشن فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔

☆☆.....☆☆



# پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

## یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو م ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ سیریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

← ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

← ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on  
Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1



# دوشیزہ کی محفل

محبتوں کا طلسم کدہ، خوب صورت رابطوں کی دلفریب محفل

محفل ہونے کے لیے ہمارا دوشیزہ ڈائجسٹ - 88-C II - خیابان جامی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی - فیز-7، کراچی

E-mail: pearlpublications@hotmail.com

بہت پیارے دوستو!

آپ سب کو رضوانہ پرنس کا سلام قبول ہو۔ کہیے گرمی کی اس شدت میں ولوں کو ٹھنڈک کا خوبصورت احساس دلاتا ہوا یہ ناولٹ نمبر آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا۔ ویسے بھی جب یہ پرچہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا تو رمضان کی آمد آمد ہوگی۔ یہ مقدس مہینہ اپنے اندر صرف روزے اور عبادت ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے ایسے فریضے سمیٹ کر لاتا ہے جس کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جس میں سب سے اہم آپ کی زبان آپ کا برتاؤ اور آپ کا اخلاق ہے۔ روزہ رکھ کر اگر آپ کی زبان کسی کے لیے نشتر بن جاتی ہے تو یہ روزہ ایسا ہی ہے جیسے بغیر وضو کے نماز۔ حضرت علیؓ کا قول ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ مت دیکھیں کہ وہ کتنی عبادت کرتا ہے۔ کتنے روزے رکھتا ہے۔ بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کا اخلاق لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اللہ کے زیادہ نزدیک وہ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بندوں سے حسن سلوک رکھتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیو! محبت کے اس پیغام کو لیے ہمارے مہمان یقیناً ہمارے منتظر ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں محبت کی اس ٹھنڈی چھاؤں تلے۔

کھ: ہماری غزالہ عزیز، کراچی سے لکھتی ہیں۔ اسلام علیکم! امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گی۔ کاشی، منزہ کو خلوص بھر اسلام اور دعا قبول ہو۔ دوشیزہ کو نکھارنے، سنوارنے والے تمام دوشیزہ اسٹاف کی کاوشوں کے لیے پُر خلوص دعائیں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو دوشیزہ میں خلوص دل سے ایک بار پھر خوش آمدید ہے۔ کافی عرصے بعد فون پر آپ کی ہمیشہ کی طرح میٹھے لہجے اور نرم انداز تکلم نے دل کو سرشار کر دیا۔ واقعی کچھ لوگ پھولوں کی طرح خوشنما ہونے کے ساتھ نرم و میٹھے لہجے کے مالک بھی ہوتے ہیں۔ رضوانہ آپ کی دلکش شخصیت بھی مہکے پھولوں کی طرح بے حد خوشنما اور دل پسند سے ہے۔ اب آئیں ہیں تو دیر تک ساتھ رہیے گا۔ کاشی کی ہمراہی میں آپ کی دوشیزہ سے محنت و لگن کا اندازہ دوشیزہ کی روز افزو بڑھتی ہوئی مقبولیت اور بلند ہوتے ادبی گراف بخوبی ہو رہا ہے۔ خدا کرے کہ ترقی کا بلندی کا یہ سفر آگے اور آگے کی جانب گامزن رہے۔ آمین۔ اب دوشیزہ کے مئی کے شمارے پر تبصرہ حاضر



ہے۔ کاشی کے ادارے ”بادشاہ گر۔ مزدور“ کی طرح کاشی کا افسانہ ”روح دیکھی ہے“ اپنے اچھوتے پن کے ساتھ بہترین تھے۔ کاشی کی ادبی و تخلیقی صلاحیتوں کے بارے میں ویسے بھی اب کسی بھی قسم کے ستائشی الفاظ استعمال کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ امید ہے دیگر رائٹرز اور قارئین بھی میری اس رائے اور سوچ سے اتفاق کرتے ہوں گے۔ ویل ڈن کاشی! کیپ اٹ اپ۔ دو شیزہ کے تمام سلسلے اچھے اور دلچسپ ہیں۔ لیکن اگر ہر ماہ کسی ایک رائٹر جو صرف دو شیزہ میں لکھنے والی نہ ہو پورے کراچی اور پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں کا انٹرویو تعارف کے ساتھ شروع کیا جائے تو اچھا ہوگا۔ یہ صرف ایک تجویز ہے۔ (انشاء اللہ ضرور عمل کریں گے) ماہ مئی کے گرم مہینے کے تمام افسانے اپنے منتخب و منفرد موضوعات کے حوالے سے بہت اچھے تھے۔ تمام رائٹرز کو مبارکباد۔ انتخاب خاص میں ”نقشِ پا“ بہترین تخلیق تھی۔ ام مریم کا ناول اچھا جا رہا ہے۔ مریم کا اپنا مخصوص انداز تحریر ہے۔ ویل ڈن مریم!! مستقل سلسلے وار ناول میں چونکہ پڑھتی نہیں ہوں اس لیے رائٹرز سے معذرت! البتہ دونوں ناولٹ اچھے تھے۔ امید اگلے ماہ کا ناولٹ نمبر بھی افسانہ نمبر کی طرح بہترین کاوشوں سے مزین شمارہ ہوگا۔ چونکہ خط اگلے ماہ کے عید نمبر کے افسانے کے ساتھ کوریئر کرنے سے آدھے گھنٹے پہلے لکھ رہی ہوں۔ اس لیے ماہ مئی کے دو شیزہ شمارہ پر تفصیلی تبصرے سے قاصر ہوں۔ اس کے لیے میری معذرت قبول فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔

✉: عید نمبر کے لیے تمہارا افسانہ سب قارئین کے لیے ایک خوب صورت عیدی کی مانند ہے۔ ایسے ہی آتی رہنا پیاری سی لڑکی۔

کھ: ہماری دیرینہ دوست شائستہ عزیز نے بھی آج دو شیزہ کو رونق بخشی ہے۔ اسلام علیکم! امید ہے سب کچھ بخیر ہوگا۔ آپ کو دو شیزہ کی مسندِ ادارت مبارک ہو۔ بہت دنوں بعد دو شیزہ کے لیے قلم اٹھایا ہے۔ وجہ یہ بنی کہ کافی عرصے بعد دو شیزہ کے ساتھ ”چی کہانیاں“ بھی موصول ہوا۔ دونوں بروقت کے ساتھ ساتھ نکھار آ گیا ہے ماشاء اللہ۔ دو شیزہ مجھے باقاعدگی سے نہیں مل رہا ہے، اپریل کا شمارہ بھی نہیں مل سکا۔ ”محفل“ پڑھ کر اندازہ ہوا کہ آنگن میں بارات بھی اتر آئی اور مجمع حفیظ نے ”میں ہاری“ بھی لکھ ڈالا۔ عنوان پڑھ کر بہت چونکی کہ پچھلے برس جولائی میں، میں نے اسی عنوان سے افسانہ لکھا تھا جو ایوارڈ کا مستحق ٹھہرا تھا سو میں تو یہی

## برائے قانونی مشاورت

جی ایم بھٹولاء ایسوسی ایٹس

ایڈوکیٹ اینڈ اٹارنیز

رابطہ: 021-35893121-35893122

Cell: 0321-9233256



سمجھ رہی تھی کہ میں بھی ہاری ہوں مگر اب پتہ چلا کہ ادھر تو کئی اور بھی ہارے ہوئے ہیں۔ (سبح  
 براتو نہیں منایا؟) دوشیزہ کے تسلسل سے نہ ملنے کی وجہ سے میں پہلی مرتبہ رفعت سراج کا ناول  
 نہیں پڑھ پارہی ہوں ورنہ زندگی میں ہمیشہ دل لگا کر انھیں پڑھا، سنا اور سیکھا ہے۔ اس مرتبہ  
 منی اسکرین کے حوالے سے سبل علی کا انٹرویو پڑھنے کو ملا جو میری پسندیدہ اداکارہ ہیں۔  
 ڈراموں پر تبصرہ میں صرف ARY کے ڈرامے پر تبصرہ کیوں ہونے لگا ہے؟ ہر چینل کا ڈرامہ  
 تبصرہ کا مستحق ہے۔ محفل میں نگہت غفار نے اطلاع دی ہے کہ نزہت جہیں ضیاء کے بیٹے کی بھی  
 شادی ہوگئی ہے۔ امید ہے وہ جلد احوال نذر قارئین کریں گی۔ اب بات افسانوں کی  
 ہو جائے۔ دردانہ نوشین نے اس کڑی گرمی میں خوب صورت ترین عنوان کے ساتھ بہترین  
 افسانہ لکھا ہے۔ عنوان دیکھ کر ہی پدلی سی چھاگئی، رم جھم پھوار برسے گی۔ پچھلے برس جب  
 دردانہ ایوارڈ کی تقریب میں آئی تھیں تو کئی رائٹرز انھیں اپنے ہاں مدعو کرنا چاہتی تھیں۔ مگر  
 فرزانہ، دردانہ اور دلشاد سمیت سب اپنے طے شدہ شیڈول کے مطابق آئی تھیں اس لئے کتنے  
 ہی دل متوس کر رہ گئے۔ دردانہ کا کہنا تھا کہ آئندہ کوئی رائٹریسا گیٹ تو گیدر رکھنا چاہیں تو پہلے  
 سے مطلع کر دیں تاکہ رائٹرز اپنی تیاری کے ساتھ آئیں۔ اب میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں  
 گی امّ مریم کا۔ جس کے لیے اس مرتبہ محفل میں کسی نے جملہ لکھا ہے وہ بہت متوازن لکھتی ہیں  
 نہ ایک حرف کم نہ زیادہ۔ تو واقعی ان کی یہ تحریر دوشیزہ کے لیے تحفہ خاص ہے۔ بہت پختہ  
 اور منجھا ہوا انداز تحریر ہے ان کا اور موضوع پر گرفت بھی لا جواب ہے۔ ایسے ہی خیالات  
 میرے احمد سجاد بابر کی تحریر کے لیے بھی ہیں۔ وہ زیادہ تر منفرد موضوعات کے ساتھ آتے ہیں  
 اور چھا جاتے ہیں۔ اس مرتبہ ان کی کہانی میں جگہ جگہ شاعری کے تڑکے نے بڑا لطف دیا۔ اب  
 ایک خاص اور بڑا نام نگہت اعظمی، جو کہ شاید اب تک مجھ سے ناراض ہوں مگر میں پہلے ان کی  
 تحریر پر تبصرہ کر دوں کہ نگہت کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ روزمرہ کے معاشرتی پہلوؤں اور رویوں  
 کو ضبط قلم میں لاتی ہیں اور موضوع کا حق ادا کر دیتی ہیں اس مرتبہ انھوں نے واقعی سلگتے  
 موضوع کو چٹا۔ نگہت آپنی ناراضگی سر آنکھوں پر۔ پچھلے برس جب آپ شکوہ پڑھا تھا تب سے دل  
 بے چین تھا کہ آپ کی ناراضگی کیسے دور ہو، میرے پاس سے آپ کا نمبر ڈیٹ ہو گیا تھا۔ کنویں میں  
 باس ڈال کر آپ کے دو نمبرز ملے مگر دونوں پر رابطہ نہ ہو سکا پتہ نہیں کیا وجہ تھی؟ یہی حال رضیہ مہدی  
 کے نمبرز کا بھی ہے۔ نگہت آپ کے پاس تو میرا نمبر ہوگا۔ آپ ہی رابطہ کر لیں آپ کو چند خفیہ ایٹمی  
 راز سونپے ہیں!! کاشی، اب سچی کہانیاں ملتا رہے گا ناں؟ مجھے بھی ایک سچی کہانی سپرد قلم کرنی ہے۔  
 ماشاء اللہ سچی کہانیاں پر بھی خاصا نکھار آ گیا ہے۔ آپ لوگوں کی انتھک محنت ہر جگہ دکھائی دیتی ہے۔  
 سروق سے لے کر چکن کارز تک۔ تقریب ایوارڈ کی کوئی سن گن ہے؟ میرا اپنا جوڑا بسلا رکھا ہے اور  
 ہماری جوڑی (سیما مناف اور میں) بھی جب ہی منظر عام پر آتی ہے۔ خدا آپ سب کو بھی خوشیوں  
 تلے سلامت رکھے۔ آمین سب کو درجہ بدرجہ سلام اور دلی دعائیں۔



# مبارک باد



پیارے قارئین! ہم آپ کے مشکور ہیں۔ آپ کی دعاؤں سے، رخسانہ سہام مرزا کی صحت میں بتدریج بہتری آرہی ہے۔ زیر نظر تازہ تصویر اپنے قارئین کی نذر



ہماری پیاری بہن تابندہ سہام کوئی زندگی میں قدم رکھنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد  
یہہ وقار تقریب سہام مرزا کی بڑی صاحبزادی رعنا سہام کے گھر ڈیلاس، امریکہ میں انجام پائی



✉ پیاری سی دوست خوش آمدید۔ تمہیں اور سیماناف کو ہم اکثر یاد کرتے رہتے ہیں اور آج تم ہماری محفل میں آہی گئیں۔ سیماناف ہی ہیں۔ دوشیزہ شدت سے تم لوگوں کی تحریروں کی منتظر ہے۔ اور ہاں دوشیزہ ایوارڈ جلد ہوگا جس میں تم دونوں کی ہٹ جوڑی کی شرکت لازمی ہے۔

کھ: ندیا مسعود، کراچی سے اپنے تبصرے کے ساتھ آئی ہیں۔ ڈیر رضوانہ خوش رہیں۔ اس بار کا دوشیزہ حسب معمول اپنی آب و تاب کے ساتھ ملا۔ ٹائٹل پر کشش تھا۔ سب سے پہلے آپ کی سجائی ہوئی محفل میں جا کر بیٹھے۔ یقین جانے یہاں بیٹھ کر ہمیشہ بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ بہت اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی ڈرائنگ روم میں سب خواتین آپس میں بیٹھی محو گفتگو ہیں۔ مدرڈے پر نظم بھی دل کو چھو گئی۔ اور ماں کے حوالے سے افسانے بھی اثر انگیز تھے۔ جل علی کا انٹرویو پسند آیا۔ باقی سارے افسانے بھی بہت اچھے تھے لیکن خاص طور پر ”بارش میں گلابی ٹہنی“ کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ یہ کیفیت زندگی میں تقریباً ہر شخص پر آتی ہے لیکن سنسبھل جانے میں ہی عافیت ہے۔ دوشیزہ گلستان میں ہائے رے فیس بک اور غلطی نے بے اختیار ہنسنا دیا۔ بعد از مرگ بھی بہت مزے کا لکھا۔ یہ دعا شاید ہر دوسرے پاکستانی کے لیے پڑھائی جاتی ہوگی۔ باقی سارے سلسلے بھی اچھے رہے۔

✉ اچھی ندیا! تمہاری یہ بات ہمیں بھی بہت مزے دار لگی کہ ”بعد از مرگ“ شاید ہر دوسرے پاکستانی کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے۔ ایسے ہی پیارے تبصرے کے ساتھ آتی رہنا۔

کھ: انزا نقوی، کراچی سے لکھتی ہیں۔ بہت پیاری سی رضوانہ آبی۔ اسلام علیکم! 14 مئی یعنی مدرڈے کے حوالے سے شگفتہ شفیق کی نظم بہت دل کو اچھی لگی۔ بہت اچھی منظر کشی کی ہے۔ اپنی نظم میں اور ایک بیٹی کے جذبات و احساسات کی صحیح عکاسی کی ہے جو اپنی ماں کو کھوج چکی ہے۔ یہ زندگی کا ایک ایسا سچ ہے جو کہ ایک چاہنے والی اور محبت کرنے والی اولاد یا بیٹی اسے کسی قیمت پر قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ وہ غم ہے جو روح میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے اور رچ بس جاتا ہے جو زندگی میں دل سے کبھی نہیں جاتا۔ آپ تو بہت بہادر، سمجھدار اور ذہین ہیں آپ کی امی آپ سے پچھڑی ضرور ہیں مگر ان کی دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی اور وہ آسمان پر رہ کر آپ کو دیکھ کر آپ کی ہر خوشی پر خوش ہوتی ہوں گی۔

ماں وہ ہستی ہے جو ہر وقت دعا دیتی ہے  
وہ بگڑی ہوئی تقدیر بنا دیتی ہے  
لاکھ منجھار میں کشتی ہو بچا لیتی ہے  
ہر کڑے وقت کا آسان بنا دیتی ہے

ناول ”وام ول“ رفعت سراج کی وہ تحریر ہے جو معاشرے کی حقیقتوں کو آشکار کرتی ہے اور رشتوں کی نزاکت اور سفاکی کا سحر اس ناول کے کرداروں میں نمایاں دکھایا گیا ہے۔ وہ بہت اچھے انداز میں معاشرے کی کمزوریوں کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ عصمت پروین عظیمی کا افسانہ ”ٹھنڈی چھاؤں“ میں ماں





# دوشیزہ رائٹرز ایوارڈ

مئی 2015 کا نتیجہ: قارئین کے مندرجہ ذیل تحریر کو پسند کیا ہے

”بارش میں گلابی ٹہنی“  
وردانہ نوشین خان

آپ کی نظر میں اس ماہ ”دوشیزہ“ کی بہترین تحریر کون سی ہے؟

جون 2015

دوشیزہ

عنوان:

قلم کار:

نام:

پتہ:

دوشیزہ  
رائٹرز ایوارڈ



PAKSOCIETY.COM 17 دوشیزہ



سے ایک مخصوص محبت عقیدت اور عظمت کے احساس کو جگایا ہے اور ایک ماں کی لائق اور خدمت گزار اور چاہنے والی بیٹی کا کردار بہت اچھا اس افسانے میں دکھایا ہے۔ جو حالات کی وجہ سے اپنی ماں کی خدمت تو نہ کر سکی لیکن کسی دوسرے کی ماں کو اپنی ماں سمجھ کر وہ فرض بہت خوش اسلوبی سے ادا کر دیا۔ احمد سجاد بابر کا افسانہ ”کرب آگہی“ بھی ایک باہر نکلنے والی اور لوگوں کو Face کرنے والی خواتین کیلئے لمحہ فکریہ اور عبرت پر مبنی تحریر ہے جب عورت باہر قدم نکالتی ہے تو اس کا رویہ خشک روکھا اور بدتمیزی کے قریب ہونا چاہیے۔ ورنہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں ایک عمدہ اور اچھی تحریر۔ کاشی چوہان کا افسانہ ”روح دیکھی ہے کبھی“ بچپن کی محبت بھی عجیب ہوتی ہے جو مذہب، رنگ نسل کچھ نہیں دیکھتی بس ہو جاتی ہے بہت اچھا افسانہ تھا۔ انتخاب خاص میں فرخندہ لودھی کا ”نقش پاء“ بھی خاص تحریر کا حامل تھا جو پسند آیا۔ دردانہ نوشین خان کا افسانہ ”بارش میں گلابی ٹہنی“ بھی ایک منفرد تحریر تھی جو پسند آئی۔ واقعی سوال تو یہ ہے کہ محبت کہاں سے ہے پھر یہ جاتی کہاں ہے؟ رنگ کائنات میں محمد عظمت اللہ کی مزاح پر مبنی تحریر ”بعد از مرگ ناگہاں“ بہت زبردست تھی جس میں مرحوم کے قریبی دوست نہایت خلوص اور بہت عاجزی سے مرحوم کے لئے دعائے مغفرت کر رہے ہیں اور حاضرین با آواز بلند آمین کہہ رہے ہیں۔ مرحوم کی زندگی کے تمام واقعات اتنے مزاحیہ اور مزیدار انداز میں بیان کیے ہیں کہ میرا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا اور محمد عظمت اللہ آپ اسی طرح ہنساتے رہے اپنی تحریر کے ذریعے۔ دو شیزہ گلستان بھی بہت اچھا لگا۔ فرمان الہی، اقوال حضرت علیؑ اور لطائف سب ہی کچھ لا جواب تھا۔ ”یہ ہونی نا بات“ میں سوال کے جواب جو زین العابدین اپنے مخصوص اور برجستہ انداز میں دیتے ہیں جن پر بے ساختہ ہلسی آ جاتی ہے۔ ”بچن کارنر“ نادیہ طارق کے کھانے لا جواب ہوتے ہیں۔ اس سے سوال کا سلسلہ بہت اچھا ہے۔ سبل علی کا انٹرویو اچھا لگا۔ سبل نے بہت کم عرصے میں اپنی کامیاب اداکاری کا لوہا منوالیا۔ ڈاکٹر خرم مشیر ہمیشہ کی طرح بہت اچھے مشورے دیتے ہیں۔ اب کی بالوں کے بارے میں بہت اچھی اور مفید باتیں اور معلومات حاصل ہوئیں۔ یاسمین اقبال سنگھ پورہ لاہور سے جنھوں نے میری غزل پسند کی ان کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور یہ کہوں گی آپ خود بھی بہت اچھی شاعری کرتی ہیں جو مجھے پسند آئی۔ ریحانہ مجاہد کراچی سے انھوں نے بھی میری غزل کو بہت پسند کیا۔ آپ کی حوصلہ افزائی دعائیں۔ محبت پیارا اور غزل پسند کرنے پر آپ کی بھی بہت شکر گزار ہوں۔ یونہی آپ سب مجھے اپنی دعاؤں، پیار اور حوصلہ افزائی میں یاد رکھے اور میری غزلیں پڑھتے رہیے۔ تحسین عابدی کا افسانہ ”تمنا“ بھی بہت عمدہ اور حقیقت سے قریب تر تحریر ہے۔ زیادہ تر لوگ سانولی رنگت والی لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے حالانکہ سانولے رنگ میں بہت کشش ہوتی ہے اور نقوش بھی دلکش ہوتے ہیں۔ اس افسانے کا End اچھا تھا۔ دو شیزہ میگزین کے تمام ممبرز اور مینجمنٹ کو میرا سلام۔ میگزین کی ترقی کے لیے میری بہت ساری دعائیں۔

✉ بہت پیاری انزا! تمہاری شاعری کی طرح تمہارا خط بھی اپنے اندر ایک افسانوی سارنگ چھپائے ہوئے ہے خاص طور پر ماں کے اوپر تمہارے خیالات بہت اچھے لگے جو جگہ کی کمی کی وجہ سے



ایڈیٹ کرنا پڑے۔ خوش رہو۔

کھ: فیصہ آصف نے ہمیں ملتان سے یاد کیا ہے۔ ڈیر رضوانہ آپ! اسلام علیکم! امید ہے کہ مزاج اچھے اور بہترین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی عافیت میں ہوں۔ پچھلے ماہ آپ کے محبت بھرے حکم پر فٹنٹ خط لکھا اور پوسٹ کر دیا (نئے ایڈریس پر) پر جانے کیوں نہ ملا آپ کو، آپ کی تعریف میں اس میں بے شمار پل باندھے اور دریا بھی بہائے۔ مگر کیا کہا جائے۔ افسوس ہوا! اس لیے ایک بار پھر امید کا وسیع دامن تھام کر آپ کی محفل میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ دوشیزہ ہر ماہ کے شروع کی 2 یا 3 تاریخ کو مل جایا کرے، جس کی عرصہ دراز سے خواہش ہے۔ اس جانب خصوصی توجہ دیں۔ اب ذرا مٹی کے گرما گرم مہینے کے دوشیزہ پر اپنا جاندار و شاندار تبصرہ تحریر کروں۔ سرورق کی دوشیزہ کارنگارنگ لباس موسم کی شدت کو کم کرتا محسوس ہوا۔ گوماؤل زیادہ پسند نہیں آئی مگر اس کی آنکھیں غضب کی تھیں۔ (خوب صورت آنکھیں میری کمزوری ہیں، جیسا کہ میری آنکھیں دوسروں کی کمزوری ہیں۔ سچ مذاق نہیں) خیر جی افسانہ نمبر کی جانب قدم بڑھاتے ہیں۔ کاشی بھائی کے کاٹ دار مگر حقیقت سے پُر الفاظ معنی خیز تھے۔ اور فکر انگیز بھی۔ اسلامیات کی کلاس کے بعد اس محفل میں آئے جہاں خلوص و محبت کی چاشنی کے ٹوکے ایک دوسرے پر انڈیلے جاتے ہیں۔ وفا کے پھول دامن میں بھرے جاتے ہیں آپ کی آمد یقیناً بہار کے جھونکے کی مانند لگی، اللہ کرے آپ کے ساتھ ہمارا یہ سفر اور ساتھ خوشگوار گزرے۔ رخ چو بدری، شمع حفیظ، عقیلہ حق، زم نعیم اور سنبل صاحبہ نے بہت تفصیلی اور خوبصورت تبصرے کیے۔ یہ سب اس کی باریک بینی کا نتیجہ ہے۔ عادل حسین، مسز نوید، باجی نکبت غفار کے دلکش اور من موہنے تبصرے بھی محفل میں رنگ جمائے، کہ وہ اپنے قیمتی اوقات اس محفل کو دیتی ہیں قیمتی وقت مطالعہ کر کے۔ سبل علی سے ملاقات اچھی لگی۔ ڈراموں پر تبصرے ٹھیک تھے۔ رفعت جی، دام دل کے ذریعے دامن پکڑ رہی ہیں۔ موضوعات خاصے نازک اور حقیقی تاثر کئے ہوئے ہیں۔ ایک تو آج کل ان ڈبہ پیروں نے خاصا تنگ کر رکھا ہے۔ عقیدے کی ناچنگلی ان کی دکان بڑھا رہی ہے، اور عقل و شعور سے عاری یہ اشرف المخلوقات انسان جہالت کی انتہا پر جا پہنچتا ہے۔ رفعت جی یہاں پر مردوں کو سزا ضرور دیں ساری نکالیف عورت ہی کیوں بھگتے۔ ”تیرے عشق نچایا“ کی ہر قسط بے حد خوبصورتی سے تخلیق کی بنا جی خاص طور پر منظر نگاری کا سحر، جس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ کہانی بھی خوبصورت طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور تجسس برقرار ہے۔ مصطفیٰ ملک کا صراطِ مستقیم پر آنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ بلال کو بھی شاید نورین کی صورت اپنے گناہوں کی معافی کا صلہ مل جائے۔ اور ہمدردیاں تو ام فروا کے ساتھ ہیں ہی۔ دردانہ نوشین کی تحریر فسون خیز لگی، جملہ یاد آ گیا، پیار تو پیار ہے، پیار کا عمر سے کیا واسطہ؟ بس اب کیا کہیں سوالیہ نشان ہمارے ذہن میں بھی کلبلار ہا ہے۔ تمنا سمجھ سے بالاتر لگا۔ کیا عام عقل کا اندھا تو تھا ہی آنکھوں کا بھی اندھا تھا۔ ”مذاق“ سمجھانے والی اچھی تحریر تھی۔ نکبت اعظمی کی آگ کی کہانی۔ تشنگی کا احساس دلا گئی۔ ذرا اور تفصیل ہوتی اور ابرار احمد کو مزید سمجھ آتی۔ ”شعندی چھاؤں“ رلا گئی، ماں جیسی عظیم ہستی کو لاوارث چھوڑ دینا جہنم کا ایندھن بننے کے برابر



ہے۔ ”فیصلہ“ درست نہیں لگا۔ نکاح کے بعد سوئی کا اس طرح کرنا غلط لگا۔ مرضی کو سمجھا بجھا کر، ماں کو منا کر، کراچی لایا جاسکتا تھا۔ ”اصل سے سوڈ“ میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ عابدہ سین کے ”کچوان کہے جذبے“ لفظوں کی جادوگری کے سبب پسند آئے۔ ”کرب آگہی“ احمد سجاد بابر، کے حرف حرف سے آگاہی کا درس دے گئے۔ لڑکیوں کے لیے بطور خاص یہ افسانہ ان کی عقل سلیم کو جانچنے کے لئے کافی موثر ثابت ہوگا۔ نسیم سحر کا ”تمہارا ساتھ چاہیے“ افسانہ نئے موضوع پر تھا پسند آیا۔ ”روح دیکھی ہے کبھی“ ایک منفرد افسانہ تھا۔ ادبی تحریر ”نقشِ یا“ بے حسی کے پردے چاک کرنے والی تحریر تھی۔ باقی تمام سلسلے بھی اپنی جگہ درست ہے۔ رضوانہ جی عید الفطر نمبر کے لیے ناولٹ پیش خدمت ہے۔ امید واثق ہے کہ جولائی میں جگہ پائے گا۔ آپ کی محبت و تعاون ہمارے رشتے کو اور مضبوط کرے گا۔ اللہ کرے دوشیزہ اسی طرح ترقی کرتا رہے۔ شگفتہ شفیق جی رابطہ توڑنے کی وجہ بتادیں۔ اور رضوانہ کوٹر صاحبہ آپ کی محبتوں کی مشکور ہوں۔ اجازت درکار ہے۔ وسلام و خدا حافظ۔

✉ پیاری سی نصیحت! ایسے ہی مفصل تبصرے کے ساتھ ہماری محفل کی رونق بڑھایا کرو۔ بہت اچھا لگتا ہے۔ عید نمبر کے لیے تمہارا ناولٹ مل گیا ہے۔ اب تو تمہاری عید میں مزید چار چاند لگ جائیں گے ہے نا؟

کھ: شمینہ عرفان نے کراچی سے ہمیں یاد کیا ہے۔ ڈیئر پرنس۔ خوش رہو۔ کیسی ہو پرنس۔ یقیناً کراچی کے حالات پر دلگرفتہ ہوگی۔ یہ سچ ہے کہ کراچی کے حالات پر دل بہت ٹوٹا ہوا ہے۔ نجانے روشنیوں کے اس شہر کو کس کی نظر لگ گئی۔ وہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں۔ جب بچوں کو نظر لگتی ہے کہ اپنوں کی نظر لگی ہے۔ تو کچھ یہی حال کراچی کا بھی ہے جس کو اپنوں ہی کی نظر لگی ہے۔ یہ کہہ کر دامن بچانا کہ فلاں واردات میں ”را“ کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ سب بکو اس ہے۔ آپ لوگ خود نا اہل ہو چکے ہیں۔ نہ قانون کی پاسداری ہے۔ صرف پل، انڈر پاس اور بڑے شاپنگ مال بنا کے سمجھتے ہیں کہ صوبے کی ترقی کیلئے بہت کام کر لیے۔ دہشت گردوں کو نہ پکڑیں گے اور نہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ بس دہشت گردی کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کے ورثاء کو چیک دے کر اپنی ہر ذمہ داری سے عہدہ براں ہو جاتے ہیں۔

جانے کل کون سے کہرام کو ہے برپا ہونا

بس اس سوچ میں ہر رات گزر جاتی ہے

اس طرح سے ”دوشیزہ ڈائجسٹ“ کا سرورق دینے کے لیے آپ لوگوں کی کوئی ”کاروباری“ پالیسی ہو، لیکن ڈائجسٹ پڑھتے پڑھتے سارا سرورق خراب ہو جاتا ہے۔ ہماری والدہ محترمہ ایک لفظ بہت بولتی تھیں۔ ”سجل“ کسی بھی کام یا کسی شے کو اچھی طرح رکھنا۔ لیکن اس سرورق کے ساتھ ڈائجسٹ ”سجل“ سے رہ نہیں پاتا۔ (آپ کی شکایت متعلقہ شعبہ تک پہنچادی ہے) اس دفعہ تو کمال ہو گیا ڈائجسٹ بہت جلدی مل گیا۔ گرمی کی شدت سے آپ لوگوں کے کام کی رفتار کو بڑھا دیا۔ اسی طرح پورے دن کی مدت کے بعد بتدریج موسم کچھ بہتر ہونے لگتا ہے۔ اور پھر رات آٹھ بجے ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے وقت تو ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے لیکن اے آروائی کے خوب صورت پروگرام کے تبصرے میں



”تصویری“ تبصرہ نوبجے کے ڈراموں کا زیادہ ہے۔ معذرت کے ساتھ۔ لکھنا تہ شیفتق کی شاعری ”منافق“  
 ”شعبان کھوسہ کی ”محنت کش مزدور کا دن بہت زبردست تھی۔ کل علی کا انٹرویو اچھا تھا۔ دردانہ نوشین  
 خان کے افسانے ”بارش میں گلابی ٹہنی“ کے آخر میں پوچھا گیا ہے۔ ”آپ متفق ہیں؟“ کاش کچھ ایسے  
 لکھنے والے بھی پوچھ لیتے جو اپنے افسانوں میں جانے کون سے ”جنت نظیر“ جہانوں کی کہانیاں لکھتے  
 ہیں۔ جو آج کل نمونے والے معاشرے میں دُور دُور تک نظر نہیں آرہی ہیں۔ ہاں البتہ افسانہ نگار کی  
 اپنی خیالی دنیا ضرور ہو سکتی ہے۔ تو پھر آخر میں وہ بھی ”آپ متفق نہیں؟ لکھ دیا کریں۔“ بس پرنس! اس  
 دفعہ کے دو شیزہ کا حاصل ”ماں“ سے آنکھوں کو بارش سے جل تھل کر دیا۔ اور اس جل تھل کا زور اس  
 وقت ٹوٹا جب ابفا اپنے شوہر اور اپنے گل گو تھنے نظر کے ساتھ بھری دوپہر میں اچانک آ کر سینے سے لگ  
 گئی اب اجازت اس دفعہ ٹوکن پُر کر کے ساتھ ہی منسلک کر دیا ہے۔ سب کو بہت بہت سلام۔

## ”ایک تقریب ملاقات“

بہت عزیز قارئین!

رائٹرز کے ساتھ تو گیٹ ٹو گیدر ہوتے ہی رہتے ہیں، کیوں نہ اس موسم میں اپنے دو شیزہ  
 پڑھنے والے قارئین کے ساتھ ایک شام منائی جائے کیونکہ دو شیزہ کی یہ جگمگاہٹ آپ سب  
 پڑھنے والوں کے دم سے ہی تو ہے۔ سو محبتوں اور رابطوں کے اس بندھن کو مضبوط کرنے کے  
 لیے ہم بہت جلد ”ایک تقریب ملاقات“ کا اہتمام کر رہے ہیں، جس میں ہم اپنے قارئین کے  
 ساتھ چائے پر کچھ لمحات کو یادگار بنائیں گے اور پھر اس تقریب خاص کی تصویری جھلکیاں بھی  
 دو شیزہ میں شائع کی جائیں گی۔ تو قارئین اس تقریب ملاقات میں شرکت کے لیے فوری طور  
 پر مندرجہ ذیل ٹوکن پُر کر کے ہمیں آج ہی پوسٹ کر دیں۔

نوٹ: دیر سے ملنے والے کوپن تقریب کے دعوت نامے میں شامل نہیں ہو سکیں گے

### تقریب ملاقات

کوپن برائے		نام:
جون 2015ء		پتہ:
		رابطہ نمبر:

نوٹ: اپنا کوپن ہمیں فوراً ارسال کریں، ہم آپ کے منتظر ہیں



✉ پیاری سی ثمینہ آپ نے ٹھیک لکھا ہمارا روشنیوں کا شہر جہاں زندگی ہمہ وقت جاگتی رہتی تھی۔ اب عجیب سے خوف اور دہشت میں ڈوبا نظر آتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کراچی میں کیڑے مکوڑے زیادہ ہیں یا دہشت گرد کہ مارے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر کو نے کھد رے سے نکل آتے ہیں۔ اور ہاں اللہ آپ ماں بیٹی کی محبت کو ہمیشہ سلامت رکھے۔

کھ: کراچی سے مسز نوید ہاشمی لکھتی ہیں۔ ڈیئر رضوانہ پرنس! اسلام علیکم! دو شیزہ اور سچی کہانیاں ڈائجسٹ کی میری ممبر شپ ہے۔ تب بھی ہمیں رسالہ دیر سے ملتا ہے۔ 14 مئی کو ہمیں ملا ہے۔ اس وجہ سے دو شیزہ کی محفل میں شامل نہیں ہو سکے۔ نئے لہجہ نئی آواز کے لیے دو غزل تحریر کی ہیں۔ پسند آئے تو دو شیزہ میں جگہ دینا پلیز۔

✉ ڈیئر مسز ہاشمی! آپ کے بنا تبصرے کے مختصر سے خط نے مزہ نہیں دیا۔ ہمیشہ کی طرح اطمینان سے آئیے نہ۔ آئندہ پرچہ دیر سے ملنے کی شکایت نہیں ہونے دیں گے۔ خوش!

کھ: عادل حسین کراچی سے لکھتے ہیں۔ اسلام علیکم! امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ مئی کا دو شیزہ سخت گرمی میں افسانہ نمبر کی صورت جلوہ گر ہوا تو سمجھیں بہار آگئی۔ سب سے پہلے میرے افسانے اور غزل کی اشاعت پر شکریہ۔ لفظوں کی حرمت کاشی بھائی نے خوب سمجھائی ہے بادشاہ گر۔۔۔۔۔ مزدور کی صورت۔ زاہد راہ ہمیشہ ہی دل کے سکون کا سبب بنتا ہے۔ اپنی محفل میں پہنچے تو دل خوش ہو گیا۔ سچل علی سے ملاقات بھی خوب رہی اور اے آروائی کے ڈراموں پر تبصرہ بھی۔ لائف بوائے اچھا لگا۔ بارش میں گلابی ٹہنی خوب لکھا ہے۔ دردانہ نوشین صاحبہ نے۔ اچھا لگا۔ تحسین عابدی صاحبہ کا تمنا ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے ٹھکرائی ہوئی لڑکی کی کہانی، جسے خوب صورتی سے پیش کیا گیا۔ اک ذرا سا مذاق کتنی مشکلات پیدا کر سکتا ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ آگئی۔ راحت و فارا جہوت کے مذاق کو پڑھ کر۔ آج کے حالات کے تناظر میں آگ کی کہانی زبردست تحریر تھی۔ نگہت اعظمی صاحبہ کی۔ ویلڈن نگہت جی۔ شندھی چھاؤں ماں کی محبت میں لکھی گئی۔ عصمت پروین اعظمی صاحبہ کی اچھی کوشش۔ محبت اور فرض میں ایک کو پختا مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اگر فرض ماں کا ہو تو یقیناً فیصلہ ماں کے حق میں ہی ہوتا ہے، یہ بات حنا اصغر نے خوب سمجھادی سب کو۔ اصل سے سو بھی سلٹی غزل صاحبہ کی پر اثر تحریر۔ جوشستوں کی سچائیوں کو خوب صورتی سے پیش کر رہی تھی۔ آئرد (یاں) بھی الماس روجی صاحبہ کی ماں سے محبت کی دلیل۔ احمد سجاد بابر بھائی کی کرب آگہی زبردست تحریر تھی۔ بالکل حقیقت۔ اندازِ بیاں بھی خوب صورت تھا۔ پڑھ کر دل خوش ہو گیا۔ ویری نانس احمد بھائی۔ نسیم سحر کا تمہارا ساتھ چاہیے بھی دلچسپ لگا۔ عائشہ خان کا چمکیلا بکل اچھے موضوع پر لکھا گیا تھا۔ اور لکھا بھی اچھا گیا تھا۔ کاشی بھائی کا روح دیکھی ہے کبھی بھی زبردست رہا۔ ان جذبوں کو زباں مل جاتی تو کیا ہوتا؟ زبردست کاشی بھائی۔ عافیہ رحمت صاحبہ کا بہار آئے گی پڑھ کر کتنے خواب آنکھوں میں چلے آئے۔ کاش ایسا عملی زندگی میں ممکن بنا سکیں ہم سب۔ انتخاب خاص ہمیشہ کی طرح زبردست اور بعد از مرگ ناگہاں بھی مزیدار۔ لہجوں نے خطا کی بھی کی یہ قسط بھی خوب رہی اور کچھ اُن کہے سے جذبے بھی اچھا تھا۔ عابدہ سین جی نے رشتوں کی خوبصورتی کو بہت



خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ ناول تینوں ہی خوبصورتی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور دلچسپی کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ شاعری سب نے بہت اچھی پیش کی۔ باقی تمام سلسلے ہمیشہ کی طرح خوبصورت چل رہے ہیں۔ میں چاہتے ہوئے بھی کوئی غلطی نہیں نکال سکتا۔ اتنا خوبصورت افسانہ نمبر پیش کرنے پر میری طرف سے آپ سب کو بہت مبارک۔ اللہ یہ محبتیں سلامت رکھے۔

✉: عادل صاحب آپ چاہتے ہوئے بھی کوئی غلطی نہیں نکال سکے۔ آپ کے اس جملے سے ہماری ساری محنت وصول ہوگئی اور دیکھیے سارے رائٹرز بھی خوش نظر آ رہے ہیں۔

کھ: لاہور سے یہ آمد ہے ہماری بہت پیاری رضوانہ کوثر کی۔ لکھتی ہیں۔ مئی کا افسانہ نمبر خوب صورت ٹائٹل کے ساتھ دل کو مٹھو گیا۔ کاشی کا ادارہ بادشاہ گر..... مزدور! اے دن تھا۔ زادراہ سے ہوتے ہوئے محبتوں کے طلسم کدے میں آ پہنچے۔ سب سے پہلے تو آٹھ جون کو ہماری رضوانہ پرنس کو سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد۔ اس کے بعد پچیس جون کو بہت پیاری لکھاری دوست عقیلہ حق کو بھی جنم دن بہت بہت مبارک ہو۔ رُخ چوہدری، شمع حفیظ، عقیلہ حق، زمر نعیم، سنبل، روبینہ شاہین، شمینہ عرفان، یاسمین اقبال، عادل حسین، مسز نوید ہاشمی، ریحانہ مجاہد، انزاہ نقوی، نگہت غفار، سیمارضا ردا اور تحسین عابدی کے خطوط نے مزہ دیا۔ اس سے سوال میں سبل علی کمال کا انٹرویو رہا۔ مئی اسکرین میں صرف اے آر وائی کے ہی ڈرامے کیوں؟ اسماء اعوان نے لائف بوائے کی ایک سچا ساتھ زبردست تحریر تھی۔ میں نے بھی اب لائف بوائے سیمپو ہی کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ رفعت سراج کے ناول دام دل کی چوتھی کڑی نے بھی اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ ایمن اور چمن دونوں نہیں اپنے سسرال کے مسائل میں گھری ہوئی ہیں۔ بس فرق ہے تو صرف اتنا کہ چمن کے ساتھ شمر کا رویہ چمن کے آنسو پونچھ دیتا ہے۔ جبکہ ایمن کا شوہر یاور مکمل طور پر اپنے ماں باپ کی ڈگڈگی پر ناچ رہا ہے۔ اللہ جانے ایمن کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ مجھے تو ایمن کی جان خطرے میں محسوس ہو رہی ہے۔ ناول میں ندانام کے نئے کریکٹر کا اضافہ ہوا ہے۔ اور اسے پڑھتے ہوئے بے ساختہ تنہائیاں کی مرینہ خان کی یاد آ جاتی ہے۔ یا آن کہی کی شہناز شیخ سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا ناول تیرے عشق نچایا میں ام فروا اب بور کرنے لگی ہیں۔ بیانا ناول میں کچھ تو تیزی لاؤ۔ بلال حمید اور مصطفیٰ علی لکتا ہے ایک ہی جگہ پر رک گئے ہیں۔ ماہین اس قسط میں بالکل غائب تھی۔ ملک عمار علی اسے ناول سے باہر تو نہیں لے گئے۔ رحمن رحیم سدا سائیں میں ام مریم جم کے لکھ رہی ہیں۔ اب تمام کردار بیگ ٹو اولڈ کردار نبھانے میں جٹ گئے ہیں اور نئی پود اپنا کردار نبھانے کے لیے آگے آ رہی ہیں۔ فوزیہ احسان رانا کا ناولٹ لکھوں نے خطا کی تھی اپنی دوسری قسط پر بھی زبردست رہا۔ پوری امید ہے لکھوں نے خطا کی تھی بھرپور کامیابی سمیٹے گا۔ افسانوں میں دردانہ نوشین خان، کاشی چوہان اور نگہت اعظمی کا پلڑا بھاری رہا۔ جبکہ احمد سجاد بابر، الماس روحی، راحت وفا راجپوت، حنا اصغر، عادل حسین اور سلمیٰ غزل نے بھی خوب صورت تخلیقات پیش کیں۔ اس کے علاوہ تحسین عابدی، نسیم سحر، آسیہ رحمت، عصمت پروین عظیمی اور عائشہ خان کے افسانے سوسورے۔ انتخاب خاص میں فرخندہ لودھی کا انتخاب نقش پاز بردست رہا۔ تو محمد عظمت اللہ نے بعد از مرگ بھی خوب محفوظ



# قارئین کے نام کھلا خط



محترم قارئین!

”مسئلہ یہ ہے“ کا سلسلہ میں نے خلقِ خدا کی بھلائی اور روحانی معاملات میں ان کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ سچی کہانیاں کے اولین شمارے سے یہ سلسلہ شاملِ اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات پر تحریر و تجویز کردہ وظائف اور دعاؤں سے بلاشبہ لاکھوں افراد نے ناصرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی دنیا میں آیاتِ قرآنی اور ان کی روحانی طاقت نے حیران کر دینے والے معجزے بھی دیکھے۔

ساتھیو! عمر کی جس سیڑھی پر میں ہوں خدائے بزرگ و برتر سے ہر پل یہی دعا کرتا ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کچھ ایسا کر جاؤں کہ میرے دکھی بچے، بچیاں میرے بعد کسی بھی ذریعہ روزگار کو بروئے کار لاتے ہوئے عزت کے ساتھ رزقِ حلال کما سکیں۔

اتنے برس بیت گئے۔ آپ سے کچھ سوال نہ کیا۔ وہ کون سی پیشکش تھی جو نہ ٹھکرائی۔ کیسے کیسے دولت کے انبار ایک طرف کر دیے۔ مگر اب..... وقت چونکہ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کر جاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ مجھے آپ کا تعاون درکار ہے۔

دکھی انسانیت کی فلاح کے لیے..... آئیے اور اپنے باباجی کا ساتھ دیجیے.....

ٹرسٹ میں اپنے عطیات جمع کرائیے۔

مجھے امید ہے۔ اپنے دکھی بھائی بہنوں کا درد محسوس کرتے ہوئے آپ کا اگلا

قدم..... ٹرسٹ میں اپنے تعاون کے لیے ہی اٹھے گا۔



کیا۔ دو شیزہ میگزین کے تمام سلسلے حسب روایات دلچسپ ترین رہے۔ کیجیے تبصرہ تو ہوا مکمل امید ہے رضوانہ پیاری آپ کو تبصرہ پسند آئے گا۔ میری صحت کے لیے تمام دوستوں سے دعا کی درخواست ہے۔ تبصرے کے اختتام پر منزہ، دانیال، زین، رخسانہ بھابی کو بہت بہت سلام اور دعائیں۔ رضوانہ پرنس، کاشی چوہان اور دفتر کے تمام اسٹاف کو بہت بہت دعائیں۔ پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔

بہت عزیز رضوانہ ہمیں تو آپ کی محبت پر حیرت ہو رہی ہے یعنی آپ کو ہماری سالگرہ کی ڈیٹ یاد ہے اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے ہم سب آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ کے تبصرے کا سب ہی کو انتظار رہتا ہے۔

کھ: ریحانہ مجاہد کراچی سے لکھتی ہیں ڈیر رضوانہ السلام وعلیکم! مسی کا جگگ کرتا دو شیزہ کا افسانہ نمبر ملا۔ شدید گرمی میں پیار کا جھونکا محسوس ہوا۔ سب سے پہلے دو شیزہ کی محفل میں شامل ہو گئے۔ وہاں بے شمار خطوط میں اپنا خط پڑھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ ناول 'دام دل' رفعت سراج کی بے مثال تحریر ہے۔ افسانہ 'ٹھنڈی چھاؤں' ماں سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ احمد سجاد بابر کا افسانہ 'کرب آگہی' فکر انگیز تھا۔ کاشی چوہان کا افسانہ بھی دل کو چھو گیا۔ تحسین عابدی کا تمنا بھی حقیقت پر مبنی تحریر ہے۔ رنگ کائنات میں عظمت اللہ کی مزاح سے پُر تحریر بہت پسند آئی۔ دردانہ نوشین خان کا افسانہ 'بارش' میں گلابی ٹہنی ایک اچھوتا افسانہ لگا۔ دو شیزہ گلستان، یہ ہوئی نابات، کچن کارنر، بیوٹی گائیڈ نئے لہجے نئی آوازیں، یہ مستقل سلسلے تو رسالے کی جان ہیں۔ سب کو بے حد سلام و دعا۔

✉: اچھی ریحانہ! انشاء اللہ ہم دو شیزہ کی جگگاہٹ بڑھاتے رہیں گے۔ تم لوگوں کی حوصلہ افزائی ہمیں اپنی دو شیزہ کو مزید سجانے سنوارنے کی تحریک دیتی ہے۔

کھ: افشاں رضا اسلام آباد سے رقم طراز ہیں، ڈیر رضوانہ باجی، دو شیزہ ہمیں ریگولر مل رہا ہے۔ جس دن پوسٹ مین ڈائجسٹ میرے ہاتھوں میں تھماتا ہے تو بہت خوبصورت سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اب تو میرے شوہر اور بیٹے بھی اس کے کچھ سلسلے کافی شوق سے پڑھنے لگے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ دو شیزہ اب ہمارے گھر میں کافی اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ تفصیلی تبصرہ اس لیے نہیں لکھ پارہی ہوں کہ ماشاء اللہ ہمارے یہاں بہت پیارے سے پوتے کی آمد ہوئی ہے۔ بس اسی وجہ سے پورا ڈائجسٹ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا۔

✉: پیاری سی افشاں! دو شیزہ اب تمہارے بیٹوں اور میاں جی کو بھی پسند آنے لگا ہے یہ بات ہمیں مزید خوش کر گئی۔ اور ہاں پوتے کی مبارکباد ہم سب کی طرف سے قبول کرو۔ ویسے تم سے ملنے کے بعد کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اتنی یگ اور پیار ہی سی لڑکی دادی بھی ہو سکتی ہے۔

کھ: کراچی سے شاہانہ احمد خان لکھتی ہیں۔ پیاری رضوانہ جی اور کاشی صاحب! میری جانب سے اتنا خوب صورت افسانہ نمبر نکالنے پر سب سے پہلے مبارکباد قبول کریں۔ مسی کا ٹائٹل اچھا لگا۔ سچ پوچھیں تو موسم کی مناسبت سے ایسے ٹائٹل ڈائریکٹ دل پر اثر کرتے ہیں۔ بادشاہ گرمز دور سے پڑھنا شروع کیا اور دو شیزہ کی محفل میں آگئی۔ کتنا پیارا شعر لکھا آپ نے۔ "روز سوچوں میں بیٹھا کیلی کب غم ہوں



گے دور 'رضوانہ جی! تم اور زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے جو انسان کے جیتے جی قطعاً ختم نہیں ہو سکتا۔ محفل میں بہار آئی ہوئی تھی۔ سب کے خطوط پسند آئے۔ خاص کر عقیلہ حق کا لیٹر بہت زبردست رہا۔ سبجلی سے ملاقات کمال رہی۔ مزہ آیا۔ سبجلی میری فیورٹ اداکارہ ہے۔ میں ان کے ڈرامے بہت شوق سے دیکھتی ہوں۔ لائف بوائے کی کہانی بھی بہت اچھی لگی۔ رفعت سراج کا دام دل کمال جا رہا ہے۔ پڑھ کر بہت مزہ آتا ہے۔ خاص طور پر مجھے فردوس اور ان کے شوہر کا کردار اچھا لگتا ہے۔ افسانوں میں کاشی چوہان کا 'روح دیکھی ہے' بھی اُسے نام کی طرح منفرد رہا۔ دردانہ نوشین خان کا افسانہ 'بارش میں مگھابی' بھی خوبصورت ہے۔ نکلتا 'عظمیٰ، الماس روتی، احمد سجاد ہابر، راحت و فارا جیوت، حنا اصغر اور عادل حسین کے افسانے بہت زبردست تھے۔ عابدہ سین کا ناولٹ 'کچھ ان کہے سے جذبے' بھی شاندار تھے۔ زحمن رحیم سدا سائیں میں ام مریم اپنے کرداروں کو نئے رنگ میں پینٹ کر گئی ہیں۔ ناول پڑھنے میں اب زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ ویل ڈن مریم! خدا کرے زور قلم اور زیادہ۔ مینا عالیہ کا 'تیرے عشق نچایا' خوب ناچ رہا ہے۔ مگر کبھی کبھی اوریت بھی ہونے لگتی ہے۔ ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ امید ہے مینا شاید اس ناول کو اب سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انتخاب خاص اور رنگ کائنات زبردست رہے۔ باقی دیگر مستقل سلسلے میں پسند آئے۔ انشاء اللہ اگلے ماہ پھر حاضری دوں گی۔ اس تبصرے کے ساتھ ایک افسانہ بھی روانہ کر رہی ہوں۔ امید ہے جلد ہی حوصلہ افزائی کی رسید دے دی جائے گی۔

✉: شاہانہ! آپ نے تبصرہ خوب کیا۔ نئے لوگ محفل میں جب اس طرح دلجمعی سے لکھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ انشاء اللہ بہت جلد تمہیں حوصلہ افزائی کی رسید دے دی جائے گی۔

کھ: اسلام آباد سے یہ تبصرہ آیا ہے فرح عالم کا! لکھتی ہے۔ پیاری رضوانہ جی دو شیزہ میں خوش آمدید۔ تبصرہ کافی ماہ بعد لکھ رہی ہوں۔ اس لیے آپ کو ویلکم نہیں کر سکی۔ امید ہے آپ میری غیر حاضری کو درگزر کریں گی۔ ویسے تو دو شیزہ اس وقت انتہائی بلندیوں پر پرواز کر رہا ہے۔ لیکن آپ کی آمد سے لگتا ہے بہار آگئی ہے۔ محفل میں آپ کا سادہ سا انداز ہمیں بہت پسند آیا۔ مٹی کا شمارہ دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ ٹائٹل بہت زبردست تھا۔ خاص کر ماڈل کے کپڑے بہت پسند آئے مع ماڈل۔ کاشی چوہان کے ادارے کی کیا تعریف کریں۔ کاشی بھائی ہمیشہ ہمیں کچھ نیا پڑھنے کو دیتے ہیں۔ زاہد راہ سے ایمان افروز ہوتے ہوئے محفل میں قدم رکھا۔ قدم رکھتے ہی قانونی مشاورت منہ کھولے کھڑی ہوتی ہے۔ سچ میں بہت ڈر لگتا ہے۔ خیر جی کڑا کر کے ہم نے چھلانگ مار ہی دی۔ شمع حفیظ، رخ چوہدری، عقیلہ حق، عادل حسین، زمر نعیم کے تبصرے زبردست تھے۔ مزہ آیا۔ اک تقریب ملاقات کا اشتہار ہمیں بار بار اشتعال دلاتا ہے۔ ٹکٹ کرا کے کراچی جا..... مگر کیا کریں اگر پیروں میں ذمہ داریوں کی بیڑیاں نہ ہوتی تو اس تقریب کے ٹکٹ ہم سب سے پہلے لیتے۔ محفل کے بعد آج کی ہر دل عزیز اور کامیاب اداکارہ سبجلی کے بارے میں پڑھ کر بہت اچھا لگا۔ آج کل آپ لوگ کیا لائف بوائے کی کمپن چلا رہے ہیں۔ خیر ہمیں کیا ہمیں تو لائف بوائے نے ایک بہت خوبصورت سی کہانی پڑھنے کو دی۔ مزہ آیا۔ رفعت سراج کا ناولٹ 'دام دل' دو شیزہ کی جان ہے۔ چمن اور ثمر کے کردار بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ دوسری طرف



ایمن کی مظلومیت دل دکھاتی ہے۔ ایمن کے ساس سرگننے جلاد ہیں۔ اُف توبہ! ان کی باتیں پڑھ کر جہر جہری سی آ جاتی ہے۔ واقعی دنیا اچھے اور بُرے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ ایمن کے حال پر رحم کریں۔ دوسری ناول 'تیرے عشق نچایا میں' بینا عالیہ نے اُم فروا کو بلال حمید سے نجات دلا کر اس کے گھر واپس بھیج دیا ہے۔ پڑھ کر اُم فروا حواسوں پر چھا جاتی ہے۔ ملک مصطفیٰ علی اور ماہین بھی اپنی یاد خوب دلاتے ہیں۔ اُم مریم کا ناول مجھے پہلی قسط سے ہی پسند ہے۔ مریم کے قلم میں جادو ہے۔ جو سرچڑھ کر بول رہا ہے۔ فوزیہ احسان رانا بھی لحوں سے خوب خطا کر رہی ہیں۔ ابھی تو ابتداء ہے۔ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ جب تک کے لیے تبصرہ ادھار رہا۔ افسانہ نمبر میں ماشاء اللہ افسانوں کی بھرمار تھی۔ جن میں دردانہ نوشین خان کا 'بارش میں گلابی ٹہنی' کاشی چوہان کا 'روح دیکھی ہے کبھی' احمد سجاد بابر کا 'کرب آگہی' حنا اصغر کا 'فیصلہ' سلیمی غزل کا 'اصل سے سوڈا اور نگہت' اعظمی کی 'آگ کی کہانی' یادگار رہے۔ باقی تمام سلسلے بھی اپنی سچ دہج کے ساتھ موجود تھے۔ اب مجھے جون کے شمارے کا انتظار ہے۔ جیسے ہی ملا فوراً تبصرہ روانہ کر دوں گی۔ رضوانہ جی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔

✉ فرح تمہارا تبصرہ تمہاری ہی طرح خوبصورت رہا۔ ہم تمہیں بالکل کوئی سزا نہیں دیں گے۔ بلکہ اپنی محبت کی قید میں عمر قید بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنا بنالیں گے۔ تمہیں جون کے شمارے کا انتظار ہے۔ اور ہمیں تمہارے جون کے تبصرے کا۔

کھ: رقیہ یوسف نے ہمیں ڈسکہ سے یاد کیا ہے۔ لکھتی ہیں۔ پیاری باجی میں رسالے بہت شوق سے پڑھتی ہوں۔ لیکن لکھنے لکھانے سے بہت دور ہوں۔ اس بار دل چاہا کہ میں اپنے دوشیرہ کے لیے ایک چھوٹا موٹا خط ہی لکھ ڈالوں۔ یہ بھی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ سچ پوچھیں تو میں فوزیہ احسان رانا کی محبت میں خط لکھ رہی ہوں۔ مجھے فوزیہ احسان رانا کی تحریریں بہت پسند ہیں۔ 'لحوں نے خطا کی تھی' بھی ایک یادگار تحریر ہے۔ فوزیہ جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کی محفل بہت مزے کی ہوتی ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے۔ میں اتنا ڈوب جاتی ہوں کہ بیان سے باہر ہے۔ اُم مریم، عابدہ سین کی تحریریں مزے کی تھیں۔ رفعت سراج کا ناول پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے۔ رفعت بات سے بات خوب نکالتی ہیں۔ یہی تو سینئر اور جونیئر کا فرق ہوتا ہے۔ سچی بات ہے اس مقام تک پہنچنے میں رائٹر جانے کتنا لہو کا پانی بناتا ہے۔ ہم تو بس آدھے گھنٹے میں پڑھ کر فیصلے کر لیتے ہیں۔ لیکن لکھنے والا کس فیز سے گزرتا ہے یہ وہی جان سکتا ہے۔ اس بار افسانے بہت اچھے تھے۔ 'بارش میں گلابی ٹہنی' 'آگ کی کہانی' 'روح دیکھی ہے کبھی' 'امز' 'تمنا مذاق' 'فیصلہ' تمہارا ساتھ چاہیے چمکیلا بکل بہار آئے گی اصل سے سوڈا ضرب آگہی' سب افسانے ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ باقی سب سلسلے پڑھ کر بھی بہت مزہ آیا۔ باجی جی امید ہے آپ میرے خط کو ٹوکری کی زینت نہیں بنائیں گی۔

✉ اچھی رقیہ! لو ہم نے تمہارا لیٹر رڈی کی ٹوکری کے حوالے نہیں کیا۔ تمہارا تبصرہ بہت اچھا تھا۔ امید ہے اگلے ماہ تم ہمیں پھر سے خط روانہ کرو گی۔

کھ: حنیفہ بیگم، کراچی سے اپنے تبصرے کے ساتھ موجود ہیں۔ لکھتی ہیں۔ دوشیزہ کا افسانہ نمبر مہینے



کی ابتدائی تاریخ میں موصول ہو گیا تھا۔ ٹائٹل دیکھ کر اچھا لگا۔ پلیزی یہ فولڈنگ ٹائٹل کا سلسلہ بند کر دیں۔ سارے رسالے کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ افسانہ نمبر میں اتنے سارے افسانے دیکھ کر دل بلیوں اُچھلنے لگا۔ افسانوں کی تعداد تو زیادہ تھی مگر دلچسپ افسانے چند ہی تھے۔ جن میں کاشی چوہان، دردانہ نوشین خان، نگہت اعظمی اور احمد سجاد بابر کے افسانے شاندار رہے۔ اس کے علاوہ افسانے موضوع کے حساب سے تو الگ تھے۔ لیکن بہت دلچسپ نہیں۔ ناولٹ دونوں ہی زبردست تھے اور دو شیزہ کے سلسلے وار ناول بھی ہر ماہ اگلی قسط کا انتظار کرواتے ہیں۔ رفعت سراج میری پسندیدہ رائٹرز میں سے ہیں۔ رفعت سراج کا ناول 'دام دل' ہر مہینے انتظار کرواتا ہے۔ رفعت سراج کے دیگر ناولوں کی طرح یہ ناول بھی اپنی مثال آپ ہے۔ رفعت کو ہر طرح کے روداد لکھنے میں ملکہ حاصل ہے۔ دام دل واقعی شاہ کار ناول ہے۔ سبلی علی اس بار سے سوال میں موجود تھی۔ سبلی علی کی معصومیت بہت بھلی لگتی ہے۔ سبلی بلاشبہ آج کی سب سے کامیاب اداکارہ ہے۔ لولی ووڈ، بولی ووڈ، دو شیزہ گلستاں، یہ ہوئی نا بات، نفسیاتی الجھنیں وغیرہ بہت اچھے سلسلے ہیں۔ اب اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھئے گا۔

✉ حنیفہ جی! سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے۔ اب تک آپ کہاں غائب تھیں۔ آپ کا تبصرہ بہت اچھا لگا۔ رفعت سراج تک آپ کی تعریف ان سطور کے ذریعے پہنچائی جا رہی ہے۔

کھ: شکفتہ شفیق کراچی سے ہنسی مسکرائی آئی ہیں پیاری رضوانہ السلام وعلیکم! کیسی ہیں آپ، اللہ سے امید ہے کہ باخیر ہوں گی۔ مئی کا خوبصورت دو شیزہ بے حد پسند آیا۔ آپ کے دوبارہ دو شیزہ فیملی میں شامل ہونے سے بہت پوزیٹو تبدیلیاں آرہی ہیں۔ افسانوں میں سارے ہی اچھے پیارے تھے پر بارش میں گلابی ٹہنی کا جواب نہیں۔ آگ کی کہانی اور روح دیکھی ہے کبھی بھی بہت اچھے لگے۔ رضوانہ ہم نے ایک اچھی سی کامیابی حاصل کی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہم کو میٹروون ادبی فورم اور انڈس ادبی فورم کے زیر اہتمام شاعرانہ کاوشوں پر 20 مئی کو انڈس یونیورسٹی میں گولڈ میڈل اور شیلڈ سے نوازا گیا۔ وہاں ہم نے یہ ہی کہا کہ اللہ کے فضل سے محبت اور حوصلہ افزائی جس کو حاصل ہو اس کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اور ہم کو تو زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں کے ساتھ محبت اور ستائشیں بے تحاشا ملی ہیں۔ جس سے میری صلاحیتیں نکھرتی چلی گئیں۔ میں ہمیشہ آپ سب کی محبتوں کی طلب گار رہوں گی۔

✉ پیاری دوست! تمہاری اتنی بڑی کامیابی پر لفظ مبارکباد چھوٹا لگ رہا ہے۔ اللہ تمہیں مزید شہرت کی بلندیوں پر لے جائے اور ہماری بہت پیاری بہادر اور پازٹیو شکفتہ ہمیشہ ایسے ہی خوش اور سلامت رہے۔

اچھا ساتھیوں اب ہمیں اجازت دیجیے اور ہاں یاد رہے کہ ہمارا اگلا شمارہ عید نمبر ہوگا۔ عید کی مناسبت سے آپ کے فیورٹ رائٹرز کے افسانے یقیناً آپ کو عید سے پہلے ہی عید کا مزہ دیں گے۔ سولینا نہ بھولے گا۔

دعاؤں کی طالب

رضوانہ پرنس



## یمنی زیدی

دیشان قراز



♥: اگر میخ کیا جائے تو کچھ مشکل نہیں ہوتا۔  
 ☆: کوئی ایسی خواہش جو اب تک پوری نہ ہوئی ہو؟  
 ♥: اپنا گھر۔  
 ☆: اپنی کون سی عادت بہت پسند ہے؟  
 ♥: دوسروں کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ یہ عادت اپنی پسند ہے۔  
 ☆: اپنی کون سی عادت سخت ناپسند ہے؟  
 ♥: بہت جلد غصے میں آ جاتی ہوں۔ یہ عادت اپنی سخت ناپسند ہے۔  
 ☆: کون سا کردار ہے جو آپ ادا کرنا چاہتی ہیں؟  
 ♥: ابھی میں نے کیا ہی کیا ہے؟ میں بہت سارے کردار ادا کرنا چاہتی ہوں  
 ☆: اردو والے ”سفر“ کا ذریعہ کیا ہے؟  
 ♥: اپنی گاڑی ہے۔  
 ☆: صبح کا آغاز کس طرح کرتی ہیں؟  
 ♥: صبح صبح دل چاہتا ہے اپنے ہاتھ سے سب کے لیے ناشتا بناؤں  
 ☆: دن کا کون سا پہرا اچھا لگتا ہے؟  
 ♥: شام اور صبح کا پہر بہت اچھا لگتا ہے۔

☆: وہ نام جو شناخت کا باعث ہے؟  
 ♥: یمنی زیدی۔  
 ☆: گھر والے کیا کہہ کر پکارتے ہیں؟  
 ♥: دوست مجھے یمنی، ایم، بابا مجھے سمو کہتے ہیں جبکہ امی یمنی ہی کہتی ہیں۔  
 ☆: وہ مقام جہاں سے آشنا ہو کر آنکھ کھولی؟  
 ♥: کراچی  
 ☆: زندگی کس برنڈ (star) کے زیر اثر ہے؟  
 ♥: اسد۔ (Leo)  
 ☆: علم کی کتنی دولت کمائی؟  
 ♥: انٹریئر ڈیزائننگ میں ماسٹر کیا ہے۔  
 ☆: کتنے بھائی بہن ہیں۔ آپ کا نمبر؟  
 ♥: تین بہنیں، میرا نمبر تیسرا ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔  
 ☆: اداکاری کے لیے اپنی طبیعت اور مزاج کے برعکس موڈ بنانا ضروری ہوتا ہے؟  
 ♥: بالکل۔  
 ☆: اس زندگی میں کون سا کام سب سے مشکل ہے؟



اور آسمان ٹہنے بہت پسند ہے۔  
 ہنلا: موت خوف کا باعث ہے؟ اور اس کے  
 علاوہ ڈرنے کی کوئی وجہ؟  
 ♥: موت سے ڈر نہیں لگتا۔ بس دعا کرتی  
 ہوں خدا سب کو عزت کی موت دے۔  
 ہنلا: فراز کے اس خیال پر کس حد تک یقین  
 رکھتی ہیں کہ دوست ہونا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا؟  
 ♥: سو فیصد۔  
 ہنلا: کھانا گھر کا پسند ہے یا باہر کا فاسٹ فوڈ؟  
 ♥: امی کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے۔  
 ہنلا: زندگی کے معاملات میں آپ تقدیر کی  
 قائل ہیں یا تدبیر کے؟

ہنلا: کون سے ایسے معاشرتی رویے ہیں جو  
 آپ کے لیے دکھ اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں؟  
 ♥: جن کے لیے آپ بہت کچھ کریں اور  
 وہ ریٹرن میں آپ کو اتنے بھھے الفاظ بھی نہ دیں تو دکھ  
 ہوتا ہے۔  
 ہنلا: دولت، عزت، شہرت، محبت اور صحت اپنی  
 ترجیح کے اعتبار سے ترتیب دیجیے۔  
 ♥: عزت، محبت، صحت، شہرت، دولت۔  
 ہنلا: سمندر کو دیکھ کر کیا خیال آتا ہے؟  
 ♥: پانی! خدا کی بہترین تخلیق ہے۔ خدا کی  
 قدرت پہ پار آتا ہے۔ سمندر نعمت ہے۔  
 ہنلا: خود ستائشی کی کس حد تک قائل ہیں؟



♥: دونوں کی۔  
 ☆: ویک اینڈ کیسے گزارتی ہیں؟  
 ♥: گھر پر..... گھر والوں کے ساتھ۔  
 ☆: شو بزم میں آمد کسے ہوتی؟  
 ♥: اچانک آمد ہوگئی۔ پتا ہی نہیں چلا۔  
 ☆: وجہ شہرت کون سا پروگرام بنا؟  
 ♥: خوشی ایک روگ کے کردار نے پہچان دی۔

♥: جس حد تک ہرگز تو ہونا چاہیے۔  
 ☆: کبھی غصے میں کھانا پینا چھوڑا؟  
 ♥: غصہ بہت آتا ہے مگر کھانا پینا کیوں چھوڑا  
 جائے اس حالت میں؟ یہ تو نری بے وقوفی ہوتی۔  
 ☆: آپ کی نظر میں خدا کی حسین تخلیق کیا ہے؟  
 ♥: پانی..... دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے  
 اور پینے کا بھی اپنا مزہ ہے اور چاند بہت اچھا لگتا ہے



☆ سال کے کس دن کا بے چینی سے  
انتظار رہتا ہے؟

♥: جب کوئی تقریب ہو فیملی یا خاندان میں۔  
☆ آپ کی نظر میں بہترین تحفہ کیا ہے؟  
♥: میری امی کی نصیحتیں۔

☆ محبت کا اظہار کس طرح کرتی ہیں؟  
♥: ہر شخص کا اپنی محبت کا اظہار مختلف ہوتا ہے میرا  
خیال ہے کہ کچھ چیزوں میں پرائیویسی اچھی ہوتی ہے۔

☆ ہمارے معاشرے کی کوئی اچھی اور بری بات؟  
♥: ہمارے یہاں قانون کی پابندی نہیں  
ہے۔ جس دن ہم قانون کی پابندی کرنے لگیں گے اسی  
دن سے ہمارا شمار ترقی یافتہ قوموں میں ہوگا۔

☆ بوریت دور کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں؟  
♥: ڈانس، ہلہ گلہ (اگر گھر میں اکیلی ہوتی  
ہوں تو.....)

☆ شہرت، رحمت ہے یا زحمت؟  
♥: دونوں! بالکل۔  
☆ کیا آپ اچھے رازداں ہیں؟  
♥: سو فیصد۔

☆ عام لوگوں سے ایک اداکار کی زندگی  
کتنی مختلف ہوتی ہے؟

♥: کچھ لوگ اداکار بن کر دوہری زندگی  
گزارنے لگتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ عام لوگوں  
اور اداکار کی زندگی زیادہ مختلف نہیں ہوتی۔

☆: آئینہ دیکھ کر کیا خیال آتا ہے؟  
♥: خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔

☆: ”ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا“  
کس حد تک عمل کرتے ہیں؟

♥: جس حد تک ممکن ہو سکے۔  
☆: کس ملک کی شہریت لینا چاہتے ہیں؟

♥: کسی کی نہیں۔ مجھے پاکستان بہت اچھا لگتا

ہے۔ میں بہت محبت وطن ہوں۔ بس یہی دعا کرتی  
ہوں کہ ہمارے ملک کے حالات جلد اچھے ہو جائیں۔

☆: زندگی کب بری محسوس ہوتی ہے؟  
♥: زندگی کبھی بری نہیں لگتی۔ زندگی بہت حسین ہوتی ہے۔  
☆: مطالعہ عادت ہے یا وقت گزاری؟  
♥: عادت۔

☆: انٹرنیٹ اور فیس بک سے لچپسی کس حد تک ہے؟  
♥: کچھ خیال نہیں۔ لیکن روزانہ چیک ضرور  
کرتی ہوں۔

☆: کون سا چینل شوق سے دیکھتی ہیں؟  
♥: Discovery اور کوکنگ چینلز شوق  
سے دیکھتی ہوں۔

☆: کس تاریخی شخصیت سے ملنے کی خواہش مند ہیں؟  
♥: مرزا اسد اللہ خان غالب۔

☆: کن چیزوں کے بغیر سفر ممکن نہیں؟  
♥: ڈاکٹ، سیل فون اور گاڑی۔

☆: کون سی ڈش بہت اچھی بنا لیتی ہیں؟  
♥: آلو گو بھی اور آلو بینگن بہت پسند ہیں اس  
لیے بہت اچھا پکاتی ہوں۔ بریانی بھی اچھی پکا لیتی  
ہوں۔ مگر سبزی کا اپنا ہی مزہ ہے۔

☆: کون سا تہوار شوق سے مناتے ہیں؟  
♥: دونوں عیدیں اور ویلنٹائن ڈے۔

☆: لباس میں کیا پسند ہے؟  
♥: شلوار قمیض۔ ویسے تو ہر طرح کی ڈریسنگ  
کرتی ہوں۔

☆: اگر آپ کو حکومت مل جائے تو کیا کریں گی؟  
♥: سارے نظام ٹھیک کر دوں گی۔

☆: حرف آخر کیا چاہنا چاہیں گے؟  
♥: اپنے وطن سے پیار کریں اور ہمیشہ محبت  
وطن رہیں۔

☆☆.....☆☆



# اے آروائی کے خوبصورت پروگرام

مشخ

پسند کرتی ہے۔ عمران اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کے والد ملک سے باہر ہیں۔ ذرش سے ایک غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اُس کے اپنے بھی اُس کی اس غلطی کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ جس میں اس کا منگیترا عمران (جو اس کا چچا زاد بھی ہے) شامل ہے۔ نجمہ بیگم جو اپنے بیٹے اشعر کے لیے ذرش کو اپنی بہو

اے آروائی ڈیجیٹل اور اے آروائی زندگی سے اے آروائی اس دفعہ دکھا رہا ہے سیریل میرے درد کی تجھے کیا خبر اور سوپ راجہ اندر۔ سیریل میرے درد کی تجھے کیا خبر کی کہانی کچھ یوں ہے ذرش جس کے باپ کا انتقال اُس کے بچپن میں ہو گیا تھا۔ مگر یہ ایک خوشحال گھرانہ ہے۔ ذرش اور ارم کی



سیریل میرے درد کی تجھے کیا خبر میں حسن احمد رباب ہاشم اور احسن خان

بانا چاہتی تھیں۔ وہ بھی ذرش سے ناراض ہو گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ذرش سے ایسی کیا غلطی ہو گئی جس کا خمیازہ اُسے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس سیریل کو تحریر کیا ہے۔ رُخسانہ نگار نے جبکہ ہدایت کار حمید بھٹی ہیں۔ سیریل کے فنکاروں میں رباب ہاشم، احسن خان، حسن احمد، فرح شاہ، روبینہ اشرف، عائشہ خان، حسن نازی، منزہ وقاص، شیم ہلالی، حمیرا

ماں ایک ڈرپوک خاتون ہیں اور بہت احتیاط سے زندگی گزارنے کی قائل ہیں۔ ذرش کی والدہ کی سہیلی نجمہ بیگم بہت محبت کرنے والی خاتون ہیں مگر ذرش انہیں بالکل پسند نہیں کرتی، جبکہ نجمہ بیگم اپنے بیٹے اشعر کا رشتہ ذرش کے لیے دیتی ہیں۔ ذرش سادہ لوح اور محبت کرنے والی لڑکی اور اس کا رشتہ اس کے کزن عمران سے طے ہو چکا ہے۔ ذرش عمران کو



آروائی زندگی سے دکھایا جائے گا۔

پروگرام 'لیکچر کارو کے' یہ موسیقی سے وابستہ شو ہے، جس میں گلوکار مختلف واقعات کے سامنے حالات کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے ہوسٹ کریشن ہیں۔ یہ پروگرام ہفتہ اور اتوار کی رات 8 بجے دکھایا جائے گا۔ سیریز 'بھابی جی گھر پر ہیں' سوپ 'بندش' سوپ 'عاشقی' کامیڈی شوڈی گریٹ فیمیلی ڈرامہ 'لیکچر کارو کے' یہ تمام پروگرام ARY زندگی سے دکھائے جائیں گے۔

اے آروائی زندگی سے سوپ 'راجہ اندر' کو عوام بہت پسند کر رہے ہیں۔ اس کی کہانی کا ٹریک ذکی صاحب کے خاندان کے گرد گھومتا ہے۔ ان کی بیگم نور جہاں کے 4 بچے ہیں۔ مزاج ان کے بیٹوں کے بہت خراب ہیں اور مزاج میں غرور کی انتہا پائی جاتی ہے۔ جبکہ بیٹیوں کو آف تک کرنے کی اجازت نہیں۔ اسے تحریر کیا ہے قرۃ العین نے جبکہ ہدایت کار نین



سیریل 'راجہ اندر' میں ردا اصغہانی اور فائق خان

منیار ہیں یہ خوبصورت سوپ ARY زندگی سے پیر سے لے کر جمعرات تک روزانہ رات 9 بجے دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے فنکاروں میں ریحام علی، شامین خان، فائق خان، عدنان جیلانی، سلمیٰ ظفر، شہزاد رضا، پروین اکبر اور ناہید شہبیر قابل ذکر ہیں۔

☆☆.....☆☆

زین، احمد زیب اور اکرم عباسی قابل ذکر ہیں۔ 'میرے درد کی تجھے کیا خبر' ہر ہفتے کی رات 8 بجے اے آروائی ڈیجیٹل سے دکھائی جا رہی ہے۔

دوسری خوبصورت ڈرامہ سیریز 'بھابی جی گھر پر ہیں' اے آروائی زندگی سے دکھائی جا رہی ہے۔ اس کی کہانی دو پڑوسیوں کی آپس کی تکرار پر مبنی ہے۔



سیریل 'راجہ اندر' میں راجہ علی

اس کے فنکاروں میں سمیہ، شڈو، گوہر، شلیپا منڈی اور آصف شیخ قابل ذکر ہیں۔ یہ سیریز اے آروائی زندگی سے پیر سے لے کر جمعہ تک روزانہ رات 8 بجے دکھائی جائے گی۔

سوپ 'بندش' ایک ایسی معصوم لڑکی کی کہانی ہے جو دنیا کی رسم و رواج کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے۔ اس سوپ کے فنکاروں میں نسیم تاجوانی، مکھی، راہی شندن اور روحانہ خان قابل ذکر ہیں۔ سوپ 'بندش' پیر سے لے کر جمعہ تک اے آروائی زندگی سے رات 8:30 بجے دکھایا جائے گا۔ سوپ 'عاشقی' پیار کی ایک کہانی، جہاں پر خود اپنی منزل کی تلاش میں ہے۔ اس کے ہدایت کار مصطفیٰ سوگی ڈوگن ہیں، جبکہ اسے تحریر کیا ہے فلز نے۔ اس کے فنکاروں میں سرکن، نیل پری، فاطمہ، نیسلین مل ڈن شامل ہیں۔ یہ سوپ پیر سے لے کر جمعرات تک رات 9:30 بجے اے



# Life Buoy

## میرا سپنا سچ ہوا

### اسماء اعوان

حقیقت سے جڑی وہ کہانیاں، جو اپنے اندر بہت  
سارے دکھ سکھ اور کامیابی کے راز پنہاں رکھتی ہیں



”دادی اماں ہمیں بھی چھالی دیں۔ ہم بھی کھائیں  
گے۔“ پاس ہی سپارہ کو بند کرتی نوینہ نے، پوری توجہ  
دادی اماں کے پاندان پر لگادی۔

آج میں از مینہ حسین آکسفورڈ یونیورسٹی کی اسکالر  
شپ تقریب میں بیٹ ففٹی اسٹوڈنٹس کی Scals پر  
بیٹھی ہوں۔ چند ہی لمحوں میں، میں آکسفورڈ سے فارغ  
التحصیل ہو جاؤں گی اور اپنے پاکستان کی کسی بھی اہم پو  
سٹ پر وطن واپسی پر اپلائی کروں گی اور انشاء اللہ کوئی  
بھی آپ گریڈ آفیسر کا رینک کمرے کے باہر میرا نام  
نمایاں کرنے کا سبب ہوگا۔

”ارے بیٹیا! سپارہ پڑھو، قرآن پڑھتے وقت کچھ  
نہیں کھاتے۔“ اتابی سمجھاتے ہوئے بولیں۔

”اے ہاں تو اور کیا۔ بچی تو سپارہ پڑھ لے۔ نشرہ یہ  
تجھے نیا پاندان لا کر دوں گی۔“ بادشاہی دادی نے چٹا  
چٹ کتھا چونانگی کی پوروں سے چاٹ کر کہا تھا۔  
”دادی بس ایک دانہ۔“

مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے۔ وہ بڑا سارا صحن..... جس  
میں بادشاہی دادی، پوری روایات کی امین بنی بیٹھی ہوتی  
تھیں اور میری ای ہمیشہ سے لائف بوائے شیمپو سے  
میرے بال دھو کر میرے بالوں کے تمام مسائل حل کیا  
کرتی تھیں۔ لائف بوائے شیمپو ہی کی بدولت میرے  
بالوں کی چمک اور صحت مندی قائم ہے، جو میری شاندار  
کامیابی میں بھی معاون ثابت ہوئی۔ وقت نے آواز دی  
ہے..... مجھے تھوڑا سا اپنے بچپن میں جانے دیں۔

اُس نے کچھ ایسی معصومیت سے کہا کہ دادی کا دل  
محبت سے جوش مارنے لگا۔

”اے اتابی رے دونہ، ایک دانہ۔ اللہ تو ڈرہ نواز  
ہے۔ بخشنے والی ذات بھی۔ اللہ رکھے سیانی ہوگی تو خود ہی  
سمجھ جائے گی۔“

یوں دو دانے نوینہ کو بھی مل گئے اور وہ بھی دادی کے  
انداز میں چھالیہ سے کٹر کٹر کرنے لگی۔ اتابی کو غصہ تو آیا  
تھا، مگر جی مسوس کر رہ گئیں۔ ان کی اچھتی سی نظر مجھ پر  
پڑی۔ میں ہمیشہ کی طرح کمرے کے اندر کھڑی تھی۔ مگر  
وہ کچھ نہ کہہ سکیں۔

”ہونہہ زبان موٹی ہو جائے گی نا پھر پتا چلے گا۔“ وہ بھڑاس  
نکالتی دل میں بولتی پھر سے سپارہ کھول کر سبق یاد کرانے لگیں۔  
اس سے میرا بھی کتنا دل چاہتا تھا کہ کاش میں بھی منہ  
میں دو دانے چھالیہ کے لے کر نوینہ کی طرح کٹر کٹر کرتی،

☆.....☆  
”ارے اتابی! ہمارے ہاں تو یہ ہوتا تھا کہ ادھر بچی  
نے قرآن ختم کیا اور ادھر اُس کی نشرہ کی تیاری شروع۔  
بھیارے، ایسا بھاری چٹاپٹی کا غرارہ سلتا تھا کہ جس کی  
مثال نئی نہیں ملتی تھی۔“ بادشاہی دادی نے چاندی کے  
پاندان کا ڈھکن الٹا اور گیلے کپڑے میں بندھے پان کے  
ٹکڑے نکال کر کتھا چونانہ لگانا شروع کیا۔ بان لگا کر  
طشتری میں رکھے اور سرتوتے سے چھالیہ کاٹنے لگیں۔



اس ذائقے کا مزا اٹھاؤں۔ اپنے سر پر لگی تارا میرا کے تیل اور مکھن کے پیسٹ کو محسوس کر کے میں دل مسوس کر رہ گئی۔ میرے بال ہی نہیں بڑھتے تھے۔ حالانکہ نو سال کی عمر میں تو بچوں کی ادھر ٹنڈ ہوئی ادھر بالوں کی گھاس نے سر پر اندھیرا ڈال دیا۔ میں بس اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر رہ گئی۔ مجھے یاد ہے اس تیل اور مکھن سے بھی میری جان لائف بوائے شیمپو ہی نے چھڑائی تھی۔ کیونکہ لائف بوائے شیمپو فقط شیمپو ہی نہیں بلکہ بالوں کے مسائل کا علاج بھی ہے۔

☆.....☆

اُس دن پھر سے اتا بی کے آنے پر محفل کا سماں تھا۔ ”اے اتا بی۔ بڑی پیاری آواز ہے تمہاری۔ اے ذرا وہ گانا تو سنا دو جو تم نے اس دن سنایا تھا۔ ہمارا بھی زمانہ تھا۔ بڑے بڑے گیت ٹھسے سے گاتے تھے۔ سچی، کوئی بارات، شادی ہمارے گائے بنا بے رونق ہی رہتی تھی۔“ بادشاہی دادی اتا بی کو گانے کے لیے اکسانی، اپنے زمانے میں کھوسی گئیں۔

”بس ذرا چائے پی لوں، پھر سناؤ ہوں۔“ نوینہ پڑھ کر جا چکی تھی اور اتا بی اب آزاد تھیں۔ وہ مجھے پاس بٹھائے ہوئے تھیں۔ بادشاہی دادی کا موڈ کچھ بہتر تھا۔ اس لیے فرمائشی پروگرام شروع ہو گیا تھا۔

”آج وہ والا سناؤں گی، جو ہماری حیدرآبادی بڑوں کے ہاں بیاہ شادی میں گایا جاتا تھا۔“ اتا بی بھی ترنگ میں آگئیں۔ ”اے دلہن! جلدی سے باہر آؤ۔“

ساس کی آواز پر لبیک کہتی۔ سفینہ بھی خوشگوار موڈ میں آکر بیٹھ گئیں اور اتا بی نے اپنی لوچ دار آواز میں گانا شروع کیا۔

دھوم گھر گھر مچی

میرے مخدوم کی.....

امیر خسرو کا گیت ختم کر کے اتا بی ذرا کی ذرا سانس لینے کو رکھیں تو بادشاہی متاثر ہو کر بول اٹھیں۔

”بھئیارے، اتا بی! بھئی اب آواز میں اتنا دم ہے تو جوانی میں کیا عالم ہوگا۔“ بڑی بی آواز کے سحر میں کھوسی گئی تھیں۔

اتا بی خوشی خوشی تعریف بٹور رہی تھیں۔ ”نعیتیں، گانے، نوالی سب گاتی تھی میں۔ وہ جو عشرت کی ساس

تھیں۔ اللہ بخشے، ہر جمعرات کو تو الی سنتی تھیں مجھ سے۔“ ”اتا بی، اب کی میلاد آپ ہی پڑھنا ہمارے ہاں۔“ سفینہ نے سبتے کی بات کی تھی۔

”اور کیا میرے منہ کی بات چھین لی۔ ہتے آج کل تو کیسی کیسی میلاد والیاں آجاتی ہیں۔ دوپٹہ نہ اوڑھیں تو آواز سے مرد لگیں۔“ بادشاہی دادی کو غصہ ہی تو آ گیا تھا۔ ”اے میں تو کہتی ہوں۔ یہ تو نبی کا ذکر، نبی کی تعریف ہے۔ جتنی خوب صورت آواز ہو، اتنا ہی اچھا لگے۔“ دادی نے رساں سے بولتے ہوئے تائیدی نظروں سے بہو کی جانب دیکھا تھا۔

”بالکل، تو بس اتا بی آپ ہی ہمارے ہاں اب کے میلاد پڑھیں گی۔ ارے ہاں، آپ ہدیہ کیا لیں گی؟“ سفینہ نے اہم بات پوچھی تھی۔

”اے بی بی آپ جو دیں گی رکھ لوں گی۔ بھلا اس محفل کا دام ہوتا ہے یہ تو آج کل عورتوں نے دھندا بنا لیا ہے۔ اللہ توبہ، توبہ استغفار۔ میں تو بھئی دل سے نبی کا میلاد پڑھتی ہوں۔ کوئی دے دے تو ٹھیک، ورنہ کوئی بات نہیں۔ سرکار کی محبت میں خدا دال دلیے کا آسرا کر دیتا ہے، بہت ہے بھئی۔“ اتا کہتے کہتے اتا بی کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے۔

☆.....☆

”اے دلہن میرا خیال ہے علی شیر کی بات اس ماہ چکی کرے دیتے ہیں۔ ذکن (ذکیہ) بھی رات دن تقاضا کر رہی ہے۔ تم کہو کیا کہتی ہو۔“ بیسی پراٹھوں کے لیے آئے ہوئے بیسن کو چھان پھنک کر رکھتی، سفینہ کے ہاتھ رُک سے گئے تھے۔

”اماں! ذکن خالہ کی انارکلی ہی ملی، آپ کو علی شیر کے لیے۔ میں اس معاملے میں بالکل کچھ نہیں بولوں گی۔ آپ علی شیر سے بات کیوں نہیں کر رہیں جس نے زندگی گزارنا ہے۔ اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں۔“ سفینہ کو اس موضوع پر ہمیشہ کی طرح اختلاف تھا۔

نو شاہ کو اپنی خوب صورتی پر ہمیشہ سے ناز تھا اور علی شیر ماشاء اللہ اب فوج میں میجر ہو گیا تھا۔ سفینہ نے شادی کے بعد دیپور سے بھائیوں کی طرح محبت کی تھی۔ ساس کے جذباتی فیصلوں پر جزبز ہونا فطری بات تھی۔

”اے وہ کیا اعتراض کرے گا۔ میں کہتی ہوں اگر تمہارا کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ مجھے علی شیر پہ پورا بھروسہ ہے۔ سیدھا بچہ ہے میرا۔“



ہے۔ بھیا بیل نظر نہیں آتی یا ڈرتے ہیں بیل بجانے سے لوگ۔ اے رکو! کون ہے خدائی فوجدار۔ بھیارے بہت ہی ظالم ہے۔ جو بھی ہے۔“

سفینہ بیگم دروازے پر جا چکی تھیں۔ واپسی پر اور لائف بوائے سیمپو کی اسکاٹرشپ اسکیم پر موٹ کرنے والی دو نازک نازک لڑکیاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔  
”اسلام و علیکم!“ جھرنے جیسی ایک آواز میں دونوں نے بادشاہی بیگم کو سلام کیا۔

”وعلیکم سلام! ارے یہ تو بتاؤ بھتو۔ کیا تم جنگل بیابانوں سے آرہی ہو! مارتیرے دروازے کو پیٹ پیٹ کر کان پھاڑوے۔“

بڑی بی بی نے کلس کر بھڑاس نکالی۔ ایسی آوازیں ان کی سماعت پر بار جو تھیں۔

”سوری! غلطی ہوگئی۔ لیجیے ہم غلطی کا مداوا بھی کرے دیتے ہیں۔ نیلم! آئی کے لیے الگ سے دو لائف بوائے سیمپو کے ساتھ ہماری طرف سے گفٹ کرو۔“  
”او کے میڈم!“ نیلم نے پھرتی سے اپنے بیگ سے دو ساتھ بادشاہی بیگم کو پیش کیے۔

”اے بی بی! ہٹاؤ پرے انھیں۔ میں کہاں شیمپو استعمال کروں ہوں۔ اس بڑھاپے میں یہ چاندی چمکا کر کسے دکھایوں گی۔ اللہ بخشے تمہارے انکل زندہ ہوتے تو اور بات تھی۔“

بادشاہی بیگم دور خلاؤں میں گھورنے لگی تھیں۔

”ارے اماں! رکھ لیں۔ کیوں بچیوں کا دل توڑتی ہیں۔“ سفینہ نے رسائیت سے کہا۔

”آپ بیٹھیں میں آپ کے لیے ٹھنڈا لے کر آتی ہوں۔“ سفینہ انھیں بٹھا کر شربت بنا کر لے آئی۔

”آئی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہمیں گھر میں بیٹھنے کی پریشن ہے۔ پلیز آپ اب ہماری بات سن لیں۔“

”اب میں مطمئن ہوں۔ اتنی جھلساتی گرمی میں گھر گھر گھوم رہی ہو۔ اللہ معاف کرے۔ ٹھنڈا پوچھنا تو میرا فرض تھا۔ اب بتاؤ۔ کیا اسکیم ہے۔“

”آپ یہ لائف بوائے سیمپو کی کٹ لیجیے۔ اس میں دو بڑی بوتلیں لینے پر آپ کو پن بھریں گی اور اس کے ساتھ یہ لائف بوائے سیمپو کے پانچ ساتھ فری ہیں۔“

”اسی لیے تو کہہ رہی ہوں۔ علی شیر واقعی سیدھا سا ہے مگر نوشاہ سیدھی نہیں ہے۔ بہت تیز طرار ہے وہ۔ آپ کیسے آنکھوں دیکھیں کبھی نگل سکتی ہیں۔“

”اے اپنے باوا کے گھر میں سب ہی تیز ہوتے ہیں۔ کیا تم گونگی تھیں۔“

”اماں، اتنا تیز بھی کوئی نہیں ہوتا۔“ سفینہ کلس کر رہ گئی تھیں۔

”دادی اماں! چاچو کی شادی میں کتنا مزہ آئے گا۔“ نوینہ اور میرے پلے جو پڑا ہم اپنی دانست میں تالیاں بجائی، دادی کی گود میں چڑھ گئیں۔ اتنے میں دروازہ بج اٹھا۔

”دلہن دیکھو ذرا کون آگیا، دن چڑھے۔“ سفینہ دروازہ کھولنے لگی تو سامنے علی شیر بیگ لیے کھڑا تھا۔

”السلام علیکم من اہل القبور۔“ علی شیر شوخی سے کہتا ہوا بیگ ایک طرف رکھتا ماں کے آگے سر جھکائے کھڑا تھا۔

انہوں نے سر پر پیار دیا اور ایک ہلکی سی چپت بھی لگائی۔  
”جگ جگ جیو اور پھر بد معاشی!! کیا تو نے قبرستان میں پیر رکھا ہے۔ جو مردوں کو سلام کر رہا ہے۔“

”ارے اماں جان، اتنا سنا دیکھ کر بولا تھا۔“

نوینہ چاچو کی گود میں چڑھ گئی۔ وہ ہر کام میں دو قدم آگے تھی۔ مجھے آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی تھی۔ ”چاچو ہمارے لیے کیا لائے؟“

”ارے بیٹا اتنی دور سے آیا ہے۔ ذرا چھری تلے دم تو لینے دے چاچو کو۔“

”بھئی! اس بیگ میں بہت بڑی گڑیا ہے تم دونوں لیے، لیکن میں تھوڑی دیر بعد خود نکال کر دوں گا۔“ علی شیر نے دونوں بھتیجیوں کو سلی دی۔

”تیرے سناٹے بھی ختم کرنے کی سوچ رہی ہوں۔ اب کی رمضان، تجھے بھی بڑی ساری گڑیا سے باندھ دوں گی۔“ بادشاہی بیگم مسکراتے ہوئے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتی بولی تھیں۔

”جی اماں۔ کیا مطلب؟“ وہ ہکھلایا۔

”فریش ہو جاؤ۔ مطلب بھی سمجھ میں آجائے گا۔“

سفینہ اس کے کپڑے ہاتھ روم میں ٹانگ آئی تھیں۔

علی شیر نہ سمجھتے ہوئے اٹھا اور ہاتھ روم میں چلا گیا۔ علی شیر کے جاتے ہی دروازہ پھر سے دھڑا دھڑ بجنے لگا۔  
”اے دلہن! دیکھو تو ذرا کون کواڑ توڑنے چلا جا رہا۔“



اگر آپ کا نام اسکالر شپ قرعہ اندازی میں آجاتا ہے تو آپ کے بچے کے تعلیمی اخراجات ہائر کلاس تک، لائف بوائے شیمپو، یونی لیور کمپنی برداشت کرے گی۔“

”اے لی بی! بات سنو۔ جو کام کرنے آئی ہو وہ کرو۔ شیمپو بیچنے آئی ہو۔ پیچو اور جاؤ۔ یہ کیا اول فول کہہ رہی ہو۔ تم لوگوں کے لائے ہوئے کو پن جیسے جنے کتنے ہم نے بھرے، پہلے کبھی کچھ نکلا؟ کیوں دہن؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں۔“

ساس نے بہو کی تائید چاہی۔ بات تو بادشاہی بیگم نے ٹھیک کی تھی مگر لائف بوائے شیمپو کی پروڈکشن انٹرنیشنل معیار کی ہوتی ہیں۔

”ارے اماں! وہ اور کمپنی والی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو یونی لیور والوں کی پروڈکٹ ہے۔“ لائف بوائے شیمپو بال لمبے اور گھنے کرتا ہے۔“ سفینہ بیگم کے اتنا کہنے پر دونوں لڑکیاں مسکرائیں۔

ان کی لو دیتی نظریں سفینہ سے کہہ رہی تھیں 'Thanks'۔ سفینہ، نیلم کو بغور دیکھ رہی تھی۔

”کہاں دیکھا ہے اس لڑکی کو۔ وہ دل میں سوچتی ہلکان ہوئی جا رہی تھیں۔ ذہن میں جھماکے سے ہوئے۔

’خورشید باجی! ذہن سے بادل چھٹ گئے، اندھیرا، روشنی میں نہا گیا۔

”بیٹا! تم“ وہ جھجکی۔ ”کیا تم عظمت ماموں کو جانتی ہو۔“ سفینہ کو خورشید باجی کے ابا کا نام یاد آ گیا تھا۔ وہ

براہ راست خورشید باجی کا نام لینا نہیں چاہ رہی تھیں۔ یہ نام سن کر نیلم کے منہ سے بے ساختہ قہقہہ نکل گیا۔

”کیا ہوا؟“ سفینہ اپنی عقل پر ماتم کرنے لگیں۔

”آئی میرے دادا کا نام ہے عظمت۔“

”تو تم خورشید باجی کی بیٹی ہو۔ حشمت بھائی کی بیٹی ہو یا رحمت بھائی کی۔“ سفینہ کے منہ سے خاندان کا

بائیوڈیٹا سن کر نیلم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا ہے۔

”ارے آپ تو سب کو جانتی ہیں۔“

”ارے بھئی ہم ایک ہی جگہ رہتے تھے۔ بینک والی گلی میں عظمت ماموں کا گھر تھا اور دو گلی چھوڑ کر ہمارا۔ ہماری امی نے تو عظمت ماموں کو بھائی بنایا ہوا تھا۔ میں اور خورشید باجی تو ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں۔“

سفینہ پچھلی باتیں یاد کرتی۔ نیلم کی آنکھیں نم کر گئی تھیں۔

بادشاہی سے رہانہ گیا تو بول پڑیں۔

”اے دہن! یہ کیا انٹرویو شروع کر دیا تم نے۔ غریب نوکری یہ ہیں۔“ اتنی ہی دیر میں علی شیر بھی شاور لے کر آ گیا تھا۔ وہ چھٹی بڑی دلچسپی سے بھاؤج کا والہانہ پن دیکھ رہا تھا۔ فون نمبر کے تبادلے ہوئے اور پھر وہ رخصت ہونے لگیں۔

ایکسیکوزی پلینز ایک لائف بوائے شیمپو کٹ مجھے بھی دیجیے گا محترمہ!“ خاور آنکھوں میں شوخی لیے بولا۔

”شیور“ نیلم نے اسکالر شپ اسکیم کٹ خاور کو پکڑائی اور اس کے ہاتھ سے پیسے لیے۔

”پلینز یہ کو پن پر کر دیجیے۔“ نیلم نے کو پن پر کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بڑی طرح جھینپ گئی۔

”ارے اس کو پن کو پر کر کے کیوں لے جا رہی ہیں آپ۔“

”ہماری ماہ رمضان میں قرعہ اندازی ہوگی۔ اس میں یہ کو پن شامل ہوں گے۔ قرعہ اندازی کے ذریعے منتخب لوگوں کو اسکالر شپ دی جائے گی۔“ نیلم کی میڈم کائنات نے علی شیر کی معلومات میں اضافہ کیا۔

”محترمہ! قرعہ اندازی کے بغیر قرعہ نکل آئے تو.....“ سفینہ دیور کی شرارت کو سمجھ گئی تھیں۔

”تو پھر جو آپ کہیں وہ آپ کو انعام دے دیا جائے گا۔“ بے ساختہ قہقہے مچھوٹے تھے۔

☆.....☆

”ارے واہ۔ بھئی دہن کمال کر دیا۔ بڑے مزے کا مٹر پلاؤ بنایا ہے اور کباب کے تو کیا ہی کہنے۔“ بادشاہی بیگم کھلے دل سے سفینہ کے ہاتھ کے پکے کھانے کی تعریف کر رہی تھیں۔

”آپ ہی سے سیکھا ہے لال۔ ورنہ میں تو بچن سے گھبراتی تھی۔“ سفینہ نے ساس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔

”اے ہے۔ میں نے کیا سکھایا؟ بھئی تم تو خود بھرے پورے کنبے سے آئی تھیں۔ بس تم میری بات مان لیا کرتی تھیں۔ جیسا کہتی تھی ویسا ہی کرتی تھیں، اسی لیے دہن تم

گرہستی میں تاک ہو گئیں۔ آج کی لڑکیوں میں خرابی یہی ہے کہ وہ خود کو ہرن مولا سمجھتی ہیں اور بڑوں کے تجربے سے فیض نہیں اٹھاتیں۔ اسی لیے خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ گھر

بکھر رہے ہیں۔ اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔“ بادشاہی بیگم نے ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھیں۔

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN



PAKSOCIETY1



PAKSOCIETY



تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکیں۔ چونکہ انہوں نے اس ایڈریس کو پہچان لیا تھا اور ساتھ ہی ایڈریس والی کو بھی۔

”ارے بھئی علی شیر، کتنی دیر لگاؤ گے ہاتھ روم میں۔ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔“ انہوں نے ہاتھ روم کے دروازے سے ہانک لگائی۔

”بھابی بس پانچ منٹ۔ آپ رکھ کر چلی جائیں۔“  
 ”ٹھیک ہے۔ تم جلدی کھانا کھا لینا۔“ اب سفینہ نے دماغ کو الٹ کر لیا تھا۔ کہ کس طرح آگے کی کارروائی کر کے علی شیر کی خوشیاں اس کے دامن میں ڈالے۔

☆.....☆

جیسے جھنا کے چیخ جائے کسی ساز کا نار جیسے ریشم کی کسی ڈور سے کٹ جائے ہے انگلی ایسے اک ضرب سی پڑتی ہے کہیں سینے میں کھینچ کر توڑنی پڑ جاتی ہے، جب تجھ سے نظر تیرے جانے کی گھڑی سخت گھڑی ہوتی ہے گلزار کی نظم، رخصت جیسے علی شیر کے سینے میں ہوک کی طرح انک سی گئی تھی۔ ساری محبت آج ختم ہو جانا تھی۔ اُسے نیلم سے پہلی ملاقات یاد آنے لگی، جو اُس کی آزاد زندگی کو کسی ڈور سے باندھ گئی تھی کہ دو دل ایک تال پر دھڑکنے لگے تھے۔

آج منگنی کی تقریب تھی۔ آج اُسے نیلم شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اُس کی معصوم باتیں، سب کچھ۔ اُسے ایسا لگ رہا تھا جیسے چشم زدن میں وہ آچل سے چہرہ چھپائے، بار بار اپنی جھب دکھلا کر، اُسے اُس کی محبت کی ناکامی اور حق کے لیے آواز نہ اٹھانے پر چڑا رہی ہے۔

”علی شیر..... علی شیر..... کہاں کھوئے ہو، بھئی۔“  
 سفینہ اُس کے کمرے میں آ کر اُس کے پاس کھڑی اُسے آواز دے رہی تھی۔

”علی شیر، چہرے پر کیا مردنی چھائی ہوئی ہے۔ آج تمہاری زندگی کا ایک بہت بڑا دن ہے اور تم پلینز بھیا..... جب خود کو قربان کر ہی دیا ہے تو قربانی کو کونج طرح انجام دونا۔“

”بھابی، آپ جانتی ہیں۔ میں کس طرح.....“  
 ”تم نے ہمیں کچھ بتایا ہے کبھی جو ہم جانیں گے لیکن خیر..... جن کے نصیب میں خوشیاں جتنی لکھ دی جائیں، اتنی ہی ملتی ہیں۔“

”ارے بیٹا! تم کیوں چپ ہو؟ تم تو جوتھوڑا بہت کہتے سنتے تھے اس سے بھی گئے۔ جنے کون سے کاروبار ہیں، جنہوں نے تم لوگوں کو چپ لگا دی ہے۔ وہ چھوٹا جس دن سے آیا ہے، کمرے میں چھپا بیٹھا ہے۔“  
 گل شیرماں کی باتیں سن کر مسکرائے اور زمین کی پلیٹ میں کباب ڈالتے ہوئے گویا ہوئے۔

”اماں بچپن میں آپ ایک جملہ کہا کرتی تھیں نا۔ ایک چپ سو کو ہرائے۔ وہ آج سمجھ میں آیا ہے۔“  
 ”کیا کھانا اچھا نہیں بنا۔“ سفینہ کو لگا، شاید میاں جی انہیں سنانے کو کہہ رہے ہیں۔

”ارے بابا، اسی لیے تو کچھ بولتا نہیں ہوں۔“

”تھوڑا بولتے ہیں، لیکن جانے کس کو کیا کہہ جاتے ہیں، پتا ہی نہیں چلتا۔ خواجواہ بندہ مجرم سمجھنے لگتا ہے خود کو۔“ سفینہ اُسے میں کھانا سجا کر علی شیر کے کمرے میں لے جانے لگیں۔

”اے دلہن۔ اُس سے کہو، سب کے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرے۔“

”اماں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور پھر فوج کی نوکری میں تو بندہ تھکن اتارنے ہی گھر آتا ہے۔“

”نوکری کوئی بھی ہو، گھر میں تو بس تھکن ہی اتارنے آتا ہے بندہ۔“ گل شیر کی بات پر سفینہ بلش ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ شرماتے ہوئے اُن کی نظروں سے دور ہو گئیں۔ گل شیر گہری نظروں سے انہیں جاتا دیکھتے، نیپکن سے ہاتھ پونچھنے لگے تھے۔

☆.....☆

”تم سے دور ہو کر بھی تمہارے ہی پاس ہوں۔ سوچا تو یہی تھا کہ آج کل میں ہی اماں اور بھابی سے بات کروں گا تمہارے متعلق مگر..... انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا کب ہے۔ اماں کسی کی بات سنتی ہی کب ہیں؟ تم فکر مت کرو، اگر ہمارا ملن اس زمین پہ لکھا ہے تو بہت جلد ہم مل جائیں گے۔ مجھے امید ہے رمضان والی فرعہ اندازی پر یہ معجزہ ہو جائے گا۔ بہر حال انسان خدا سے دعا ہی کر سکتا ہے۔ میرا جو حال ہے۔ وہ میں نی الحال لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔“

”I Miss You“ کا کارڈ تکیے کے نیچے سے جھانک رہا تھا۔ سفینہ نے فوری طور پر کارڈ کی پشت پر لکھا ایڈریس حافظے میں فیڈ کر کے کارڈ بچوں کا تول واپس



”بھابی کیا بتاتا میں، اماں کی ہر بات فیصلہ ہی ہوتی ہے۔“  
 ”خیر تمہارا برا کوئی نہیں چاہتا۔ اماں بھی تم سے کبھی  
 تمہاری مرضی کے خلاف کچھ کرنے کو نہ کہنیں، لیکن تم  
 اتنے عرصے زبان پر فضل لگائے بیٹھے رہے۔“

”بھابی بس آپ دعا کیجیے گا کہ میں اپنے فیصلے پر ثابت  
 قدم رہوں اور کسی بھی قسم کے حقوق میں کوتاہی نہ کر پاؤں۔“  
 ”تم بہت اچھے ہو علی شیر۔ تمہارا نصیب اُس سے  
 بھی اچھا ہوگا۔ فیصلے تو اوپر والا کرتا ہے میرے بھائی۔  
 اب نیچے آ جاؤ۔ تمہارے سب سسرالی منگنی کی رسم ادا  
 کرنے کو بے چین ہیں۔ جلدی آ جاؤ شاباش۔ بھیا  
 لوگوں کو اپنے بھی بہت کام ہوتے ہیں۔ دیر نہ کرنا۔“  
 سفینہ کہتی ہوتی چلی گئیں۔

علی شیر بھابی کو بے بسی سے دیکھتے رہ گئے۔

☆.....☆

حیرت عشق خیر ہو تیری  
 کیسے عالم میں لا کے چھوڑ دیا  
 علی شیر کولال دوپٹے کی چھاؤں میں اسٹینج تک لایا گیا  
 تھا۔ دل میں کوئی امنگ، کوئی خوشی نہ ہو تو انسان سب کچھ  
 دیکھتے ہوئے بھی گویا بینائی سے عاری ہو جاتا ہے۔  
 پر رونق تقریب میں بھی علی شیر کے دل کی ویرانی سوائی۔  
 ”ہاتھ تو آگے کیجیے۔“ اس آواز پر علی شیر نے چونک  
 کر اور ردیکھا تھا اور جیسے پوری محفل پر سناٹا چھا گیا تھا۔  
 ”تیلیم!! تم!!“ علی شیر حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگا۔  
 ”جی ہم ہی ہیں۔“ وہ رساں سے گویا ہوئی اور علی شیر  
 نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماں، بھائی اور بھابی کو دیکھا تھا۔  
 ”مگر یہ سب.....!!“ علی شیر کو جیسے اب بھی یقین  
 نہیں آ رہا تھا۔

”یہ کوپن لیجیے اور سمجھ جائیں۔“ سفینہ نے اُسے ہاتھ  
 میں قرعہ اندازی میں نکلا اسکا لرشپ ٹھونکیٹ پکڑاتے  
 ہوئے کہا۔

”ارے بچے! یہ سب تیری بھابی کا کمال ہے۔ دیکھ  
 لے، کتنا خیال رکھتی ہیں تیرا۔ تیرے دل کے اندر کی بات  
 بھی ڈھونڈ نکالی دہن نے۔ مجھے اپنی بہو پر فخر ہے۔ بہو ہو  
 تو ایسی۔“ بادشاہی بیگم فخریہ بولی تھیں۔

”واقعی یار۔ یہ سارا کریڈٹ تمہاری بھابی کو جاتا  
 ہے۔“ گل شیر کو بھی بیوی پہ پیارا آ رہا تھا۔

”حشمت بھائی! آپ نے نیلم کو ہمارے ایک دست  
 سوال پر جھولی میں ڈال دیا۔ ہمارے لیے بڑی بات  
 ہے۔ آپ بے فکر رہیے گا۔ نیلم میری بہن، میری لاڈل بن  
 کر اس گھر میں رہے گی۔“

”ائے ہے۔ ارے وہ اتنا بی نو مینہ اور از مینہ کو لیے  
 بیٹھی تھیں، کہاں رہ گئیں۔“ بادشاہی بیگم کو پوتیوں کی یاد  
 ستائی تو چلائیں۔

”دادی ہم یہاں ہیں۔ چاچو اب چپ نہیں رہنا  
 ”لائف بوائے، سچا ساٹھی ہے سب کا“ اس لائف بوائے  
 شیمپو نے مجھے اسکا لرشپ دلائی اور اب میری پڑھائی کا  
 سارا خرچہ میرا دوست لائف بوائے شیمپو پورا کرے گا اور  
 آپ کو دنی ایک سچا ساتھ نبھانے والی گڑیا چچی۔“ نو مینہ  
 لائف بوائے شیمپو کٹ علی شیر کو پکڑاتے ہوئے بولی تھی  
 اور یہ سن کر پوری محفل مسکرانے لگی تھی۔ علی شیر نے نو مینہ کو  
 گود میں اٹھاتے ہوئے چوم لیا۔ اور بولا۔

”لو یو لائف بوائے شیمپو..... تم تو واقعی دل کا بھید  
 جاننے والے سچے ساتھی ہو۔“

☆.....☆

برف باری نے سارے منظر سفید کر دیے ہیں لیکن  
 میرے دل کی دنیا، بہت روشن اور پریش ہے۔ محبتوں  
 کے الاؤ اس من میں دکھنے لگے ہیں۔ انشاء اللہ پاکستان  
 پہنچ کر میں اُس احسان کا قرض چکاؤں گی۔ امی جان  
 نے بادشاہی دادی کے کہنے پر اسکا لرشپ پر نو مینہ کے  
 بجائے میرا نام لکھوایا تھا اور نیلم چچی نے اسکا لرشپ  
 والے تمام پروسیس میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے دادی  
 اماں کے اس خیال کو غلط ثابت کیا تھا کہ جو بات کمپنی  
 والے کہتے ہیں وہ جھوٹ ہوتی ہے۔ یو پی لیور پاکستان  
 نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور لائف بوائے شیمپو کو مسیحا بنا کر  
 ہمارے گھر بھیج دیا۔ میرے بالوں کی ساری براہمز  
 لائف بوائے شیمپو کے استعمال سے مکمل طور پر ختم ہو گئیں  
 اور لندن جیسے ملک میں بھی میں لائف بوائے شیمپو ہی مکمل  
 اعتماد کے ساتھ معمول کا حصہ بنائے ہوئے ہوں۔ تو پھر  
 کیوں نہ آپ بھی اپنا اعتماد لائف بوائے شیمپو کے نام  
 کر دیں۔ کیا پتا کل آپ کا بھی اسکا لرشپ کا سپنا، لائف  
 بوائے شیمپو پورا کر دے۔“

☆.....☆.....☆





# شادی میرے بیٹے کی

نزہت جمیل ضیاء

کا دیدار بھی کر لیا آخر کار شادی کے لیے ڈل ریڈ اور فان کو مہنیشن کا شرارہ بونگ شرٹ کے ساتھ پسند کیا جس پر نگینوں کے بھاری (.....) بنے ہوئے تھے اس کے ساتھ ماٹی کلر کی بناری کی لائینگ کے ساتھ شرٹ سلوائی اور دوپٹے پر بھی پانپن لگوائی۔ ویسے کے لیے بنارس کالونی سے پرل اور گولڈن بناری پا جامے کے ساتھ آف وائٹ بناری شیٹیون جارجٹ کا حیدر آبادی کھڑا دوپٹہ گرتی اور اسی کا اوپر سے اوڑھانے والا بڑا دوپٹہ لیا۔ کھڑا دوپٹہ جو چھ گز کا ہوتا ہے اس پر بناری پرل کے ساتھ چاروں طرف فل نگینوں سے پرل اور گولڈن کام کروایا اور اوپر سے اوڑھانے والے دوپٹے کو پرل شیڈ سے ٹائی اینڈ ڈائی کروا کے ڈبل ماتھا پٹی کے ساتھ ویسا بھی ایک کے ساتھ فل کام کروایا تھا جبکہ گرتی کے گلے، شولڈرز، سیلوئس، دامن اور کلیوں کے اسٹائل میں فل نگینوں کا کام کروایا دلہن کے سینڈلز جیولری، پرمز کے لیے جامع کاتھ، صائمہ مال، طارق روڈ اور حیدری کے چکر لگے۔

ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اپنی تیاریاں بھی شروع کر دیں۔ بیٹیوں کی الگ پسند تھی۔ تو میری نو اسیوں اشنہ اور ہانیہ کو ہر چیز دلہن مامی کے جیسے چاہیے تھی۔

بننے کی شادی کا ارمان تو ہر ماں کو ہوتا ہے۔ اور اس وقت سے ہوتا ہے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ یہی حال میرا بھی تھا اور مجھ سے تو زیادہ میری بیٹیوں کو اپنے اکلوتے بھائی کی شادی کا ارمان تھا۔ اسی وجہ سے مجھے اپنے بیٹے کی شادی اکتوبر، نومبر میں کرنے کے بجائے مارچ میں کرنی پڑی کیوں کہ میری منجھلی بیٹی صوفیہ کو اچانک ہی اپریل میں ریاض شفٹ ہونا تھا کیوں کہ چچہ ماہ نبل میرے داماد مظہر آفس کی طرف سے ریاض جا چکے تھے اور اب اپریل میں آ کر صوفیہ اور بچوں کو لے جانے والے تھے اور منہاج (میرا بیٹا) کی شادی صوفیہ کے بغیر ہونا تو ناممکن تھا۔ یوں اچانک ہی تاریخ طے ہو گئی اور شادیوں کی تیاریوں کا آغاز خوب دھوم دھام سے ہو گیا۔

نکاح 22 مارچ، دلہن کی مایوں 23 مارچ، دولہا کا مایوں 25 مارچ شادی 27 مارچ اور ولیمہ 28 مارچ کو طے پایا۔ بس تو پھر ہماری تیاریاں بڑے زور و شور سے اشارٹ ہو گئیں۔ میں اور میری بیٹیوں بیٹیاں طیبہ عبید، صوفیہ مظہر، اور جویریہ ہم تو کھن چکر بن گئے۔ ہم نے پہلے دلہن کی تیاری مکمل کرنے کا سوچا۔ دیگر سب تو لے لیے گئے مگر شادی اور ویسے کے ڈریسز کے لیے ہم نے کراچی کے تمام بازاروں کی خاک چھانی حتیٰ کے بنارس کالونی اور کٹی پہاڑی



تقریباً ایک ماہ سے گھر میں ڈھولک بجنے لگا تھا اور میری بھتیجیاں، بھانجیاں، بہنیں وغیرہ جمع ہو کر خوب ہلاکلا کر رہی تھیں۔ ٹیلر کے اور مارکیٹوں کے چکروں نے مجھے گھن چکر بنا کے رکھ دیا تھا کیوں کہ اصل ذمہ داری تو مجھ پر ہی تھی۔

☆.....☆.....☆

نماز عصر کے بعد 22 مارچ کو رسم نکاح اریبہ (میری بہو) کے گھر پر ہی تھی۔ منہاج نے آج وائٹ کاٹن کاشلوار قمیض پہنا تھا اور اریبہ نے میرون کلر کے ہلکے کام والا سوٹ پہنا تھا۔ دونوں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ نکاح کے بعد ہم نے چھوارے تقسیم کیے۔ پھر میں نے اریبہ کو ہمارے ہاں پہنایا جانے والا کالی موتیوں کا ہار (گولڈکا) اور اوپر سے وہ دوپٹا پہنایا جو میں نے اپنے نکاح کے بعد اوڑھا تھا۔ اور پھر اریبہ کی والدہ نے ریفریشمنٹ اور چائے سے ہم سب کی تواضع کی مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر ہم لوگ گھر لوٹ آئے۔ 22 مارچ کو ہم اریبہ کے گھر مہندی لے کر گئے۔ مہندی کا انتظام اریبہ کی بڑی بہن (نوشین) کے گھر کی چھت پر کیا گیا تھا۔ ایک رات پہلے میرے گھر میری بہنیں، ضیاء کی بہن، بھانجیاں، بھتیجیاں، جیٹھانیاں، اور منہاج کے دوست جمع تھے کیوں کہ ہم اریبہ کے بری کے تمام جوڑے ڈیز پر سیٹ کیے تھے۔ سب کے ساتھ سینڈیلز اور جیولری سیٹس بھی تھے۔ جیولری سیٹس بھی ڈیز پر لگائے ہوئے تھے اور ان تمام بری کی اشیاء اور کپڑوں کو لے جانے کے لیے الگ گاڑی کا انتظام کیا گیا تھا۔

آج ضیاء نے کاٹن کاشلوار قمیض پہنا تھا۔ میں نے بلو جار جٹ کی مٹی کلر ستاروں والی ساڑھی پہنی تھی۔ عبید (بڑے داماد) نے جینز پر مہندی کلر کی شرٹ پہنی تھی۔ طیبہ اور صوفیہ نے ساڑھیاں پہنی

تھیں طیبہ نے سو اور میرون، صوفیہ نے گرین اور گولڈن بناری ساڑیاں میچنگ انڈین جیولری کے ساتھ پہنی تھیں۔ جویریہ نے کاپر، مہندی اور سی گرین کلر کا بناری + نیٹ کا ڈیز انز سوٹ پہنا تھا۔ جب کہ میری ننھی شہزادیوں اشنہ اور ہانیہ نے سی گرین اور میرون بناری غرارے لونگ شرٹس کے ساتھ پہنے تھے۔ ارحم اور صہیب (نواسے) دونوں نے بیگی جینز کے ساتھ ٹی شرٹس پہنی تھیں۔ (الحمد للہ بچے بہت اچھے لگ رہے تھے۔

نوشین کے گھر کی چھت کو لائٹوں سے سجایا گیا تھا جب کہ اریبہ کی رسم کے لیے جھولے والا چھوٹا سا اسٹیج بنایا گیا تھا۔ ہمیں گیندے کے کنگن دیے۔ پھر اریبہ کو رسم کے لیے لایا گیا اریبہ بنا میک اپ کے سادگی میں یلو مایوں کے جوڑے میں اچھی لگ رہی تھی۔ پہلے میں نے، پھر میری بچیوں نے اور پھر سب نے اریبہ کی رسم کی، جویریہ نے اپنی کزنز کے ساتھ مل کر ڈانڈیاں ڈالیں، اشنہ نے اپنی کزن اور میری بھانجی ماہا کے ساتھ گانے پر ڈانس کیا پھر کھانا کھایا گیا۔ کھانے میں کباب پراٹھا، بریانی، کچوریاں، گلاب جامن اور کولڈ ڈرنکس تھیں۔ ہم تقریباً 12 بجے واپس گھر آ گئے۔

☆.....☆.....☆

25 مارچ کو ہمارے ہاں مانپوں مہندی کا فنکشن تھا۔ جو ہم نے جونا گڑھ مسلم گھانچی ہال ملیں رکھا تھا۔ ہم مقررہ وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ ضیاء نے آج آف وائٹ بوسکی کا کپڑا شلوار کے ساتھ پہنا تھا اور ضیاء کے جیسے بوسکی کی قمیض اور گھیر دار شلوار میں ارحم اور صہیب نے پہنی تھیں اور گلے میں چھوٹی مٹی کلر کی چیزیاں بھی تھیں۔ میں نے کریم کلر اور گرین مروڑی اور دھاگے کے کام کا سلک کا ڈیز انز سوٹ لونگ شرٹ اور ٹراؤزر کے ساتھ پہنا تھا۔ جب کہ میری



آگئیں اور لڈی اشارٹ کر دی جو یہ نے کزنز کے ساتھ مل کر لڈی کھیلی اور اشنہ اور ہانہ نے ایک گانے پر ڈانس کیا۔ یہ ہنگامہ تھا تو اریبہ کی والدہ اور دیگر رشتہ داروں نے منہاج کا رسم کیا۔ پھر کھانا اشارٹ ہو گیا اور آج ہم نے کھانے میں حلیم، قیمہ پراٹھا، دہی بڑے، آلو کی ترکاری، سلاد اور مختلف چٹنیاں اور میٹھے میں گلاب جامن الحمد للہ کھانا بہت

تینوں بیٹیوں اور نواسیوں نے ایک جیسا بلو لانگ فرائیس ملٹی کلر بناری پاجاموں کے ساتھ پہنی تھیں فراکوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بناری کوشیاں اور ملٹی کلر سلک کی چیزیاں تھیں۔ پھولوں کے زیور پہنے بچیاں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ عبید نے نیوی بلو لائٹ سے کام کاشلوار میض پہنا تھا۔

دلہن والے آئے تو ہم نے سب کو ڈیری ملک



منزہت جیس ضیاء اپنے شوہر ضیاء بیٹے منہاج اور بہواریبہ کے ہمراہ خوشگوار سوڈ میں

لذیذ تھا۔

24 کو گیپ تھا۔ اس دن سب نے پارلر کا رخ کیا مہندی تو سب کو ہی لگوانی تھی۔ اس کے علاوہ کسی نے ہیئر کٹنگ کروانی تھی تو کسی نے ہیئر ڈائی کروانے تھے۔ سارا دن اسی بھگدڑ اور پاروں کے چکروں میں گذر گیا۔ اسی رات کو گھر میں بچوں نے رت جگے کا پروگرام رکھا تھا۔ ہماری فیملی کبائٹڈ ہے۔ ضیاء کے دو بڑے بھائی بھی ساتھ رہتے ہیں۔ گراؤنڈ، فرسٹ اور ہم سکینڈ فلور پر رہتے ہیں۔ اس لیے شادی شدہ بچیاں بھی آجاتی ہیں تو خوب ہنگامے ہوتے ہیں۔

چاکلیٹ اور پھولوں کی کلیاں پیش کیں۔ منہاج نے آج لائٹ گرین کرتا اور وائٹ شلوار پہنی تھی۔ کرتے پر لائٹ اور ڈارک گرین ایمر انڈی تھی اسی کی مناسبت سے لائٹ اور ڈارک گرین چیزیں گلے میں ڈالی تھی۔ منہاج بہت فریش لگ رہا تھا بہنوں کے ساتھ جب منہاج رسم کے لیے ہال میں داخل ہو تو اس کے دوستوں نے خوب ہنگامہ کیا ڈانس بھنگڑے اشارٹ کر دیے ساتھ میں منہاج کو بھی کھینچ لیا اور جب عبید اور ضیاء کو بھی گھسیٹ لائے تو ہال میں خوب ہنگامہ مچ گیا۔ اب بھلا بچیاں کہاں پیچھے رہنے والی تھیں۔ جو یہ اور طیبہ بھی میدان میں



کہ میری دونوں نواسیوں نے سیم جویریہ کے جیسے لہنگے مختلف کلرز میں پہنے تھے۔ دونوں بہت حسین لگ رہی تھیں۔ میرے ننھے شہزادے ارحم اور صہیب نے اپنے ناموں جانی کے جیسی شیروانی، پاجامے اور گولڈن کھسے پہنے تھے اور واقعی شہزادے لگ رہے تھے۔

منہاج جب تیار ہوا تو ادھر ہر زبان پر لفظ ماشاء اللہ تھا میرا بیٹا دنیا کا سب سے حسین دولہا لگ رہا تھا۔ ڈارک مہندی کلر کی سلک شیروانی جس پر سلور دیکے اور نگینوں سے گلے، شولڈر اور سیلوس پر بیچ بنے ہوئے تھے۔ آف وائٹ پاجامہ، میچنگ کھسے سر پر آف وائٹ اور بنارسی بگڑی وہ بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے نظر کی دعا پڑھ کر دم کیا پھر منہاج کے دونوں تایا، ضیاء اور عبید نے مل کر منہاج کو تیار کیا۔ آج مظہر (دوسرے داماد) کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ طیبہ اور صوفیہ نے منہاج کو سرمہ لگایا۔ جب سے شادی کے پروگرام اشارٹ ہوئے تھے تو میں برابر کچھ نہ کچھ صدقات دے رہی تھی۔

آج بھی گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے کچھ صدقات دیے تھے ہم جیسے ہی گھر سے باہر نکلے منہاج کے دوستوں نے ڈھول والوں کو بلا رکھا تھا۔ پھر تو ڈھول بجنے لگا اور منہاج کے سارے دوستوں نے منہاج کو درمیان میں رکھ کر بھنگڑا اشارٹ کر دیا۔ جن میں سعادت، اطہر، منہد، نوروز، فرحان شامل تھے۔ چاروں طرف سے منہاج پر نوٹوں کی بارش ہونے لگی۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آگئے۔ منہاج کے ان دوستوں کے لیے جن لوگوں نے کبھی بھی مجھے اور ضیاء کو یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ کہ منہاج ہمارا اکلوتا بیٹا ہے میرے ان تمام بیٹوں کے لیے دعا کیجیے گا اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے۔ آمین پھر ہم بارات لے کر روانہ ہو

اسی رات میں نے اور میری چھوٹی بہن نے گلے بنائے۔ جس پر میرے بہنوئی ڈاکٹر عبداللہ نے ہم دونوں کو 5،5 سوپے دیے۔ پھر تمام لڑکیوں نے ادھم مچایا اور عبداللہ کی جیب خالی کروائی۔ بچوں نے ابٹن کھیلنا اشارٹ کیا تو چھوٹا سا برآمدہ بھینسوں کا باڑا بن گیا۔ میں بھی اس عتاب سے بچ نہ پائی۔ فجر تک یہ ہنگامہ چلتا رہا اس کے بعد ہم لوگ سونے کے لیے لیٹے۔

☆.....☆.....☆

27 مارچ کو صبح ہی سے خوب تیاریاں ہو رہی تھیں کیوں کہ آج میرے شہزادے کی بارات تھی۔ جتنی تیاریاں کی جاتیں کم تھیں، ویسے بھی میرا بیٹا الحمد للہ ہمارا فر بردار بیٹا، بہنوں کا پیارا بھائی بھانجیوں اور بھانجیوں کا لاڈلا ماموں جانی، رشتے داروں اور دوستوں کا ہی نہیں محلے والوں کا بھی چہیتا ہے۔ (اللہ پاک میرے بچوں کو شاد و باد رکھے)

آج بارات میں ضیاء نے لائٹ براؤن کاشن شلوار قمیض پہنا تھا اور اسی کلرک واسکٹ تھی۔

عبید نے گرے اور بلیک شیروانی بلیک پاجامے کے ساتھ پہنی تھی اور ہمیشہ کی طرح اچھے لگ رہے تھے۔ مظہر کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کا پر مہندی اور وائٹ کو مینیش والی نیٹ اور بروشیا کی ڈیزائنز ساڑھی پہنی تھی اور کا پر اسٹون کی جیولری تھی۔ طیبہ نے اپنے دلیمے کا ڈارک اور لائٹ پر پل شیڈ کا ڈبل شرارہ پہنا تھا جب کہ صوفیہ نے اپنی شادی کا فافان اور ریڈ بھاری کام کا بنارسی شرارہ پہنا تھا۔ جویریہ نے انڈین شاکنگ اور گرین نیٹ کا لہنگا جس پر بنارسی لائینگ تھی بنارسی چولی کے ساتھ پہنی تھی۔ تینوں بیٹیوں نے انڈین نگینوں کی جڑاؤ جیولری، ماتھا پٹی کے ساتھ پہنی تھی۔ بھاری جیولری اور پارلر کے میک اپ میں اچھی لگ رہی تھیں جب



کھانے کے بعد اریبہ کی والدہ اور چھوٹا بھائی احتشام سٹیج پر آئے اور اریبہ کی والدہ نے رسم کی گھڑی اور سلامی دی۔ پھر رخصتی کا مرحلہ آ گیا۔ قرآن پاک کے سائے میں اریبہ گھر سے رخصت ہو کر گاڑی میں آ بیٹھی، ساتھ میں، میں اور جویریہ بیٹھے منہاج کے سارے دوست بانیوں پر ہمارے ساتھ ساتھ تھے۔ جب ہماری گاڑی لیاقت مارکیٹ پہنچی تو سب لڑکوں نے بائیکس سے اتر کر ہماری گاڑی رکوائی ٹریفک رکوائی اور بیچ روڈ پر ڈانس کیا انہیں بھنگڑا ڈالتا دیکھ کر

گئے منہاج کے ساتھ گاڑی میں بڑے تازا ابوضیاء اور عبیدارحم اوز صہیب بیٹھے تھے۔ جب ہم ہال میں پہنچے تو وہاں بھی منہاج کے دوستوں نے بھنگڑے ڈالے کیوں کہ ڈھول والوں کو ساتھ لے کر گئے تھے اسی طرح آگے آگے دوستوں کا بھنگڑا ہوتا رہا اور پیچھے پیچھے منہاج اور ہم ہال میں داخل ہوئے۔ اریبہ کے گھر والوں نے ہمیں بوکے دیے۔ آج اریبہ بہت پیاری لگ رہی تھی بھاری میرون شرارے میں، بھاری میک اپ، اور جیولری



بارات جانے سے قبل دولہا کا اپنی فیملی کے ہمراہ گروپ فوٹو

وہاں پر موجود نوجوان بھی بھنگڑے میں شامل ہو گئے اور بانی لوگ محفوظ ہونے لگے۔ منہاج کے دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس خوشی کو کس طرح سلیم ریٹ کریں۔ ضیاء کی آواز پر سب لوگ گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔

تھی۔ ماشاء اللہ فوٹو سیشن ہوا، رکمیں ہوئی اریبہ کی کزنز اور بہنوں نوشین اور انشین نے منہاج کا ناگرہ اتروا کر بھاری رقم کا مطالبہ کر ڈالا دونوں جانب سے سوال جواب ہوئے آخر کار منہاج نے انولپ دے کر ناگرہ واپس لیا۔

جب ہم گھر پہنچے تو گھر کی تمام لڑکیاں بھابی کی منتظر کھڑی تھیں۔ گھر میں قدم رکھنے سے پہلے منہاج اور اریبہ کے اوپر سے بکروں کا صدقہ دیا گیا۔ پھر

پھر کھانا اشارت ہوا کھانے میں چکن کڑھائی، بریانی، بروسٹ، سلاد اور ربڑی کھیر تھی۔ آخر میں کولڈ ڈرنکس پیش کی گئی تھی۔ کھانا بہت اچھا تھا۔



جب کہ ہانہ نے بھی جھومر لگایا ہوا تھا۔ ہیر کچ کے ساتھ اٹیچ تھا۔

ارحم اور صہیب نے بھی سوٹ پہنے تھے اور چھوٹی چھوٹی ٹائیاں بھی لگائی ہوئی تھیں۔

اریبہ اور منہاج انٹر ہوئے تو ہر آنکھ متوجہ ہو گئی اور ہر کوئی بے ساختہ ”ماشاء اللہ“ کہہ اٹھا۔ اریبہ نے

آف وائٹ کرتی کے ساتھ پریل بناری پا جامہ، کھڑا دوپٹہ اور اپر سے الگ دوپٹہ سیٹ کیا ہوا

تھا۔ بھاری کام نفاست سے کیے گئے میک میک اپ اور جیولری میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی جب کہ

منہاج بھی اس میچنگ کا آف وائٹ تھری پیس میں تھا۔ جس کے اندر ہر پل شرٹ اور میچنگ ٹائی

تھی۔ یوں تو میں نے اپنے لکھنے والوں سے کچھ کو مدعو کیا تھا جن میں سے ہمارے کاشی بھائی بھی

شامل تھے مگر کاشی اپنے ضروری کام کی وجہ سے نہیں آسکے تھے اور بعد میں اس کی بھی وضاحت کر دی تھی (

او کے کاشی بھائی) اس دوران مووی، اور فوٹوز کا سلسلہ چلتا رہا پھر کھانا اسٹارٹ ہوا، کھانے میں بریانی، چکن

قورمہ، چکن چلی، چکن تکہ، چائینز رائس، مریچوں کا سالن، بگھارے بینگن، راستہ، سلاد اور چٹنیاں تھیں۔

بیٹھے میں لب شیریں اور آخر میں گولڈ ڈرنکس بھی تھیں۔ پھر ہم سب نے رسمیں کیس میں نے اریبہ کو گولڈ

کی رنگ دی۔ ضیاء نے گولڈ پلیٹڈ راجز کا سیٹ منہاج اور اریبہ کو دیا۔ طیبہ اور صوفیہ نے گولڈ کے

سیٹس، جویریہ نے گولڈ رنگ اور آخر میں اشنہ نے اپنی دلہن مامی کو گولڈ کی نوز پن گفٹ کی۔

آخر کار ان یادگار اور خوبصورت تقاریب کا اختتام ہوا۔

دعا کیجیے گا ہمارا گھر اسی طرح شاد و باد رہے۔ (آمین)

☆☆☆☆

طیبہ، صوفیہ اور جویریہ نے دروازہ روک کر منہاج کی جیب ہلکی کی۔ کھیر کھلانے کی رسم ہوئی۔ تصاویر اور مووی سیشن ہوا پھر منہاج کے دوست سعادت، فرحان، نوروز، نے اریبہ کا گھٹنا پکڑنے کی رسم اور منہاج سے بھاری رقم کا مطالبہ کیا منہاج نے اس بار ضیاء کی مدد طلب کی کیوں کہ گاڑی روکنے اور دروازہ کھولنے اور ناگرہ چھپانے پر منہاج نے اپنی جیب خالی کر دی تھی اس بار ضیاء کی جیب ہلکی ہوئی۔

☆.....☆.....☆

دوسرے دن ولیمہ تھا۔ صبح سے ہنگامہ تھا۔ کسی کا دوپٹہ نہیں مل رہا تو کسی کی جیولری غائب تھی۔ اس پر ضیاء کا شور وقت سے پہلے ہال میں پہنچنا ہے اور سب سے زیادہ ٹینشن تو مجھے تیار ہو کر بیوٹی پارلر جانا تھا۔ جہاں اریبہ تیار ہو رہی تھی کیوں کہ اریبہ کو آج چھ گز والا دوپٹہ سیٹ کرنا تھا جو بیوٹی پارلر والوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ مجھے ہی کرنا تھا۔

میں نے آج ریڈ بلیو، اور آف وائٹ کو مینیشن کی ڈیزائینر جارجیٹ کی بناری ساڑھی آنچل والی انڈین ساڑھی پہنی تھی۔ ساتھ کندن کا انڈین جیولری سیٹ تھا۔ ضیاء نے ڈارک براؤن اور لائینگ والا تھری پیس سوٹ پہنا تھا۔ جس میں فان شرٹ اور میچنگ ٹائی تھی۔ عبید نے ڈارک براؤن سوٹ پہنا تھا۔ طیبہ اور صوفیہ، جویریہ اشنہ اور ہانیہ ان سب نے ایک جیسے مختلف کلر کے کپڑے پہنے تھے۔ طیبہ نے ریڈ، صوفیہ نے مرجنڈا، جویریہ نے فیروزہ جارجٹ کے فلنگینوں کے کام کے کوٹ پہنے تھے جس کے اندر سلور بناری میکسیاں تھیں۔ تینوں نے بیوٹی پارلر سے میک اپ کروایا تھا۔ بھاری نگینوں کی سلور جوہلی سائیڈ جھومر کے ساتھ تھی، جب کہ اشنہ اور ہانیہ نے شاکنگ پنک کام کے کوٹ کے ساتھ سی گرین بناری میکسیاں پہنی تھیں۔ اشنہ نے بھی جھومر لگایا ہوا تھا۔



# پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

## یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو م ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ سیریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرک نہیں کیا جاتا

**We Are Anti Waiting WebSite**

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on  
Facebook

[fb.com/paksociety](https://fb.com/paksociety)



[twitter.com/paksociety1](https://twitter.com/paksociety1)



# پراسرار کہانی نمبر 2

Email : pearlpublications@hotmail.com

پراسرار نمبر 1 کی پذیرائی کے بعد پراسرار نمبر 2

ایک ایسا شاہکار شمارہ جس میں دل دہلا دینے والی وہ سچ بیابانیاں شامل ہیں جو آپ کو چونکنے پر مجبور کر دیں گی۔

آپ کے اُن پسندیدہ رائٹرز کے قلم سے، جو آپ کی نبض شناس ہیں۔ جن کی کہانیوں کا آپ کو انتظار رہتا ہے۔

جنوں، بھوتوں اور ارواح خبیثہ کی ایسی کہانیاں جو واقعی آپ کو خوف میں مبتلا کر دیں گی۔

ہمارا دعویٰ ہے!

اس سے پہلے.....

ایسی ناقابل یقین، دہشت انگیز اور خوفناک کہانیاں شاید ہی آپ نے پڑھی ہوں۔

آج ہی اپنے ہا کر یا قریبی بک اسٹال پر اپنی کاپی مختص کرالیں۔

سچی کہانیاں کا ماہ اگست کا شمارہ، پراسرار نمبر 2 ہوگا۔

**نوٹ:** پراسرار نمبر 2 کے لیے کہانیاں بھیجے کی آخری تاریخ 5 جون ہے۔

اینٹ حضرات نوٹ فرمائیں۔




ناول  
رفعت سراج


## وامِ دل

معاشرے کے بطن سے نکلی وہ منقش، جو دسترکینیں بے ترتیب کر دیں گی  
رفعت سراج کے جاوید مگر تلم سے، نئے نئے سلسلے دار ناول کی پانچویں کڑی

ندا کو جتنی بھی آیتیں زبانی یاد تھیں اس نے شمر کے آفس کے اندر داخل ہونے تک پڑھ ڈالی تھیں۔  
اندر داخل ہوئی تو ایک بڑے ڈیشنگ، اسمیشنگ، ہینڈسم سے پاس کو دیکھ کر اپنی فطری بے  
ساختگی کی وجہ سے چند سیکنڈ تو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ مگر شمر کی بے تاثر، بے مروت نگاہوں نے







CIETY.



اسے فوراً جاے میں ڈال دیا۔  
 ”اسلام علیکم سر! سر وہ پلیز آپ اس مرتبہ میری ایکسیکیوٹو ایکسپٹ کر لیں۔ آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سرائیچو سکیلی میں فرسٹ ٹائم جا ب، کر رہی ہوں، نان ایکسپیرینسڈ بندے سے بھول چوک تو ہو جاتی ہے ناں..... لیکن سر انشاء اللہ میں ثابت کروں گی کہ میں ڈیزرو کرتی ہوں۔ آپ میرے کام سے بہت خوش ہوں گے کیوں کہ میں کام چور نہیں ہوں بہت ہارڈ ورکر ہوں..... اور سر بہت ایمانداری سے کام کرتی ہوں۔ چاہیں تو آپ ابھی میرے نانا جان کو فون کر کے پوچھ لیں۔ وہ بزرگ آدمی ہیں۔ ظاہری بات ہے آپ سے جھوٹ تو نہیں بولیں گے۔ دیکھیں ناں جو انسان قبر میں پاؤں لٹکا کر.....“

”اشاپ!“..... شمر نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا۔ آواز میں گھن گرج تھی۔ ندا تو مدی طرح وہل کر رہ گئی بلکہ مارے خوف کے ٹیبل سے دو قدم دور ہٹ گئی۔

”شمر کیجیے..... اپنے نانا کے پاؤں قبر میں لٹکوار ہی ہیں۔“

”میں کہاں لٹکوار ہی ہوں سر۔ لٹکے ہوئے ہیں۔ جو انسان بہت بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی تو بولتے ہیں۔“ شمر نے حیرت چھپاتے ہوئے خشونت بھری نظروں سے دیکھا۔

”ایکچو سکیلی..... سر اس وقت میں آپ سے اتنی خوفزدہ ہوں کہ منہ سے کچھ کا کچھ نکل رہا ہے۔“

”آپ مجھ سے نہیں اپنی غلطیوں اور بددیانتی کی وجہ سے خوفزدہ ہیں۔ نہ میرے سر پر سینگ ہیں نا ہاتھی کی طرح دو دانت باہر لٹکے ہوئے ہیں۔“

شمر نے اسی طرح خشک اور بے مہر انداز میں ٹوکا۔ ابھی تک اس نے ندا کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔  
 ”آپ کتنا اچھا اینالائز کرتے ہیں سر۔ آپ کو تو پروفیسر ہونا چاہیے تھا۔“

”آپ ہوتی کون ہیں میرے بارے میں فیصلے کرنے والی کہ مجھے یہ ہونا چاہیے تھا یا وہ ہونا چاہیے تھا۔“ شمر نے برواشت کی آخری حد بہر حال پار کر ہی لی۔ ندا تو اس کی گرج دار آواز سن کر تھر تھر کاٹنے لگی۔ آنکھوں کے کناروں سے یوں تو اتر سے آنسو ابلے گویا اشارے کے منتظر تھے۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔

اس کے آنسو دیکھ کر شمر ایک دم جھاگ کر طرح بیٹھ گیا۔ اور سوچنے لگا۔ پہلی غلطی تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ بے چاری کی نئی نئی جا ب ہے۔ کچھ مار جن تو رکھنا پڑتا ہے۔

”آپ جاییے میں احمد صاحب سے بات کرتا ہوں۔ انھوں نے آپ کا انٹرویو کیا تھا۔ وہی آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن سمجھائیں گے۔ میرے پاس تو رنگروٹ کوٹرینگ دینے کا ٹائم نہیں ہے۔“ یہ کہہ کر اس نے لیپ ٹاپ کی طرف توجہ کی اور تازہ میلز پڑھنے کے لیے اپنا ذہن بنانے لگا۔ ندا اسی طرح خاموشی سے کھڑی اپنے آنسو ہتھیلیوں سے صاف کر رہی تھی۔ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔

شمر کی جان جل کر خاک ہونے لگی۔

”آپ جاتی کیوں نہیں۔ اب کس خوشی میں میرے سر پر سوار ہیں۔“ وہ برہمی سے گویا ہوا۔



”ریلی میں جاؤں سر۔ میں نے سوچا آپ ایک مرتبہ پھر مجھے جانے کو بولیں۔ کیا پتا غلطی سے آپ کے منہ سے نکل گیا ہو۔“

ثمر کا جی چاہا لپٹا پ انٹھا کرا اپنے سر پر دے مارے۔  
 ”سب کو اپنی طرح سمجھا ہوا ہے۔ جالی ہیں یا میں اپنا روم چھوڑ دوں؟“  
 ثمر کے دماغ میں گویا ہنڈیا پکنے لگی۔  
 ندا تو یوں بھاگی جیسے نیا نیا پیدا ہونے والا بلو نگڑا آہٹ سن کر دوڑ لگاتا ہے۔  
 ثمر نے اس کے جانے کے بعد دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ جس باس کی از دو اجی زندگی مسائل کا شکار ہوتی ہے۔ اس کے کو لیگز کو تو ویسے بھی اپنے اپنے گھر میں ہر مہینے آسٹ کریمہ کا ختم کرانا چاہیے۔

☆☆.....☆☆

ایمن نڈ حال سی صوفے پر گرے پڑے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ خیالات کی یورش کے بعد اگلا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب ذہن کام کرنا بالکل بند کر دیتا ہے۔ اندر اور باہر ایک سناٹا برا جمان ہو جاتا ہے۔ سکوت کا یہ دورانیہ مادی حواس کو گویا زنجیریں پہنا کر بٹھا دیتا ہے۔ ماضی، حال، مستقبل بے معنی ہو جاتے ہیں۔ سکوت اور خاموشی اس ماروائی جہان تک رسائی دیتے ہیں جہاں ذات رشتوں کے بوجھ سے آزاد ہو کر ہوا کی طرح ہلکی محسوس ہوتی ہے۔

جانے کتنی دیر وہ اس کیفیت میں رہی۔ ماہوش کی خوشی سے لبریز بلند آواز نے فوراً ہی اسے آب و گل کی سرزمین پر پوری قوت سے لا پٹھا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی تھیں۔ ماہوش اور ماہ پارہ ہاتھ میں گڑیاں اور دوسرے کھلونے تھامے خوشی سے بے حال ماں کے قریب کھڑی تھیں۔ مشکور احمد ذرا فاصلے پر خوشی سے شور مچانی نو اسیوں کی طرف مسکرا مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔

”مما..... یہ دیکھیں..... یہ نانا جان نے دلوائے ہیں۔ اتنے سارے Toys۔“  
 ماہوش کھلونے ماں کے سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔

”اور ممما..... نانا جان نے ہمیں بہت ساری آکس کریم بھی کھلائی تھی۔“ ماہ پارہ نے بھی پُر جوش انداز میں حصہ لیا۔

”مما..... اب ہم ہمیشہ نانو کے گھر رہیں گے۔ دادی جان والے گھر نہیں جائیں گے۔“ ماہوش نے بڑی معصومیت سے مستقبل کا پلان ماں سے شیئر کیا۔

”اور کیا ممما..... نانو کے گھر میں بہت مزہ آتا ہے۔ ہم بہت سارے کارٹون بھی دیکھتے ہیں اور نانا جان ہمیں باہر بھی لے جاتے ہیں۔ Toys دلاتے ہیں، آکس کریم کھلاتے ہیں۔“ ماہ پارہ نے بہن کی تائید کے ضمن میں کہا۔

”سوٹ کارن بھی دلاتے ہیں۔“ ماہوش نے بہن کو یاد دلایا۔

”جی ممما..... اتنے مزے کے اور اسپانسی ہوتے ہیں۔“ ماہ پارہ کو سوٹ کارن کے مزے یاد آ گئے۔  
 ایمن نے بچیوں کا دل رکھنے کے لیے جبری مسکراہٹ کا اہتمام کیا اور مشکور احمد کی طرف دیکھا جو



بچیوں کو خوش دیکھ کر پھولے نہ سمار ہے تھے۔  
مشکور احمد کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور چہرے سے تفکرات جھلکنے لگے۔ وہ صوفی پر بہت محتاط انداز میں بیٹھ گئے۔

”اللہ سے دعا کرو! اللہ انہیں ماں اور باپ دونوں کا پیار دے۔ ان کے نصیب اچھے کرے۔ ان کے ہاتھوں سے بھلائی کے کام لے۔ دنیا کو ان سے راحت و فیض پہنچے۔ ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آمین۔“  
”تم آمین۔“ باپ کی خوبصورت دعا اور آمین کے بعد ایمین نے برجستہ اور بے ساختہ انداز میں تم آمین کہا تھا۔

”نانا جان ہم لوگ ماما اور نانا کو بھی آٹس کریم کھلانے لے کر جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟“  
ماہ پارہ نے ماں کے چہرے پر بکھری اداسی کا فوری حل سوچ لیا تھا کہ شاید ماں آٹس کریم نہ ملنے کی وجہ سے اپنی اداس نظر آ رہی تھی۔

ماں کی اداسی دور کرنے کے لیے ایک خوبصورت وعدہ بہت ضروری تھا۔ اس نے اپنی بات یا وعدے کا تاثر دیکھنے کی کوشش بھی کی تھی۔ ایمین زبردستی بیٹی کا دل رکھنے کے لیے مسکرائی تو ماہ پارہ خوش ہو گئی۔

مشکور احمد دونوں بچیوں کی طرف دیکھتے ہوئے نئے سرے سے کسی خیال کی گہرائی میں اتر گئے تھے۔ ایمین نے پھر نڈھال انداز میں آنکھیں موند لی تھیں۔ دونوں بچیوں کو نئے کھلونے کششِ ثقل کی طرح اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔

☆☆.....☆☆

”بیٹا وقت پڑنے پر تو گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں۔ تم ہاتھ پیر جوڑ کر کسی طرح لے آؤ۔“ فردوس پھرے ہوئے یاور کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے چمکا رہی تھی۔  
”میں کیوں جاؤں؟ کیا ضرورت ہے مجھے؟ مجھے ایسی خود سر ہٹ دھرم بیوی نہیں چاہیے۔ اسے شرم نہیں آئی رات کے اندھیرے میں دو بچیوں کو لے کر بغیر بتائے گھر سے نکل گئی۔“ یاور جیسے پھٹ پڑا تھا۔

”ارے بھئی..... اس کی یہ اکڑ بے معنی نہیں ہے۔ وہ کسی بات پر ہی اتنی اکڑ دکھا رہی ہے اور اب سمجھ بھی آ رہی ہے کہ وہ الٹا سا وڈ کرانے پر کیوں رضامند نہیں ہو رہی تھی۔“ حامد حسین نے گرتے کی جیب ٹٹول کر سگریٹ کی ڈبیہ برآمد کی اور بہت سکون سے گویا ہوئے۔

پان کھانے والے گلوری دیکھ کر اور سگریٹ پینے والے سگریٹ دیکھ کر پیشگی خوش مزاج ہو جاتے ہیں اس لیے حامد حسین کے رگ دریشے میں اتری داگی کڑواہٹ وقتی طور پر معدوم ہو گئی تھی۔ سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبائی لائٹر کی کھٹ کھٹ ماحول میں گونجی اور دھواں پھیلنے لگا..... تیلی دکھانا، دھواں پھیلا نا تو ویسے ہی سرشت میں تھا۔

”کیوں رضامند نہیں ہو رہی تھی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ سمجھائیں مجھے.....“



”چپکے چپکے بالا ہی بالا وہ الٹا سا وٹڈ کرا چکی ہے اور اسے پتا چل گیا ہے کہ اس مرتبہ وہ بیٹا پیدا کرنے جا رہی ہے۔ اب لے گی گن گن کے بدلے۔ خوب ناک میں تنکا چلائے گی۔“ فردوس نے آنکھیں مٹکا کر انگوٹھا بھی چلایا۔

یاور فردوس کی بات سن کر ہکا بکارہ گیا تھا۔ یہ تو اس کے دماغ میں آیا ہی نہیں ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ”کیا کہہ رہی ہیں امی؟“ بس اس کے منہ سے اتنا ہی نکل سکا۔

”اور ہاں یہ بھی بتا دوں لگے ہاتھ۔“ حامد حسین بولتے بولتے ر کے اور دو تین کش ایک ساتھ کھینچے کیوں کہ اب جملہ نہیں پیرا گراف پڑھنا تھا۔

اُن کے وقفے سے یاور کی بے تابی تجسس کے سمندر کے کناروں سے اُبلنے لگی کہ والد محترم نہ جانے کون سی J.I.T رپورٹ پڑھ کر سنانے والے ہیں۔

”اس کی اپنی اوپر کی فیکٹری کام نہیں کرتی۔ یہ پٹیاں اسے اس کی ماں نے پڑھائی ہیں۔ تمہاری ماں نے کئی بار سنا ہے ٹیلی فون پر رورو کر اپنی ماں کو جھوٹی سچی کہانیاں سناتی ہے۔“ حامد حسین یوں وثوق سے کہہ رہے تھے جیسے کوئی ایماندار گواہ کورٹ میں شہادت دے رہا ہو۔

یاور نے سر جھکا لیا..... جیسے تانے بانے سلجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔

”لیکن پاپا..... وہ تو کبھی اکیلی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی۔“ یاور نے ایمن کی پچھلی کارکردگی کو ذہن میں رکھ کر باپ کے اندیشوں کو بے معنی قرار دینے کی کوشش کی۔

”ہوناں گل کے بچے..... ارے اپنی ماں کے گھر تو آتی جاتی ہے ناں۔ یہ کام وہیں ہوئے ہیں۔“ فردوس نے بھی عینی شاہد کی اسپرٹ کے ساتھ شوہر سے اتفاق کیا۔

”مگر یاور ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ بیٹے کی نوید نے بھی اس کی جذباتی حالت میں کوئی تغیر برپا نہیں کیا تھا۔

”لیکن امی..... اسے تو یہ خوش خبری مجھ سے فوراً شیئر کرنا چاہیے تھی۔ اسے پتا ہے کہ ہم سب اس گڈ نیوز کا کتنی شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔“ یاور نے ایک طرح تمام شہادتیں مسترد کر دی تھیں۔

”ستار ہی ہے ہمیں۔ ماں کے کہنے پر بدلے لے رہی ہے۔ خود تو مٹی کا مادھو ہے یا پھر اس کی ایک نمبر کی چالاک بہن چمن اس کو Tips دیتی ہوگی۔ کم بخت خود تو اجاڑ ویران ہے۔ بہن کو بھی ویران کرے گی۔“

”ہوں۔“ جتنی ویرماں نے گل افشانی کی یاور اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑانے میں لگا رہا۔

”ہوں۔ کیا؟“ فردوس نے کڑے تیور سے بیٹے کو گھورا۔

”اگر ایسی بات ہے تو میں پتالگالوں گا۔“

”یہی تو کہہ رہے ہیں کہ دوڑو..... رام کرو اسے۔ ارے بیٹا پیدا کرتے ہی اگر خلع کا مطالبہ کر دیا تو سمجھو ہم تو کہیں کے نہ رہے۔ ہمارے آنگن کا درخت پرانے آنگن میں..... نہ بابا نہ..... ارے جلدی کرو.....“

”یہ کیا منہ ہی منہ میں منتر پڑھ رہے ہو؟ مٹکوں کے بس کی بات نہیں تمہیں خود جانا پڑے گا۔“



فردوس نے ڈپٹ کر سیدھے سادے بیٹے کو مزید ہراساں کیا۔  
 ”جاتا ہوں امی.....“ وہ تھکے تھکے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔

”ارے زمین پر بیٹھ کر اس کی جوتیاں سر پر رکھ لینا..... بس ایک بار اسے اس گھر میں واپس لے آؤ۔ اس کے بعد ہم جانیں ہمارا کام۔“ فردوس نے بڑے گھمنڈ سے گردن اکڑا کر کہا تھا۔  
 حامد حسین کش لگانے میں مصروف تھے مگر انھوں نے انگوٹھا بیگم کے سامنے کر کے ویلڈن! کا اشارہ کرنے کی فرصت نکال ہی لی تھی۔

☆☆.....☆☆

بانو آ پا کسی یار دیرینہ مہر النساء سے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھیں۔

”مہر النساء کیا بتاؤں۔ ارے بہت پہنچی ہوئی ہے۔ جب اپنی ماں کے گھر جاتی ہے کچھ نہ کچھ لے کر آتی ہے۔ لگتا ہے اس کی ماں نے کوئی بڑا عامل کامل پکڑا ہوا ہے۔ میرے کسی تعویذ، جھاڑ پھونک کا بیٹے پر اثر نہیں ہوتا۔ تم دیکھو تو دیکھتی رہ جاؤ۔ ایسا اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے کہ کیا بتائیے۔ جیسے مجمع کے گرد پروانہ.....“

اتنا کہہ کر وہ مہر النساء کی سننے لگیں جو مختلف ٹونے ٹونکے بتا کر سہیلی کی اشک شوئی کرنے کے درپے ہو گئیں۔ سہیلی کے کھسے بٹے تجربات اور مشورے سن کر فوراً ہی بے زار ہو گئیں۔

بے چوں کی مولیٰ۔ نخرے ایسے جیسے تخت کا وارث دے کر تاج لگا کر بیٹھی ہو۔ چلتی ایسے ہے جسے بیس گز کپڑے کی پوشاک پہنی ہو۔ جیسے دس کینروں نے سنبھالا ہوا ہو..... آ کر دیکھو تو سہی کسی دن۔“  
 ”میں یہ تو نہیں کہتی کہ تم اسے طلاق لے کر دوسری شادی کرو..... مگر کیا اولاد کی خاطر مرد دوسری شادی کرتے نہیں ہیں۔“

اسی دوران ثمر نے تھکے تھکے انداز میں لاؤنج میں قدم رکھا تھا اور ماں کا آخری جملہ سن لیا تھا۔ چند لمحوں تو ششدر سا ماں کی طرف دیکھتا رہا پھر گہری سانس لے کر آگے بڑھا اور بریف کیس سینٹرل ٹیبل پر رکھ کے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔

بانو آ پا چانگ سامنے ثمر کو پا کر اچھی خاصی حواس باختہ ہو گئی تھیں۔

”مہر النساء میں پھر بات کرتی ہوں..... اچھا خدا حافظ۔“ یہ کہہ کر انھوں نے اپنا موبائل ایک طرف رکھ دیا اور کن انکھیوں سے ثمر کی طرف دیکھا۔ ثمر نے بند آنکھیں کھول کر ماں کی طرف دیکھا۔  
 ”امی جان یہ کیا عجیب سی باتیں کرتی ہیں۔ دوسری تیسری شادی۔ کیا شادی کرنا کوئی مذاق ہے؟ بس ایک بار ہو گئی تو ہو گئی۔“ اس نے بڑی ناگواری کی کیفیت سے بات کی تھی۔

”ارے واہ..... اپنے خاندان کا نام و نشان مٹادیں۔ سر سلامت تو پگڑیاں بہت۔ تمہیں عورتوں کی کمی ہے۔ ایک سے ایک کنواری مل سکتی ہے۔ بچوں والے مرد کو مسئلے ہو سکتے ہیں۔ بے اولاد تو سمجھو کنوارہ کا کنوارہ۔“

”امی جان..... امی جان..... پلینز..... شادی ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے۔ ایک معاہدہ..... نکاح نامے پر کہاں لکھا ہوتا ہے کہ اگر اولاد نہ ہوئی تو جب مرضی یہ معاہدہ توڑ دیا جائے؟“ ثمر نے تھکاوٹ



WWW.PAKSOCIETY.COM کے باوجود کیلوں کی طرح جرح کی.....

”ارے معاہدے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، نقصان کے لیے نہیں۔ اور پھر ہم کون سا اسے طلاق دلوانے کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم دوسرا نکاح کر لو۔ تاکہ اس گھر میں تمہارے بچوں کی رونق ہو۔ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔“ بانو آپا بر جستہ بولیں۔

”چھوڑیں ای جان..... اگر مقدر میں اولاد ہے اور ضرور ہے تو پھر چمن سے بھی مل سکتی ہے۔ اگر نہیں ہے تو دس نکاح کر کے بھی نہیں مل سکتی۔ بس اب آپ آئندہ مجھ سے یہ دوسری تیسری چوتھی شادی کی بات نہ کریں۔“

شر بے زاری سے کہہ کر اٹھا۔ اپنا بریف کیس اٹھایا اور بیڈروم کی طرف چل پڑا۔ ابھی روٹھی بیوی کو منانے کا کڑا مرحلہ باقی تھا۔ بہت سخت بولا تھا۔ دل پر بہت بوجھ تھا۔ بانو آپا گویا انگاروں پہ جا بیٹھی تھیں۔ بیٹا کیسا نکاسا جواب دے کر چلا گیا تھا۔

☆☆.....☆☆

چمن کو گاڑی کی آواز سے پتا چل گیا تھا کہ شمر آچکا ہے۔ مگر اسے یہ بھی پتا تھا کہ ماں سے کچھ کہنے سے بغیر وہ بیڈروم میں نہیں آسکتا۔ جو اس کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھ جاتی تھیں۔ پھر اس کے آنے تک ہلتی نہیں تھیں۔ مبادا ان سے پہلے چمن اسے جالے اور وہ جو کہنے کے لیے تڑپ رہی ہیں وہ دل کی دل میں رہ جائے۔

ایک سرد جنگ جو کسی بھی وقت اچانک شروع ہوتی تھی وہ اسی طرح اچانک ختم بھی ہو جاتی تھی۔ ایک چھوٹا سا جملہ روٹھے ہوؤں کو منانے کے لیے مل بن جاتا تھا۔ مثلاً آج بہت تھک گیا ہوں..... جواب میں چمن کہتی..... سرد بادوں.....؟

اور پھر ظالم سماج کی ریشہ دوانیاں لب بستہ کھڑی رہ جاتیں۔ ہونٹوں پر گلاب کھلتے۔ صبح روشن اور آراستہ ہو کر استقبال کرتی۔ اس روز ناشتے پر کوئی خاص چیز بھی ضرور بنتی۔ بانو آپا تسبیح ہاتھ میں پکڑے جا سوسی نظروں سے بہو کے سوکھے گیلے بالوں کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتیں جو چمن میں کام کرنے کی وجہ سے بڑے سے کچر میں مقید ہی ملتے۔ اگر چمن کی فریش نیس کا پکا یقین مل جاتا تو دل ہی کڑھنے لگتیں۔

”ہونہہ، کیکر پر انگو چڑھے ہیں کبھی..... فضول میں صابن، پانی، شیشو کا خرچہ..... نان نفقہ بھی تب ہی برداشت ہوتا ہے جب نسلیں پروان چڑھیں۔“

”لگتا ہے آج کام زیادہ تھا۔“ شمر نے کوٹ اتارا تو چمن نے جھٹ ہاتھوں میں لے لیا۔ جیسے کوٹ نہیں اس کی تھکن ہاتھوں میں سمیٹ رہی ہو۔

”ہوں۔ اب تو درد کی شدت سے چکر آ رہے ہیں۔ ایسا کروڈ سپرین دے دو۔“

”خالی پیٹ ڈسپرین کھائیں گے۔ ڈاکٹر منع کرتے ہیں۔“ چمن کی طرف سے لاڈلار شروع ہو گئے۔

”کچھ کھانے کی ہمت نہیں۔“ شمر نے ٹائی کے پھندے سے گردن چھڑائی اور چمن کی طرف بڑھا کر

گرنے کے انداز میں بیڈ پر آڑا تر چھالیٹ گیا۔



چمن نے کوٹ ہیگر کیا ثانی ٹھکانے پر پہنچائی اور ٹمر کے قریب بیٹھ کر اس کی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے ہوئے بولی۔

”اُف اتنی تھکن ہے کہ اوپر کا بٹن تک نہیں کھولا۔“ اس کے انداز میں دلا رتھا۔ بٹن کھول کر وہ سر دبانے لگی۔ چند سیکنڈ ٹمر آنکھیں بند کیے ایک ہی زاویے سے لیٹا رہا۔ پھر اس کے گرم ہاتھوں نے چمن کے ہاتھ تھام لیے۔ جو اس مادی گرفت سے آزاد ہونے لگے۔

پھر بہشت شیطان کی مداخلت سے پہلے کا منظر دکھانے لگی..... آدم اور حوا..... شیطان، ہابیل قابیل..... ایک ازلی کہانی، قیامت تک کی کہانی۔

☆☆.....☆☆

دھوپ چھاؤں سی زندگی میں پھر ایک خوشگوار صبح نے سواگت کیا تھا۔ ٹمر بہت فریش نظر آ رہا تھا۔ ساری تھکاوٹ، سردرد ایک چاہنے والی بیوی نے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لیا تھا۔

ناشتا لگا کر وہ ٹمر کو تیاری میں مدد دینے کی غرض سے بیڈروم میں آگئی تھی۔ ٹمر تقریباً تیار تھا بس کوٹ پہننا باقی تھا۔ کوٹ بھی چمن پہناتی تھی پھر برش اور اسپرے بھی خود ہی کرتی تھی۔

”کبھی کبھی مجھے اپنی قسمت پر بہت رشک آتا ہے۔ ابھی تک میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکی مگر آپ..... آج بھی وہی ہیں جو شادی کے شروع دنوں میں تھے۔ کوئی چینیج نہیں۔“

وہ کوٹ پہناتے ہوئے محبت سے معمور لہجے میں کہہ رہی تھی۔

”بھئی دے نہیں سکیں..... مگر دینے کے چانس تو ہیں۔“ ٹمر نے اس کی پیشانی پر جھولتی لٹ پر شرارت سے پھونک ماری۔

”ہم جوان ہیں۔ بوڑھے تو نہیں ہوئے..... تم اپنے ٹیٹ کراچکی ہو۔ تمام رپورٹس پوزیٹو ہیں۔“

میں تو ہمیشہ بہت پُر امید رہتا ہوں۔“ لفظ ٹیٹ سن کر چمن کو عجیب سی تحریک ہوئی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس نے خود کو روک لیا۔ اتنی حسین صبح وہ کسی بد مزگی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔

”پُر امید ہونا تو ذہنی صحت مندی کی علامت ہے۔“ اس نے یونہی کہہ دیا جیسے سر پر پڑا کوئی قرضہ چکار ہی ہو۔

”بھئی میں ذہنی طور پر ہی نہیں جسمانی طور پر بھی بالکل صحت مند اور فٹ ہوں۔“ ٹمر نے شرارت سے اس کے رخسار پر اپنا استحقاق ثابت کیا۔

”کیوں خود کو اپنی نظر لگاتے ہیں؟“ اس نے کوٹ پر برش کرتے ہوئے شرمگین مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ٹمر کی نگاہوں کا والہانہ پن آج بھی اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتا تھا۔

وہ اسپرے اٹھا کر کیپ ہٹانے لگی ہی تھی کہ ٹمر ایک دم چونک کر بولا جیسے اچانک اسے کوئی اہم بات یاد آگئی ہو۔ ساتھ ہی اپنی پیشانی پر زور سے ہاتھ مارا۔

”اوہ..... میں تو بھول ہی گیا۔“ یار وہ میرا دوست شکیل ہے ناں جو دو سال سے یورپ میں تھا۔

واپس آ گیا ہے۔ کل اس نے فون کیا تھا۔ اس کے ٹونسن کی برتھ ڈے ہے۔ آج شام میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ تم تیار رہنا۔ امی جان کے لیے کچھ بنا لینا ہم تو ڈنروہیں کریں گے۔“



شر پر اب ایک دم عجلت سوار ہو گئی جیسے شام سر پر ہی آکھڑی ہوئی ہو۔ جلدی جلدی اپنا وائلٹ،  
موبائل Key Ring اٹھانے لگا۔

”Twins کی برتھ ڈے..... ماشاء اللہ..... دونوں بیٹے ہیں؟“ چمن بھی ایک خوشگوار تقریب میں  
شرکت کے خیال سے کھل اٹھی۔  
”ہوں دونوں بیٹے ہیں۔“

دونوں میاں بیوی نے پلان کیا تھا کہ شادی کے تین سال تک Baby پیدا نہیں کریں گے۔ اللہ  
میاں نے ایک سال کے اندر اندر Twins دے دیے کہ کرو پلاننگ بچو!“  
چمن بھی یہ سن کر ہنس پڑی تھی۔  
”بچوں کے لیے گفٹ بھی تو لینا ہوگا۔“

”ہاں ہاں..... میں جلدی آ جاؤں گا..... بس یار لیٹ ہو گیا جلدی سے ناشتا دو۔“ وہ تیزی سے باہر  
کی طرف بڑھا، چمن پیچھے پیچھے تھی۔

☆☆.....☆☆

شر کے جانے کے بعد چمن ضروری کام نمٹا کر سو گئی تھی۔ رات دیر سے سوئی تھی اور پھر آج برتھ ڈے  
کے فنکشن میں بھی جانا تھا۔ اس کے گھنے بال تیکے پر بکھرے ہوئے تھے۔ کروٹ کے بل سو رہی تھی۔ بانو  
آپانے آہستگی سے دروازہ کھولا تھا۔

دے پاؤں کمرے میں داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند نہیں کیا بلکہ سپدھی چمن کے سر پر جا کر  
کھڑی ہو گئیں۔ چند لمحے اس کی طرف غور سے دیکھتی رہیں تاکہ اچھی طرح سلی ہو جائے کہ وہ گہری  
نیند سو رہی ہے۔ خوب اطمینان کرنے کے بعد انہوں نے اپنی بند مٹھی کھولی جس میں بہت چھوٹی سی  
قینچی دبی ہوئی تھی۔ انہوں نے کمال ہوشیاری سے چھوٹی سے بالوں کی لٹ درمیان سے کاٹ لی  
تاکہ چمن کو فوراً ہی اندازہ نہ ہو سکے کہ اس کے کچھ بال بے ترتیب کٹے ہوئے ہیں۔ بال اور قینچی مٹھی  
میں دبا کر دل تو چاہا تھا کہ فوراً پھوٹ لیں۔ مگر جتنی احتیاط کی ضرورت آمد کے وقت تھی اس سے  
دو گنی احتیاط رفت کے وقت درکار تھی۔

بلخ کے انداز میں نیچے گاڑ گاڑ کر چلتی ہوئی باہر نکل گئیں اور آہستگی سے دروازہ بند کر دیا مگر پورا نہیں  
کیونکہ پورا بند کیے جانے کی صورت میں کھٹکا پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔

☆☆.....☆☆

وہ کافی دنوں بعد کسی ڈنر میں جا رہے تھے۔ اس لیے چمن نے بہت اہتمام کیا تھا۔ گرے شیفون  
کی ساڑھی جس پر سلور بناری چھینٹا پڑا تھا اور چھوٹے چھوٹے اسٹون ستاروں کی طرح بکھرے  
ہوئے اور روشنی میں آنکھ مچولی کھیلتے محسوس ہو رہے تھے۔ سادگی میں پرکاری تھی، لباس نہ شوخ تھا  
نہ سادہ، میک اپ بھی اسی مناسبت سے تھا۔ سفید زرقون کا پورا سیٹ پہنا تھا جس میں ننھی منی سی بندیا  
بھی شامل تھی۔ گرے ساڑھی کی مناسبت سے لپ اسٹک ڈارک میرون لگائی تھی۔

شر کی نظر پڑی تو دیکھتا ہی رہ گیا..... شاید اس لیے کہ اس نے کافی عرصے بعد چمن کو اتنے اہتمام

دو ہفتہ 52



www.paksociety.com سے تیار ہوا دیکھا تھا۔  
 ”واللہ..... پانچ سال شادی کو ہو گئے مگر تمہیں ابھی تک عقل نہیں آئی۔“ اس کے لہجے میں ہلکی سی  
 خفگی تھی۔ چمن ایک دم ڈر گئی۔

”کیا ہوا.....؟ یہ..... یہ ساڑھی ٹھیک نہیں؟“ وہ الجھ کر پوچھنے لگی۔

”بھئی غضب ڈھا رہی ہو۔ ڈیڑھ گھنٹہ ڈرائیو تین گھنٹے تقریب میں گزر جائیں گے۔ ساڑھے چار  
 گھنٹوں کی دوری آگئی ہے ہمارے درمیان۔“ اس پر شمر کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ چمن  
 نوبیا ہتا کی طرح شرمنا کر رہ گئی۔

حقیقت ہے کہ شادی کتنی پرانی ہو جائے..... شوہر کا ایک رومانٹک جملہ جست لگا کر وقت کو بہت  
 پیچھے دھکیل دیتا ہے۔

”اچھا جلدی کریں..... زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں۔“ وہ طرح دے کر آگے بڑھ گئی۔

”تعریف اس خدا کی جس نے تمہیں بنا کر ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔“ شمر نے اپنا سیل فون اٹھا کر  
 جیب میں رکھتے ہوئے بڑی ادا سے مسکرا کر چمن کی طرف دیکھا۔ جس کی خم کھاتی کمر میں زندگی  
 ہچکولے لے رہی تھی۔

☆☆.....☆☆

”اے بیٹا جا رہے ہو تو پلے کر ہی آنا۔ منہ کی کھا کر مت آنا۔“ فردوس نے یاد رکھنے کے دوران  
 جالیہا..... یاد کرنے والی شلواری میض پہنا ہوا تھا۔ بہت نکھر نکھر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بالوں میں برش  
 چلاتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔

”دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے..... یہ تو ہاں پہنچ کر ہی اندازہ ہوگا کہ کیا سچویشن چل رہی ہے۔“



رضوانہ پرنس کا نیا شاہکار ناول

اک نئے موز پر شائع ہو گیا ہے

محبت کے خوبصورت احساس میں جب شک اور بدگمانی کی آگ بھڑک  
 اٹھے تو سب کچھ جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔

ایسے ہی ٹوٹے بکھرتے رشتوں کی یہ کہانی آپ کو اپنے سحر میں جکڑ لے گی  
 اور اس کا اینڈ آپ کو ششدر کر دے گا۔

قیمت صرف 350 روپے

ناول ملنے کے پتے: (ویکم بک پورٹ، مین اردو بازار کراچی) (فرید پبلشرز، مین اردو بازار کراچی)

(اشرف بک ایجنسی، اقبال روڈ، کمیٹی چوک، راولپنڈی) (خزینہ علم و ادب، الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور)

(علم و عرفان پبلشرز، الحمد مارکیٹ، اردو بازار لاہور) (علی میاں پبلیکیشنز، عزیز مارکیٹ اردو بازار لاہور)



”آگ لگے سچویشن کو..... جی میں ٹھان کر نکلو کہ بس اسے لے کر ہی آنا ہے۔ ایک بار آ جائے۔ پھر ہم جانیں اور ہمارا کام۔“ فردوس کے انداز میں خود اعتمادی سے زیادہ رعونت تھی۔ یاور نے ایک گہری نگاہ ماں پر دوڑائی تھی۔

”ہلکا ہاتھ رکھیے گا۔ اس بار تو جا رہا ہوں۔ دوبارہ چلی گئی تو سمجھ لیں ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔“ یاور نے بھی اپنی طرف سے پیش بندی کی۔

ارے بس ایک بار ہسپتال جائے..... خدا نخواستہ پھر تیسری نیک بخت کا منہ دکھایا تو بھلے ہمیشہ کے لیے چلی جائے..... پھٹ پڑے وہ سونا جس سے ٹوٹیں کان..... آج تمہاری دوسری شادی کا اعلان کروں تو رشتوں کی قطار لگ جائے۔ خوبصورت اکلوتے بیٹے کورشتوں کی کوئی کمی نہیں جس کے پاس اپنی چھت بھی ہو۔ بھلے دو دفعہ شادی کر چکا ہو یا چار دفعہ..... ارے آج کل لڑکے ملتے ہی کہاں ہیں۔“ فردوس تکبر سے گردن اٹھاتی باہر نکل گئیں آخری الفاظ بڑ بڑاہٹ کی صورت میں ادا ہوئے تھے۔

☆☆.....☆☆

ثمر کے دوست شکیل کے گھر میں رنگ و نور کا سلاب اٹھا ہوا تھا۔ بظاہر بچوں کی برتھ ڈے تھی مگر یوں لگتا تھا آج سب اپنے اپنے ارمان نکالنے پر تل گئے تھے۔ جڑواں بچوں کی برتھ ڈے بھرپور انداز میں انجوائے کر رہے تھے۔ کافی سارے مہمان تو میزبان خصوصی یعنی شکیل کے دونوں بچوں کے ساتھ بیلون پھلا پھلا کر کارپٹ پر ڈھیر لگا چکے تھے۔ کوئی بیلون پھٹتا تو ایک شور غوغا مچتا..... حقیقت تو یہ تھی کہ آج بڑے بھی بچے بنے ہوئے تھے۔ بچوں کی ماں نے اپنی ساری تیاری میں بہت اہتمام کیا تھا۔ سی گرین ساڑھی اور ہم رنگ جیولری کے ساتھ اتنی مسرور و شاداں و فرحان نظر آ رہی تھی گویا خود کو کسی ریاست کی ملکہ تصور کر رہی ہوں۔

دونوں بچوں نے سلور گرے کلر کی شیرداناں اور سیاہ پانچائے زیب تن کیے تھے۔ میچنگ کے گھسے اور تاج پہن کر بالکل شہزادے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ مہمانوں کے رش کے دوران میاں بیوی ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے تو بہت معنی خیز اپنائیت بھری مسکراہٹ کا تبادلہ کرتے۔ چمن ایک طرف بیٹھی گویا عیسیٰ مشاہدے کے عمل سے گزر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رشک کی کیفیت بہت واضح تھی۔ بڑے دل اور کھلے ذہن کی تھی۔ بچوں پر نظر پڑتی تو ماشاء اللہ ضرور کہتی۔ آج کی تقریب اسے ایک انجان سے خالی پن کا احساس دلا رہی تھی۔ جسے کوئی نام دینے کے لیے شاید الفاظ ہی دریافت نہیں ہوئے تھے۔

یوں ہی ایک خیال القاء ہوا..... جس میں شدت اور جم جانے کی بہت توانائی تھی۔ ذل سکڑا..... سمٹا..... سمٹ کر پوری قوت سے پھیلا..... اس کے مقدر میں یہ خوشیاں نہیں ہیں..... نوشتہ نہیں وہم تھا..... مگر یقین کی طاقت سے لبریز تھا..... وہ اپنے ہی خیال سے خوف کھا گئی۔

”یہ میں کیا اول فول سوچ رہی ہوں..... لا حول ولا قوۃ.....“

یہ امید کیوں انگلی چمڑا کر بھاگ گئی.....؟

یہ میرے دائیں بائیں بیٹھے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟



دیکھتے نہیں اُمید سرپٹ دوڑ رہی ہے..... ارے اسے پکڑو۔ کہیں گم نہ ہو جائے۔ جانے اس کے چہرے پر کیسی فلم چل پڑی تھی کہ مگر جو اپنے کسی دوست سے دلچسپ لطیفہ سن کر ہنس رہا تھا۔ چمن پر نظر پڑتے ہی چونک گیا۔ ہنسی ایک دم غائب ہو گئی۔ ”ایکسکیوز می“ کہہ کر تیز تیز چلتا چمن کے پاس آیا۔

”کیا ہوا چمن..... طبیعت تو ٹھیک ہے؟“

چمن کی روح ڈغا سکر کے غاروں سے راہ ڈھونڈتی باحول میں واپس آئی۔ اس نے خالی خالی نظروں سے مگر کی طرف دیکھا۔

”کیا ہوا؟“

”تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔“ مگر پریشانی کی کیفیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔

”اوہ..... نہیں..... میں بالکل ٹھیک ہوں..... پلیز آپ انجوائے کیجیے۔“

”Really are you ok?“ مگر کو اس کے جواب سے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔

”جی..... میں بالکل ٹھیک ہوں..... پتا نہیں آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ پلیز آپ انجوائے کیجیے۔“

”ارے ذرا سا صبر کر لو یار..... ایک منٹ بیگم سے بات نہ ہو تو تمہاری حالت غیر ہونے لگتی ہے..... یار..... بیگم ہے ساتھ گھر ہی جائے گی، گرل فرینڈ تو نہیں جو راستے میں اتر جائے گی۔“ ہکیل کی بیلون پھلاتے ہوئے دونوں پر نظر پڑی تو اس نے فوراً جملہ پخت کر دیا۔ بے اختیار قبضہ بلند ہوئے تھے۔

بیلون پھلا کر کچھ Indoor گیمز ہوئے جن میں بچوں، بڑوں سب نے حصہ لیا۔ ایک بہت خوبصورت چینی گڑیا کے لیے قرعہ اندازی ہوئی۔ جس میں حصہ لینے کا طریقہ کار یہ تھا کہ سب مہمان اپنی پسند کا ایک انگلش حرف چھی لکھ کر ایک جا رہیں ڈالیں گے ساتھ میں اپنا نام بھی لکھیں گے۔ گڑیا کے پاؤں پر ایک حرف چھی پہلے ہی لکھ کر میزبان نے اسے اس کے شوز پہنا دیے تھے۔

اس گیم میں سب بچوں بڑوں نے حصہ لیا۔ طے یہ ہوا تھا کہ اگر کئی مہمانوں نے وہ حرف لکھا جو گڑیا کے پاؤں پر لکھا ہوا ہے تو پھر ایک قرعہ اندازی ہوگی اور ایک پر چھی اٹھائی جائے گی جس کا نام نکلے گا گڑیا اس کی۔

سب مہمانوں نے اس گیم کو بہت انجوائے کیا۔ پر چیاں ڈالی گئیں پھر کھولی گئیں۔ نوٹوں کی طرح سیدھی کر کے یکجا کی گئیں۔ پھر گڑیا کے پاؤں سے جوتا اتارا گیا۔ گڑیا کے پاؤں پر ”O“ لکھا ہوا تھا۔ ”O“ لکھنے والوں نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر نعرے لگانا شروع کر دیے۔ O لکھنے والوں میں چمن بھی شامل تھی۔ میزبان نے کراؤ ڈکنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یاد دلایا کہ ابھی ”او“ لکھنے والوں کی پرچیاں الگ کی جائیں گی، اور ایک اور قرعہ اندازی ہوگی۔ اس کھیل میں Foul کھیلنے کی ذرا برابر گنجانا نہیں تھی کیوں کہ تمام مہمان حرف لکھ کر میزبان کے حوالے کر چکے تھے۔ بہت ہی غیر متنازعہ کھیل تھا۔ سب ہر سکون ہو کر بیٹھ گئے۔ جا رہیں اب ”او“ لکھنے والوں کی پرچیاں ڈالی گئیں۔ اور سب سے



چھوٹے ایک مہمان بچے کو بلا کر پرچی نکلائی گئی۔ میزبان نے پرچی کھول کر سب کے سامنے لہرائی۔ اس پر چمن کا نام لکھا ہوا تھا..... ایک مرتبہ پھر فلک شگاف شور و غوغا شروع ہوا.....

چمن گھبرا کر شرما کر سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شکیل کی بیوی ربیعہ نے بڑی سی چائز گڑیا اٹھا کر چمن کو پیش کی۔ زبردست تالیاں بجنے لگیں۔

”اللہ میاں تو ٹائم لے رہے ہیں۔ نی الحال اس سے دل بہلاؤ..... زیادہ وزنی نہیں ہے مشکل سے بارہ پونڈ کی ہوگی۔“ شکیل نے چمن کو گڑیا تھماتے ہوئے ثمر کو مخاطب کیا۔

”اچھی خاصی Healthy ہے..... بارہ پونڈ بہت ہوتا ہے۔“

”بھابی آپ پریشان نہ ہوں..... آپ بارہ پونڈ کی گڑیا کے لیے تیاری نہ کیجیے گا۔ سات پونڈ کا Baby بھی Healthy ہوتا ہے۔“ ایک دوست کی بیوی نے گرہ لگائی۔ زبردست قہقہوں کے بیچ چمن کے دل پر سناٹے اترنے لگے۔

”اے یوں لگا سب اس کی محرومی پر نہیں رہے ہوں..... وہ دل کا درد چھپا چھپا کر مسکرانے کی اداکاری کر رہی تھی۔ البتہ ثمر بہت انجوائے کر رہا تھا۔ اب ایک کٹنے کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ دونوں بچے درمیان میں کھڑے تھے اور ان کے ماں باپ دائیں بائیں۔ سنہری دستے کی تلوار کی شیب کی چھری سے ایک کاٹا گیا زبردست تالیوں اور پپی برتھ ڈے کی آوازوں نے ماحول میں خوشیوں کے ایسے رنگ بکھیرے کہ لگا خوشیاں اسی گھر کے لیے تخلیق ہوئی ہیں۔ جس کے پاس سہولتوں سے مزین گھر ہو۔ آرام وہ سواری ہو، اتفاق وامن ہو۔ دل پسند خوراک ہو۔ اور ایک مرتبہ کی کوشش سے دوہری خوشیاں مل گئی ہوں..... اسے کیا خبر ادا سی وغم کس بلا کا نام ہوتا ہے۔ چمن خاموش بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ پھر اسے یکدم خیال آیا کہ وہ بھی تو کم خوش نصیب نہیں۔ ثمر جیسا شریک سفر جو نا اُمید ہونا جانتا ہی نہیں..... محبت اس کا مقدر ہے۔ ادا سی اس نے گرہ سے خریدی ہے۔ ورنہ خوش ہونے کا موقع تو قدرت نے اسے بھی دیا ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کو منانا بھی تو بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ خوشی تو ایک کیفیت کا نام ہے۔ اور کیفیت کسی فارمولے کی محتاج نہیں ہوتی۔

اب وہ خود کو سمجھانے لگی..... انسان خود کو کتنی مشکلوں میں ڈال دیتا ہے۔ خود کو سمجھا سمجھا کر جینا بھی کوئی جینا ہے؟ اس نے اب بڑی حقیقت پسندی سے سوچا۔ کھانا لگ چکا تھا۔ ایک بھر پور ڈنر تھا، جس میں انواع و اقسام کے کھانے بیٹریں، میر پور خاص کے چڑے تک شامل تھے۔

”چڑیاں کتنی ادا اس ہوں گی۔“ چمن نے پلیٹ میں سلاؤنکا لتے ہوئے ثمر سے شرارتا کہا۔

”چڑیاں تمہاری طرح نہیں ہوتیں..... انھوں نے بدین جا کرنے بوائے فرینڈ بنا لیے ہوں گے۔“

ثمر نے برجستہ کہا تھا۔ آس پاس کھڑے دوستوں نے سن کر زبردست قہقہہ لگایا تھا۔

ثمر کے اس جملے نے البتہ چمن کو بہت اچھی طرح باور کرا دیا تھا کہ وہ اس کے مزاج کی ہر ہر لہر کو گنتا رہا ہے۔

☆☆.....☆☆

”اسلام علیکم بابا!“ مہ دوش و مہ پارہ باپ کو دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی تھیں اور بے ساختہ اس کی



ٹانگوں سے لپٹ گئی تھیں۔ یاور جگر کے ٹکڑوں کی بے ساختگی دیکھ کر ماں باپ کے پڑھائے سارے سبق آن واحد میں بھول گیا تھا۔ اس نے چھوٹی کو ایک دم گود میں لے لیا اور اس کے گال پر پیار کیا.....  
 ”پاپا کو بتایا بھی نہیں..... چپکے سے نانو کے گھر آ گئیں؟“ یاور نے محبت سے بیٹی کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔  
 ایمن بچیوں کے شور سے سب کچھ جان چکی تھی۔ حیران حیران سی لاؤنج میں کھینچی چلی آ رہی تھی۔ یاور نے ایک چور مگر جانچتی نظر سے اس کی طرف دیکھا تھا۔

”اسلام علیکم! وہ زریب بولی تھی۔ ناراض تھی، دل میں بہت رنجشیں و کدورتیں تھیں مگر کوئی چل کر آیا تھا..... اس ایک بندھن کا احساس دلانے جسے وہ اپنی دانست میں توڑ کر آ گئی تھی۔ یاور نے ماہ پارہ کو گود سے اتار دیا اور ایمن کی طرف دیکھ کر بہت آہستگی سے پوچھا۔

”کیسی ہو..... حساب چکا کر دل میں کچھ ٹھنڈک سی تو محسوس ہوئی ہوگی..... غصہ بھی اتر گیا ہوگا۔ اب تو آرام سے بات ہو سکتی ہے ناں؟“

”ایمن کی آنکھیں ڈبڈبائے لگیں..... جلدی سے بیٹھ گئی۔ اعصاب اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ذرا سا دباؤ پڑتا تو چکر آنے لگتے۔

”میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہم آرام سے بات کریں۔ غصے میں تو اندر کا زہر نکالا جاتا ہے۔ بات تو آرام ہی سے ہوتی ہے۔“ وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ بچیاں حیران حیران سی ٹکر ٹکر ماں باپ کی صورتیں تک رہی تھیں۔ ایمن کو ایک دم ان کی موجودگی کا احساس ہوا۔

”بیٹا نانو کو بتاؤ کہ پاپا آئے ہیں۔“ اس نے بچیوں کو ٹھلایا۔  
 ”میں بتاؤں گی۔“ مہوش دوڑی۔

”نہیں..... میں بتاؤں گی.....“ اب ایک نیا مقابلہ شروع ہو گیا تھا۔ مگر ایمن کی توجہ ساری کی ساری یاور کی طرف تھی۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ کیوں آیا ہے؟ اگر وہ لینے آیا ہے تو وہ انکار کر دے گی۔ اگر چہ اسے سامنے پا کر رفاقتوں کے سارے کھٹے میٹھے موسم یاد آ رہے تھے۔ نگاہوں کے سارے رنگ، محبتوں کا احساس دلاتی، غضب کی آگ برساتی نگاہیں تو زندگی کا سب سے آسان نصاب تھیں جو پل پل یاور ہتا تھا۔

”اس طرح چھوڑ کر آ گئیں جیسے ہمارا تمہارا کبھی کوئی تعلق ہی نہ تھا۔“ یاور نے غصے کی انتہا کو کمال مہارت سے شکوے میں بدل دیا۔

”یونہی لگ رہا تھا کہ ہمارا اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق محسوس ہوتا تو وہاں سے آنا اتنا آسان نہ ہوتا۔“ ایمن نے انگلیوں کی پوروں میں آنسو جذب کرتے ہوئے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔  
 جواب فطری تھا اس لیے اسے الفاظ ترتیب دینے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔

”غصہ بھی اسی پر نکلتا ہے جسے اپنا سمجھتے ہیں۔ محلے والوں پر تو نہیں برستے۔“ یاور نے حسب استطاعت اظہار محبت کرنے کی کوشش کی۔ کیوں کہ ماں کی پڑھائی پیوں میں یہ گلابی رنگ کی پٹی شامل نہیں تھی۔ ادھر ویسے ہی گلابی رنگ کا قوط تھا۔ صرف لال سرخ رنگ کا غلبہ دکھائی دیتا تھا۔  
 ”اچھا چلو..... اپنی چیزیں سمیٹو..... میں تمہیں لینے آیا ہوں..... باقی باتیں گھر جا کر کریں گے۔“



”وہ میرا گھر نہیں ہے یا اور..... وہ گھر اس کا ہوگا جو آپ کی ماں کو پوتا دے..... مجھ سے اس حال میں دن رات کی افیت برداشت نہیں ہوتی۔ آپ میری طرف سے چار شاویاں کر لیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔“

”پاگل ہوئی ہو؟ اتنا آسان ہے یہ؟ تم میرے تیسرے بچے کی ماں بننے جا رہی ہو۔ Aviod کیا کرو..... امی اور ابا جان کی عمر ہی ایسی ہے۔ اس عمر میں لوگ ٹیمپرامنٹ کھودیتے ہیں۔ چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑے ہیں کچھ کہہ دیا تو کیا ہو گیا۔“

”کچھ کہہ دیں تو برداشت ہو جائے۔ وہ تو کچھ نہیں چھوڑتے۔“ ایمن نے تڑپ کر یاور کی بات کاٹ دی تھی۔ افیت دہندہ کے لیے نرمی کی خواہش نے نئے سرے سے زخم ہرے کر دیے تھے۔

”تمہارے یہ بدلے بدلے انداز..... یقین کرو ایمن تم نے اس وقت مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے۔ اتنا کمزور بھی نہیں ہے ہمارا رشتہ۔“

”اس گھر میں آئے دن اب آپ کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو کچھ بولتے کیوں نہیں۔ امی جان ہر وقت مجھے سناتی رہتی ہیں کہ آج نہیں تو کل وہ نئی بہو لے آئیں گی۔“ ایمن پھٹ پڑی آنسوؤں کا ریلہ بہہ نکلا۔

”پاگل ہو تم..... وہ میرے بغیر بہو لینے جاسکتی ہیں۔ میں شادی کے لیے ہاں کروں گا تو نئی بہو آئے گی..... بے وقوف نہیں تو..... جب مجھے دوسری شادی کرنا ہی نہیں تو میں اس ٹاپک پر فضول سی بحث کیوں کروں..... ایک چپ دس مسکوں سے بچاتی ہے۔ دقت بچاتی ہے۔ فضول بات سے بچاتی ہے۔“

یاور ایک تسلسل سے بول رہا تھا۔ ایمن کے لیے یہ سب کچھ اتنا حیران کن تھا کہ وہ آنکھیں پھاڑ کر یاور کی طرف دیکھنے لگی۔

☆☆.....☆☆

نوا سیوں سے اطلاع مل گئی تھی کہ یاور آیا ہے۔ مگر عطیہ بیگم کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے سامنے جائیں۔ مشکور احمد سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ عطیہ بیگم نے انھیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ خاصی دیر خود سے الجھتی رہیں پھر مزید صبر نہ ہو سکا تو لاؤنج میں چلی آئیں۔ یاور ساس کو دیکھ کر سر و قد کھڑا ہو گیا۔

”اسلام علیکم آئی!“ بیچیاں بھاگ کر باپ کے دائیں بائیں کھڑی ہو گئیں۔ نانا نانی کے پیارنے جیسے خوف کی وہ دیوار گرا دی تھی جو داد ادا دی نے کچی مٹی سے تعمیر کی تھی۔ خون کے رشتوں کے مابین تعمیر ہونے والی دیوار کچی مٹی کی ہی تو ہوتی ہے۔ جسے ڈھانے کے لیے کسی سیلابی ریلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ موسم کا بہانہ بھی کافی ہوتا ہے۔

”جیتے رہو بیٹا..... خیریت سے آئے ہو؟“ عطیہ بیگم نے یوں کلام کیا جیسے محبتوں و بھروسوں کے طویل سلسلے درمیان میں رہے ہوں۔

”جی..... اللہ کا شکر ہے..... ایمن کو لینے آیا ہوں۔“ یاور نے نظریں چرا کر کہا تھا۔

”اچھی بات ہے بیٹا..... مگر تم بڑا مت ماننا..... ایمن اب اس طرح نہیں جائے گی جیسے آج تک



آ کر جاتی رہی ہے۔“ عطیہ بیگم نے طول دیے بغیر ٹودی پوائنٹ بات کی۔  
یاور بری طرح چونک پڑا تھا۔ اس کے خیال میں تو رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل جانے والی بیوی کو وہ لینے آ گیا تھا تو یہ بیوی کی سات پشتوں پر احسانِ عظیم تھا۔  
”میں سمجھا نہیں.....“ وہ خاصا فکر مند نظر آنے لگا تھا۔

”آرام سے بیٹھو بیٹا..... بیٹھ کر سکون سے بات کرتے ہیں۔“ عطیہ بیگم نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ساتھ ہی ایمن کی طرف دیکھا۔

”بیٹا..... یاور کو کھانے، چائے پانی کا پوچھو۔“

”تھینک یو آئی..... کھانا تو میں نے ای پاپا کے ساتھ کھا لیا تھا۔ انہوں نے ہی اصرار کیا کہ سنڈے کا انتظار مت کرو ابھی جا کر ایمن اور بچوں کو لاؤ۔“

ایمن حیرت سے منہ کھول کر یاور کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ جبکہ عطیہ بیگم نے حیرت چھپانے کی کوشش میں ایمن کی طرف دیکھا تھا۔

”امی جان کہہ رہی تھیں بچوں کے بغیر تو گھر کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ وقت نہیں کتنا.....“ یاور مزید گویا ہوا۔  
”یہ کہہ رہی تھیں فردوس بیگم..... مگر وہ تو پوتیوں کو انسان ہی نہیں مانتیں۔ اتنی جلدی خیالات کیسے بدل گئے؟“ عطیہ بیگم سے اب برداشت نہ ہو سکا۔ سفید جھوٹ پر نیلی پیلی ہونے لگیں۔ آخر داماد نے سمجھا کیا تھا۔ جو توں سمیت آنکھوں میں گھسا چلا آ رہا تھا۔ کون سی سالوں پرانی بات تھی۔ ابھی کل ہی تو ایمن کس بُرے حال میں یہاں آئی تھی۔ پیاس برداشت کرتے ہوئے ہونٹ سفید لکڑی ہو رہے تھے۔ دو گھنٹے تک جو بات کرنے کے قابل نہ تھی۔

”آئی غصے میں تو سب ہی الٹا سیدھا بول جاتے ہیں۔“

”دیکھو بیٹا..... میں ٹھہری عورت ذات..... جس کی گواہی بھی آدھی..... اس لیے کہ فوراً جذباتی ہو جاتی ہے..... مشکور صاحب سو رہے ہیں۔ وہ کیوں کہ میڈیسن لے کر سوتے ہیں اس لیے ہم کتنی بھی ضروری بات ہوا نہیں جگاتے نہیں ہیں۔ صبح کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ گھر بھی تمہارا ہے، تم آرام سے سو جاؤ..... گھر فون کر کے بتا دو..... صبح مشکور صاحب کے سامنے بات کر لیتے ہیں۔ ایمن واپس جانے کے ارادے سے نہیں آئی مگر ہم ماں باپ ہیں..... ہر طرح سے بیٹی کو بسانے کے راستے ڈھونڈیں گے۔“

”کیا مطلب؟ واپس جانے کے ارادے سے نہیں آئی؟“ یاور نے بمشکل دماغ کی طرف چڑھتے بخارات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔

”آدھے گھنٹے میں پانچ گلاس پانی پیا..... پانی تک نہیں تھا تمہارے گھر میں اس کے لیے۔ ایک گھنٹہ اور دیر سویر ہو جاتی تو میرے منہ میں خاک کوئی بڑا نقصان ہو جاتا۔“

”ٹھیک ہے آئی..... اگر آپ کو یقین ہے کہ میرے گھر میں اسے نہ کھانے کو ملتا ہے اور نہ ہی پینے کو پانی تو پھر معاملہ ایک طرف ہو جانا چاہیے..... میں کل امی جان اور پاپا کو لے کر آتا ہوں۔ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔“ یاور لحاظ کی زنجیروں کی جکڑن برداشت کرتے کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔



بچیوں پر ایک نظر ڈال کر اس نے گویا چھاگلن سے ہونٹ گیلے کیے اور بڑے سکون سے گویا ہوا۔  
نظریں ایمن کی طرف تھیں۔

”رات کے اندھیرے میں نکلنے والی عورت کو کون شوہر سر جھکا کر لینے آتا ہے۔ یہ ہمت شاید میں نے ہی کی تھی، وہ بھی اولاد کی خاطر..... خدا حافظ۔“ یہ کہہ کر اس نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مہوش اور ماہ پارہ جو بات نہیں سمجھ سکتی تھیں مگر ماحول کو سونگھ تو سکتی تھیں۔ دہکی بیٹھی تھیں۔ باپ کو جاتا دیکھ کر ماں کے ہاتھ پکڑ لیے۔

”ماما..... پاپا ہمیں نہیں لے کر جا رہے.....“

یاور جا رہا تھا..... ایمن کے دل میں کچھ ہو رہا تھا۔ قربتوں کی انتہا کو مٹھونے والا رشتہ پل میں اتنا دور محسوس ہو رہا تھا جیسے برسوں پہلے کسی بھرے بازار میں ٹکراتے ٹکراتے بچے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے..... بچیاں سہم کر ایمن کے آنسو صاف کرنے لگیں۔ عطیہ بیگم نے ایمن کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔

”تمہارے بابا یاور سے خود بات کریں گے۔ وہ چاہتے ہیں یاور تمہارے لیے الگ چھوٹے سے گھر کا انتظام کریں۔ یہ عورت کا شرعی حق ہے۔ شریعت عورت کو شوہر کے ماں باپ کے ساتھ رہنے اور خدمت کرنے پر مجبور و پابند نہیں کرتی۔ اور جب ایک نہیں دو دو جانوں کا سوال ہو تو مصلحت جرم ہے۔ فکر نہ کرو بیٹا..... ماں باپ زندہ ہیں۔ تمہارے سکھ کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں گے۔ باپ کے گھر میں ماں کی ٹھنڈی چھاؤں تلے بیٹھی ہو..... خبردار رونے کی ضرورت نہیں۔“ وہ امن کی پیشانی چوم کر اس کی پشت سہلانے لگیں۔

”مامتا جس لمحے پوری قوت کے ساتھ مظاہرہ کرتی ہے۔ خدا بھی اپنا قلم چوم لیتا ہے۔“

☆☆.....☆☆

دوسروں کی خوشیوں میں دل کھول کر خوش ہونا چاہیے۔ جو دل بڑا کر کے جیتے ہیں اصل میں زندگی تو وہی جیتے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ تم ’ٹوئنز‘ کی ہیٹ ٹرک کرو گی..... چار سال میں چھ بچے۔“  
چمن ساڑھی اتار چکی تھی۔ بلاؤز اور بیٹی کوٹ میں آئینے کے سامنے بیٹھی جیولری اتار رہی تھی۔ ٹر چیخ کر کے ڈرینگ سے باہر آیا تو اس نے چمن کے چہرے پر پھیلی گہری سوچ کے پر چھائیں سے جیسے بہت کچھ پڑھ لیا۔

چمن نے چونک کر ٹر کی طرف دیکھا۔ اور مسکرانے لگی.....

”اللہ کا شکر ہے میں دوسروں کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہوں..... اور چاہتی ہوں جہاں تک نظر جائے بس خوش باش چہرے دکھائی دیں۔ میں نے ان ذونوں بچوں کو دیکھ کر سو بار ماشاء اللہ تو کہا ہوگا۔ آخر آپ نے مجھے سمجھا کیا ہے؟“ وہ اٹھ کر ٹر کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی جیسے لڑنے کو تیار ہو۔

”دیکھو بی بی..... رات بہت ہو گئی ہے۔ بس اب تک جتنا سمجھ سمجھا لیا کافی ہے۔ اگر زیادہ بولیں تو بولتی بند کر دوں گا۔“ ٹر نے شرارت سے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے چمن اچھل کر دو قدم پیچھے ہٹ گئی۔



ایم اے راحت کے قلم سے تخلیق پانے والا ایک لافانی سلسلہ

## ہم شکل

ایک نوجوان کی سرگزشت، جسے بچپن کی ایک بات یاد تھی،  
جب اُس کی دادی اماں نے کہا تھا۔

”اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہم شکل بنائے ہیں.....“

کیا یہ روایت درست ہے؟

اسی روایت کی کھوج میں موت سے پنجہ کش اُس سرکش نوجوان کی  
بنا قابل فراموش داستان.....

کیا اُسے ساتوں ہم شکل ملے؟

کیا اُس نے موت سے جنگ کی؟

ایک انوکھی داستان جس کا نام ”ہم شکل“ ہے جس میں ہم چاروں ہی  
آپ بھی پڑھنا سیکھنے کے لیے اور ناول ہم شکل کا حصہ بن جائیے





www.paksociety.com  
اسی وقت ٹمر کے موبائل پر Ring ہوئی تھی۔

”اوفوہ..... یہ اس وقت کس شیطان نے شر پھیلا یا ہے؟“ اس نے کوفت سے منہ بنا کر اپنے سیل کی طرف دیکھا تھا۔

آگے بڑھ کر سیل اٹھا کر کار کا نام دیکھا۔ ندا کا نام بلنک ہو رہا تھا۔  
”یعنی کہ حد ہوگئی بے وقوفی کی..... یہ کوئی وقت ہے فون کرنے کا۔“ اس نے بڑبڑاتے ہوئے لائن کاٹ دی..... چمن غور سے دیکھ رہی تھی۔  
”کون ہے؟“

”ارے ہے ایک بے وقوف سی لڑکی۔ میرا بس چلے تو کل ہی اسے شوکا زدکھا کر فارغ کر دوں.....  
ذرا سی دیر میں سر میں طوفان اٹھا دیتی ہے۔ پیالی میں طوفان اٹھانا تو سنتے آرہے ہیں یہ بچے میں  
آندھیاں چلا سکتی ہے۔“  
”ٹمر..... ٹمر..... کیا ہو گیا ہے آپ کو..... بولتے ہی چلے جا رہے ہیں۔“ چمن نے پریشان ہو کر ٹوکا۔

”صحت کا اثر ہو گیا ہے..... یا شاید جنات کا..... اہل جنات میں سے ہی لگتی ہے..... بولتی ہے تو رکتی  
ہی نہیں ہے..... جیسے بریک فیل ہو گئے ہوں..... سارے موڈ کا ستیاناس مار دیا..... دھت تیرے کی۔“  
ٹمر نے پہلے سیل ایک طرف اچھالا..... پھر خود بیڈ پر ڈھے گیا اور اپنا سر پکڑ لیا۔  
چمن گھبرا کر سر ہانے بیٹھ گئی اور ٹمر کا سر دبانے لگی۔

”کک..... کون ہے یہ..... آخر پر اہلم کیا ہے آپ کا موڈ کیوں خراب ہو گیا۔“  
”Leave it..... نوائٹری ہے آفس میں..... جی تو چاہتا ہے کھڑے کھڑے نکال دوں مگر بہت  
کم عمر اور بے وقوف سی ہے۔ ضرورت مند بھی لگتی ہے۔ میں لاسٹ Days چھٹیوں پر تھا یا شاید آؤٹ  
ڈور میٹنگز میں بڑی تھابت حمزہ صاحب سے اپائنٹ کیا ہے۔ شاید سفارشی ہے..... نان ایکسپریمنڈ۔“  
”تو پوچھ لیں بے چاری کیوں کال کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اسے آفس میں کوئی پرابلم ہو اس وجہ  
سے۔“ چمن کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹمر نے اس کی بات کاٹ دی۔

”صبح نہیں ہوگی کیا.....؟ آفس کی پرابلم آفس میں ہی ڈسکس ہوتی ہیں۔ یہاں رکھی ہوئی ہے۔“  
ٹمر نے چڑ کر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ چمن کی ہنسی چھوٹ گئی۔  
”تو..... میں بھی پتا نہیں کیا ہیڈک ہے کہ اتنی رات کو کال آرہی ہے۔ شکر ہے یہاں ہی رکھی ہوگی  
ہے۔ یہاں نہیں رکھی ہوگی۔“

چمن نے پہلے ٹمر کے سر پر ہاتھ رکھا پھر دل پر.....  
”یہاں تو تم نیچے گاڑ کر بیٹھی ہوگی ہو۔“ ٹمر نے چمن کا ہاتھ کھینچ کر خود سے قریب کیا۔  
”نیچے گاڑ کر..... کیا مطلب؟“ چمن نے ہنستے ہوئے خود کو سنبھالا۔ ”مجھے چڑیل سمجھتے ہیں؟“  
”تم مجھے بھوت سمجھ لو..... چڑیل اور بھوت کا Pair تو بنتا ہے ناں؟“

چمن کھکھلا کر ہنس پڑی..... اس بے خبر کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ بالو آپا اس وقت گھر میں جلے پیر کی بلی



بن کر مرگشت کر رہی ہیں۔

بہو بن سنور کر بیٹے کے ساتھ باہر گئی تھی..... دل میں سچے لگے ہوئے تھے۔ اب کمرے سے اہسی کی آواز بھی باہر گئی تھی.....

آخر اس نے کس سے ٹھہر کر کالا جادو کرایا ہے کہ شاہ صاحب کے سارے تعویذ بے اثر ہو رہے تھے۔ وہ فکر مندی سے سوچ رہی تھیں..... ہرے اور نیلے کرارے نوٹ جو پرس سے نکال کر شاہ جی کے چندہ بکس میں جا چکے تھے آنکھوں کے سامنے اڑتے دکھائی دیے۔ تو سینے پر ہاتھ رکھ کر کلیجہ تھام تھام لیا۔

☆☆.....☆☆

”بیٹا ہماری بیٹی بن کر نہیں اپنی بچیوں کی ماں بن کر سوچو۔ جب اولاد کی بھلائی کا سوچو گی تو خود بخود تمہارے اندر مہر و برداشت پیدا ہوگی۔“

مشکور احمد کو جیسے ہی صبح سویرے پتا چلا کہ یاور ایمن کو لینے آیا تھا مگر ایمن نے جانے سے انکار کر دیا تو وہ معاملہ مزید بگڑ جانے کے خیال سے متفکر ہو گئے۔ اور لگے ایمن کو سمجھانے۔

”بابا..... برداشت کرتے کرتے تو یہ نوبت آئی ہے کہ برداشت جواب دے گئی ہے۔ مجھے جان سے مار دیں مگر میری بچیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ میری برداشت سے بہت زیادہ ہے۔“ ایمن بولتے بولتے رو پڑی۔

عطیہ بیگم نے شوہر کی طرف یوں دیکھا جیسے نظروں ہی نظروں میں قصائی کہہ رہی ہوں۔ ایمن کے آنسو دیکھ کر مشکور احمد ایک دم آزرده نظر آنے لگے اور بے ساختہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔

”بیٹا..... وہ لینے آیا تھا اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں تمہارے لیے گنجائش ہے۔ تم نے اسے خالی ہاتھ لوٹا کر مردانہ انا کو لٹکا رہا ہے۔ اب بہت مشکل ہو جائے گی۔“

”تو کیوں آئے.....؟ نہ میں نے بلایا اور نہ میں چاہتی ہوں اب دوبارہ وہ یہاں آئیں۔ اگر آپ مجھے اور بچیوں کو بوجھ سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ کہیں جا ب کر لوں گی۔“ ایمن اسی طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔

”کیسی باتیں کر رہی ہو ایمن..... تمہارے باپ کی تو پینشن اتنی آتی ہے کہ لوگوں کو آج کل اتنی سیلری نہیں ملتی..... میرے پاس جو جمع پونجی ہے وہ تم دونوں بہنوں ہی کی تو ہے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ بچیوں کا باپ الحمد للہ زندہ ہے۔ اللہ اسے جیتا رکھے۔ باپ کے ہوتے ہوئے بچے باپ کی شفقت سے کیوں محروم کیے جائیں۔“

”آپ کو بتایا تو ہے کہ اس گھر میں بیٹیوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ بیٹیوں کو اولاد نہیں لاکھوں کا خرچہ کہتے ہیں۔ میری ساس کہتی ہیں میرا بیٹا کیا دامادوں کے لیے خون پسینہ ایک کرتا ہے؟“ ایمن نے بمشکل آنسو روک کر سمجھانے کی کوشش کی۔

”وہ تو تمہارے ساس سر کہتے ہیں..... یہ ان کی سوچ ہے..... یاور اپنے بچوں کی خاطر رات کو آیا تھا نا..... اپنے دل سے مجبور ہو کر..... ورنہ اسے کون مجبور کر سکتا تھا؟“ مشکور احمد نے پھر ایک مضبوط دلیل دی۔



”مجھے تو حیرت ہے کہ وہ آخر آ کیسے گئے؟ اور وہ بھی ہمیں لے جانے کے لیے۔“ ایمن نے عطیہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہا جو بادل نخواستہ خاموش بیٹھی تھیں۔ محتاط اس لیے تھیں کہ معاملہ بہت نازک تھا۔ شوہر کے سامنے دلیل بازی سے آئندہ کسی نقصان کی ذمہ داری بھی ان پر آ سکتی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی سن رہی تھیں کہ مشکور احمد اب آخری بات کیا کرنے والے ہیں..... اس کے بعد ہی فیصلہ کرتیں کہ انھیں اب کیا کہنا چاہیے۔

”میرے لیے یہ بات اطمینان کا باعث ہے کہ یاد تمہیں لینے آیا تھا۔ اب میں اس سے بات کرتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے الگ گھر کا بندوبست کرے۔ تمہاری شادی اس کے ساتھ ہوئی ہے، اس کے ماں باپ کے ساتھ نہیں۔“ اب مشکور احمد نے وہی بات کہی جو وہ عطیہ بیگم سے کر چکے تھے کہ اگر یاد واقعی کسی وقت ایمن کو منانے آ گیا تو ان کی طرف سے یہ شرط رکھی جائے گی۔ وہ بھی اس صورت میں جب ایمن کسی طرح بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہو۔

”آپ بات کر کے دیکھ لیں..... مگر مشکل ہے کہ وہ شرط مانیں۔“ ایمن نے بڑے وثوق سے کہا تھا۔ اب بہر حال وہ قدرے پرسکون نظر آ رہی تھی اسے پتا تھا کہ نہ نومن تیل ہو گا نہ رادھانا چے گی۔ یاد ماں باپ کے اشاروں پر چلنے کا عادی ہو چکا ہے۔ خود سے کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔

”میں نے اسے رات یہی کہا تھا..... اگر وہ واقعی بچوں کی خاطر آیا تھا تو پھر کچھ نہ کچھ ضرور سوچے گا۔“ عطیہ بیگم فطری طور پر یکسر ناامید ہونے والوں میں سے نہیں تھیں۔ اور اسی روایتی سسرالی تنازعہ ہی سمجھ رہی تھیں جس کو عقل سمجھ استعمال کر کے انجام تک پہنچایا جاسکتا تھا۔

اور ایمن کا یہ حال تھا کہ ماں باپ کی باتیں کسی دیوانے کا خواب محسوس ہو رہی تھیں۔ یاد اپنے ماں باپ کے آہنی شکنجے سے اپنا وجود چھڑانے میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ سوئی ہر بہلاوے پر یہیں آ کر اٹک رہی تھی۔

☆☆.....☆☆

ثمر کا وائٹ کاؤنٹ کا وزٹ کر کے ابھی اپنی کرسی پر سنبھل کر بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ ندا حواس باختہ گرتی پڑتی اندر داخل ہوئی تھی۔ ہاتھ میں ایک کمپوز ڈیپیر تھا۔ ثمر لپ ٹاپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے رگ گیا۔ اور سوالیہ نظروں سے ندا کی طرف دیکھنے لگا۔

“Sir... I am sorry”

Extremely sorry..... بس پانچ منٹ دے دیجیے..... صرف پانچ منٹ۔“

For God Sake..... پوری زندگی لے لیجیے۔ مگر پتا تو چلے آخر پر ابلیم کیا ہے۔“ ثمر کا بی

پی شوٹ کرنے لگا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا تھا۔

”پوری زندگی کا میں نے کیا کرنا ہے سر..... آپ کی زندگی آپ کو مبارک ہو..... بس دو تین

Mistakes ہیں..... پانچ منٹ میں ٹھیک کر کے لے آتی ہوں..... سر میں Terminate نہیں

ہونا چاہتی..... ہم پر بہت قرضہ ہے۔ جا ب کروں گی تو اترے گا۔ انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔

انسان آخر انسان ہے فرشتہ تو نہیں ہے..... اور میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتی ہوں۔“

دوشنبہ 64



”اشاپ.....“ شمر نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اسے مزید بولنے سے روکا تھا۔ ندانے بہت خوفزدہ ہو کر شمر کی طرف دیکھا تھا۔

”کس دنیا سے تشریف لائی ہیں آپ.....؟ آپ جا ب کرنے آئی ہیں.....؟ لگتا ہے منہ اٹھا کر چلی آئی ہیں۔ کوئی سر پیر ہے آپ کی باتوں کا؟ پانچ منٹ مانگ رہی تھیں۔ دس منٹ فضول تفصیلات میں ضائع کر دیے۔ بی بی یہ ٹریڈنگ کمپنی ہے، بینک نہیں ہے۔ جو یہاں قرضے اتارنے چلی آئی ہیں۔ جب تک ہمارا Employee تین سال پورے نہ کر لے ہم دس روپے بھی ایڈوانس یا قرض نہیں دیتے۔ گھر سے میزریکھ کر آئیے۔ رات کے بارہ بجے مجھے فون کر رہی ہیں..... میرا گھر ہے یا پرائیویٹ ہاسپٹل یا ATM جس پر میں نے 24 Hours کا بورڈ لگایا ہوا ہے؟ جائیے اور جب تک میں نہ بلاؤں آنے کی ضرورت نہیں۔“

اوپر اکاؤنٹ میں صبح صبح مغز ماری کر کے ویسے ہی اعصاب شل ہو رہے تھے، اس پر مسٹر ادوہ بے تکان بولتی نازل ہو گئی تھی۔

لفظ ”جائے“ میں کالا جادو تھا..... ندا کو یوں محسوس ہوا زنجیریں کٹ گئیں۔ بندشیں کھل گئیں۔ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی کہ مڑ کر نہ دیکھا اور اپنی ٹیبل پر جا کر دم لیا۔  
اُف تو بہ..... کتنا سارا بولتے ہیں..... Oh God..... اتنا غصہ..... لگتا ہے بیگم سے لڑ کر آئے ہیں..... کہیں بے چاری کو دو چار لگا کر تو نہیں آگئے؟“

وہ دھپ سے اپنی چیئر پر گر گئی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ شارق اور نعمان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کیے۔

”ڈسپینر چاہیے.....“ شارق کی شری آواز ندا کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر شارق کو گھورا۔

”یار..... مس ندا کی آنکھوں میں تو خون اتر ا ہوا ہے۔“ شارق گھکھیا کر نعمان سے مخاطب ہوا۔

”خاموش..... میرے کانوں میں آگ بھری ہوئی ہے۔ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔“ ندانے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔

”یعنی کہ آپ بہری ہو چکی ہیں..... مگر ہم اونچا نہیں بولیں گے..... کیونکہ بہرے تو خود چلا چلا کر بولتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ساری دنیا بہری ہے۔ ان کو سنائی نہیں دیتا تو کسی کو بھی سنائی نہیں دیتا۔“  
نعمان نے ایک ڈرافٹ تیار کرتے کرتے تنگ کرنے کا بمشکل وقت نکالا..... درحقیقت صبح صبح کام کا آغاز ہوا تھا۔ وہ بہت تندی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔

”خاموش ہونے کے کتنے لوگے؟“ ندانے دانت پیس کر دیکھا۔

”صرف 200 پاؤنڈ..... یا 150 دینار۔“ نعمان نے شارق کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔

”ابھی تو میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے اور اس آفس میں تین سال سے پہلے دس روپے کا قرضہ نہیں ملتا۔“ ندا بڑبڑائی اور لیپ ٹاپ پر نظریں جما کر اپنی غلطیاں Remove کرنے لگی۔

”بڑی نالچ ہے بھئی..... ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا۔ اچھا کیا بتا دیا۔ کم از کم جیب میں دس روپے تو



WWW.PAKSOCIETY.COM  
ہونا چاہئیں۔ برا وقت بتا کر نہیں آتا۔“

”آرام سے کام کرو۔ Stress لینے کی ضرورت نہیں۔ سر تو بس یونہی پیار سے ڈالتے ہیں.....  
دل پر لینے کی ضرورت نہیں۔“ شارق نے پھر تنگ کیا۔

”میں تو دو دن سے اپنی C.V اور Application دس جگہ فارورڈ کر چکی ہوں۔ آج کہیں سے  
اچھی آفر آجائے تو ایک سیکنڈ اس آفس میں نہ رکوں۔“ ندا بڑبڑا رہی تھی۔

”نئی جاب..... نئی جگہ..... نیا باس..... ذرا سوچو..... نیا باس ٹرم صاحب سے بھی زیادہ غصے والا نکلا  
تو کیا کرو گی؟..... کیا زندگی بھر Bosses کی وجہ سے جاب ٹرائی کرتی رہو گی۔“

نعمان نے غلطیوں سے بھرا پیپر پرنٹر سے نکال کر توڑ مروڑ کر ڈسٹ بن میں ڈالتے ہوئے بڑا  
دانشمندانہ سوال کیا۔

ندا ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گئی..... یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔

کوئی گنجھا، موٹا، دبا کر اسموکنگ کرنے والا باس مل گیا..... وہ بھی خوب گرجنے برسنے والا تو وہ کیا  
کرے گی؟ ٹھیک ہے..... سر غصے والے ہیں مگر خوب صورت بھی تو ہیں..... غصہ کرتے ہوئے بھنوت تو  
نہیں لگتے۔ اب وہ نعمان کی دکیل سے قائل ہو کر خود کو سمجھانے بجھانے لگی۔ اور تندہی سے اپنے کام میں  
بخت گئی۔ نعمان اور شارق نے بھی اسے سنجیدگی سے کام کرنا دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا۔

☆☆.....☆☆

نعمان کی بات ایسی دل کو لگی تھی کہ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ ٹرم سے اپنی قابلیت منوا کر ہی رہے گی۔  
چاہے کام کرتے کرتے رات ہی ہو جائے۔ اور واقعی اسے احساس ہی نہ ہوا اور رات سر پر آ کھڑی  
ہوئی۔ جھٹٹے کے وقت جب Peon نے آ کر پوچھا کہ اس کے لیے چائے لائی جائے یا نہیں تو وہ چونک  
پڑی تھی۔ کھڑکیوں کے شیشے دھیرے دھیرے قدم رکھتی رات کی آمد کا اعلان کرتے محسوس ہوئے۔  
”اوہ..... اتنی دیر ہو گئی..... پتا ہی نہیں چلا.....“ پھر Peon کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ”کیا  
سب چلے گئے؟“

”اکاؤنٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹرم صاحب بھی ابھی ہیں۔ باقی سب چلے گئے ہیں۔“

Peon نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ وہ اپنی عادتِ ثانیہ کے مطابق ہڑبونگ کے انداز میں  
ضروری چیزیں بیگ میں ڈال کر باہر نکلی تو دیکھا ٹرم اپنی کار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے پھر ڈور کی سوجھی  
جیسے کہ اکثر سوجھا کرتی تھی۔

اتنی بڑی گاڑی میں اکیلے بیٹھ کر جائیں گے..... ذرا سا مجھے ڈراپ کر دیں گے تو کوئی احسان  
نہیں کریں گے۔ بہت سی کمپنیز اپنے ایمپلائے کو پک اینڈ ڈراپ دیتی ہیں۔ ”ایکسکوز می سر!“ اس  
نے بھاگ کر ٹرم کو جالیا۔

ٹرم نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا تھا۔

(رشتوں کی نزاکت اور سفاکی دکھاتے اس سحر انگیز  
ناول کی اگلی قسط انشاء اللہ آئندہ ماہ ملاحظہ کیجیے)



## سہ ماہی گھرہ

”ماما آپ پریشان نہ ہوں..... میں بڑا ہو کر آپ کو جا ب نہیں کرنے دوں گا۔ اور پھر میں کبھی بھی شکایت نہیں کروں گا۔ آپ کل بھی چھٹی مت کرنا۔ میں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اپنی برتھ ڈے منالوں گا۔“ معجوز پھر سے اپنے سنجیدہ اور متین انداز میں.....

معصوم حسرتوں کا اوجہ، افسانے کی صورت



WWW.PAKSOCIETY.COM



عائشہ زمان باس کے کمرے سے جس افسردگی و ملال سے باہر آئی تڑپیں کو اندازہ لگانے میں ذرا دیر نہ لگی کہ اُس کی چھٹی کی درخواست رد ہو چکی ہے۔ پھر بھی وہ پوچھنے لگی۔

”کیا ہوا؟ باس نے کیا کہا؟“

”کیا کہنا تھا..... ہمیشہ کی طرح صاف انکار.....“  
عائشہ نے سلگتے ہوئے اپنی میز پر فائل پٹنی اور پھر رندھے گلے سے بات مکمل کرتے ہوئے اپنی سیٹ سنبھال لی۔

چند دن کی چھٹی کیا مانگ لی۔ باس نے لیکچر ہی جھاڑنا شروع کر دیا کہ ”ہمیشہ کے لیے چھٹی لے لیں۔ کاش ایسا ہو سکتا۔“

تڑپیں افسوس و ملال بھرے تاثرات کے ساتھ اٹھ کر اُس کے قریب آ گئی۔

”پھر..... اب کیا کرو گی؟“ تڑپیں تشویش سے پوچھتے ہوئے اُس کی آنکھوں میں تیرتی نمی سے نظریں چرا گئی۔

”کیا کرو گی؟ کل مجھے ہر حال میں چھٹی کرنی ہے۔ تم تو جانتی ہو کل معوذ کی سالگرہ ہے اور اس بار میں اُسے سر پر اتار دینا چاہتی ہوں۔“ اُس کے غصے میں دبی اپنی بے بسی و لاچارگی کا امتزاج تڑپیں کے لیے بالکل نیا سا تھا۔ ورنہ تو گزشتہ پانچ سالوں میں وہ فرض شناسی کی زندہ مثال بنی انہیں بھی ادائیگی فرض کی تلقین کرتی نظر آتی تھی۔

”دیکھ لو..... باس کا موڈ آج کل ویسے بھی اچھا نہیں ہے۔ کہیں تم..... میرا مطلب ہے باس نے تمہیں غصے میں.....“

تڑپیں کو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ اپنی بات کیسے کہے۔ عائشہ بھی اس وقت باس کی گئی بے عزتی سے مغلوب تھی۔ یکدم جوش میں بولی۔

برفانی ہواؤں کا سلسلہ پہاڑی وادیوں سے ہو کر شہری آبادیوں میں داخل ہوا تو با محسوس ہونے لگا کہ زندگی منجمد ہو جائے گی۔ نفوس ٹھنڈ کر سکتی ہو جائیں گے۔ مگر باوجود موسموں کی شدتوں کے کاروبار زیست جتنا ہے نہ ٹھہرتا ہے۔ وقت کا پہرہ چلتا ہے اور ہر ذی نفس کو اپنے ساتھ باندھے آگے سے آگے دھکیلنے پر مجبور کرتا چلا جاتا ہے۔ عائشہ بھی وقت کے دھکے پر ناچار چلنے اور بڑھنے پر مجبور ہی نہیں بے بس بھی ہوئی جا رہی تھی۔ احتیاجات کا اثر دھام تھا جو عفریت بن کر مسلسل جدوجہد کو بھی نکلنے پر تیار تھا۔ ”ضرورتیں“ کم نہیں ہوتی تھیں۔ اور ”وسائل“ بڑھتے نہیں تھے۔ مگر..... خواہشیں پنپنے سے روکنا بھی تو غیر فطری عمل تھا۔ اور وہ جو سینے میں ماں کا دل دھڑکتا ہے اُس کا کیا کیجیے کہ اولاد کے لیے دنیا کی ہر نعمت سمیٹنے کی تمنا ہر ماں کی اولین حسرت رہی ہے۔ عائشہ بھی پانچ سال سے اپنے آٹھ سالہ معوذ (بیٹے) کی پرورش کے لیے اپنے جواں سال ہمدرد رفیق شریک سفر کی تین سالہ رفاقت اور اُس کی حادثاتی شہادت کا سوگ منا کر زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرتی بازار زیست میں اپنی ضرورتوں کے عوض اپنا ہنر اور وقت بیچنے نکلی تھی۔ گو کہ اُس کے لیے چار دیواری سے باہر کی دنیا میں آنا ایسا سہل نہ تھا۔ لیکن کچھ کام مجبوراً بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اور یہ دنیا ہے جہاں وقت پڑنے پر سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اپنوں کی بے رُخی اور بے نیاز رویوں کی شکایت کیا کیجیے۔ آٹھ سالہ معوذ کی متبادل میں بسائے اُس کی بہترین تربیت کی خاطر وہ ہر دکھ بھلائے زمانے کے سرد و گرم کو سہتے ہوئے زندگی کی دوڑ میں سرپنٹ دوڑنے سے بھی نہیں چوکتی تھی۔ تبھی تو موسم کی شدتیں بھی سہتی تھی اور رویوں کی حدتیں بھی..... مگر جس ذات کے لیے وہ اپنی ذات مھلا کر سرد و گرم سہنے نکلی تھی اگر اسی کو وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں دینے سے قاصر ہو رہی تھی تو اُس کی ممتا تو تڑپتی تھی۔



”میں باس کے مُدے موڈ پر اپنے اکلوتے بچے کی خوشی قربان نہیں کر سکتی۔ زمان کی شہادت کے بعد میری اور معوذ کی زندگی میں یہی ایک خوشی تو رہ گئی ہے۔“

زچ ہو کر جوش میں بولتے زمان کے ذکر پر اُس کی آنکھوں میں جھلملاہٹ اور لہجے میں نمی اتر آئی۔ تزئین نے بدقت اُس کی جانب دیکھا۔ زمان خان کی شہادت ایسا موضوع تھا جس پر نہ کبھی عائشہ کھل کر بول پاتی تھی اور نہ ہی تزئین پوچھ پاتی تھی۔ تزئین اُس کے قریب ہو کر اُسے تھپتھا کر سلی آ میز لہجے میں حوصلہ دینے لگی۔

”اچھا! بھئی پریشان مت ہو۔ تمہارا دل چاہ رہا ہے تو کر لینا چھٹی۔ مہینے میں ایک آدھ چھٹی تو ہر Employee کا حق بنتا ہے۔“

”تمہیں تو پتا ہے تزئین میں نے کبھی بلا وجہ چھٹی نہیں کی۔ ہر موسم میں ہر موقع پر حاضر رہی ہوں مگر اس بار۔“

عائشہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے رویے کی توجیہ دی تو تزئین کے لبوں پر استہزاء پھیل گیا۔ جو کہ اپنی مشترکہ مجبور یوں کی وجہ سے تھا۔ ”اسی لیے باس نے ہمیں ربوٹ سمجھ لیا ہے، جس کی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے نہ تمنا نہ احتجاج!“

”سمجھا کریں..... مگر میں ربوٹ نہیں ہوں۔ میرا بچہ! اُس کی خوشیاں میرے لیے اہم ہیں۔ اگر باس نے اس بار زیادہ ہنگامہ کیا تو وہ مجھے کیا نکالیں گے میں خود یہ جاب چھوڑ دوں گی۔“ عائشہ کی چڑچڑاہٹ پہلی بار واضح ہوئی ورنہ تو وہ بہت تحمل بردباری اور ذمہ داری سے بات چیت کرنے کی عادی تھی۔ تزئین بھی اُس کی کیفیت و مجبوری سمجھ رہی تھی سو خاموشی سے اُسے تھپتھا کر اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔

چھٹی کے معاملے میں سر شیرازی کا ردیہ اور چڑچڑاہٹ ہر ملازم کے ساتھ یکساں رہتا تھا۔ اس لیے تزئین اور عائشہ کے علاوہ بھی اُن کے ماتحت کبھی

ملازمین اُن سے شکوہ کناں رہتے تھے۔ عائشہ بہت کم چھٹیاں کرتی تھی۔ زمان کے بعد یہ ملازمت اُس کے لیے غنیمت تھی۔ جسے اُس نے بہت جدوجہد کے بعد حاصل کیا تھا۔ اس شہر میں وہ قریبی گاؤں سے شادی ہو کر اپنی پھوپھو نختہ بی بی کے گھر آئی تھی۔ زمان خان پھوپھو کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جس سے وہ بچپن سے منسوب تھی۔ زمان خان خود بھی تعلیم یافتہ تھا اسی لیے اُس کی خواہش پر اُس نے پرائیویٹ امتحان دے دے کر گریجویشن کیا تھا اور شادی کے بعد بھی زمان کے کہنے پر وہ کمپیوٹر کے مختلف کورسز کر کے آج اس مقام پر تھی۔ دراصل زمان اسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا۔ مارکیٹنگ ایجنٹ ہونے کے باعث اُس روز بھی زمان خان مارکیٹ میں موجود ایک آفس میں بیٹھا تھا۔ جب زور کا دھماکہ ہوا تھا اور بریت سیمنٹ اور اینٹوں کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا اور پھر انسانی اعضاء کا ہوا میں چیتھڑوں کی طرح لہرا کر چیخوں کے ساتھ فضاؤں میں گونجنا بھی لوگوں نے دیکھا سنا تھا۔ نجانے کون بربریت کا تماشا ہی تھا جس نے اک لمحہ زیت میں سیکڑوں زندگیوں کو اجل واصل کیا تھا۔ انسانیت کے دشمنوں نے اپنا خوف مٹایا تھا یا دوسروں کو ہراساں کرنے کے لیے کئی گھروں کے بچوں سے والدین..... والدین سے بچے، بہنوں سے بھائی، ماؤں سے بیٹے چھنتے ہوئے حساب کا دن بھلا دیا تھا۔ زمان خان بھی اپنے تین سالہ بیٹے، اکیس سالہ بیوی اور عمر رسیدہ ماں سے جدا ہو کر پیچھے رہ جانے والوں کو ظلم و بربریت کا شکار چھوڑ گیا تھا۔ میڈیا پر ہوئے مظاہرے اور حکومتی سطح پر کیے گئے امدادی دعوے سبھی گزرے وقت کی دھول بن گئے تھے۔ عائشہ اور اُن جیسے متاثرہ لوگ ناچار اُس دھول کو ممبر شکر کے ساتھ چاٹ کر زندگی کے کارداں میں بڑھنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ عائشہ نے بدقت عدت گزارنی تھی۔ زمان کا ایک خواب اُسے پایہ تکمیل تک



کرنے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ اور عائشہ بہت دقت سے حساس دل و ذہن سے اُس تحریر کا اثر زائل کر پاتی تھی۔ معوذ اب بڑا ہورہا تھا بہت سی باتیں عمر سے پہلے ہی سمجھنے لگا تھا۔

”بیٹا..... بلقیس باجی کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو۔ تمہیں تو معلوم ہے نا تمہارے بابا جان چاہتے تھے تم بہت پڑھ لکھ جاؤ۔ وہ تمہیں بہت اچھا انسان بنانا چاہتے تھے۔ تم اپنے ملک کا نام روشن کرو یہ اُن کی خواہش تھی۔ اسی لیے تو میں.....“ عائشہ کی بات کاٹ کر معوذ فوراً بولا۔

”اسی لیے آپ جا ب کرتی ہیں۔ میں نے آنٹی بلقیس سے یہی کہا تھا۔ مگر وہ کہتی ہیں تمہاری ماں کو جا ب نہیں شادی کرنی چاہیے۔ ماما..... وہ ایسا کیوں کہتی ہیں۔“ اُس کی نا سمجھی میں ابھی معصومیت تھی۔ عائشہ یکدم جھنجلا اٹھی۔

”فضول باتیں کرتی ہیں وہ..... میں اُن سے بات کروں گی۔ میری زندگی میرا معوذ میری جان ہے۔ چلو بھول جاؤ اُن کی باتیں..... ماما اپنی جان کے لیے اپیل شیک اور اپنے لیے چائے بنا کر لاتی ہیں۔ تم یہاں آرام سے بیٹھو۔ ٹی وی دیکھ لو۔ پھر تمہیں ہوم ورک کر داتی ہوں۔“ عائشہ نے اپنے طور پر اُسے بہلایا اور پھر خود ہی ٹی وی آن کر کے اُسے صوفے پر بیٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ معوذ ٹی وی ری موٹ سے اپنی پسند کا کارٹون چینل سرچ کرنے لگا۔ بظاہر وہ ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ مگر اُس کا ذہن مسلسل اپنی ماں میں لگا ہوا تھا۔ عائشہ اُس کے لیے ملک شیک اور اپنے لیے چائے لے کر آئی تو وہ عائشہ کے قریب بیٹھتے ہی اچانک بولا۔

”ماما..... اگر بابا جان شہید نہ ہوتے تو آپ کو جا ب نہ کرنا پڑتی، ہے نا.....“ عائشہ نے اُسے ملک شیک پکڑاتے ہوئے سرسری نظروں سے دیکھا وہ اکثر اسی قسم کے سوال کیا کرتا تھا۔

پہنچانا تھا۔ معوذ کی بہترین تعلیم و تربیت اور اُسے آری فورسز میں بھیجنا اب عائشہ کا مقصد حیات تھا۔ تبھی وہ گھر سے نکل کھڑی ہوئی تھی اور کچھ خیر خواہوں کی کوششوں سے زمان کی کمپنی میں ہی اُسے بدقت ملازمت مل پائی تھی۔ ملازمت کے دوران اُسے اندازہ ہوا تھا کہ تنہا عورت کا اپنی اولاد کی پرورش کرنا کس قدر دشوار ہے۔ ابتداء کے دو سال تو پھوپھو پونجستہ بی بی اُس کا حوصلہ و ڈھارس بنی رہی تھیں۔ مگر بیٹے کے دکھ کو روگ بنانے والی نجستہ زیادہ عرصہ خود کو زندگی سے ہم رکاب نہ کر پائی تھیں اور زمان کے بعد تیسرے سال میں ہی خود بھی زندگی سے موت کی پناہ میں چلی گئی تھیں۔

اب وہ تھی معصوم بچے کی معصوم خواہشیں اور اُس کی بے بس مامتا کی بے آواز صداؤں کا ماتم تھا جو بے مہر فضاء شہر کے شور میں دب کر رہ گیا تھا۔ وہ کشمکش بھرے ذہن و دل کے ساتھ گھر پہنچی تو معوذ معمول کے شکوے بھرے انداز میں دروازہ کھولتے ہی بولا۔

”ماما..... آپ آج پھر لیٹ ہیں۔“ عائشہ نے دروازے سے اندر آتے ہوئے تائیداً سر ہلا کر کہا۔

”ہاں میں پھر لیٹ ہو گئی۔ بس جگہ جگہ رکتی ہے تو دیر ہو ہی جاتی ہے۔“ عائشہ نے دو کمروں کے چھوٹے سے گھر کے ایک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ہمیشہ کا دیا جواب دہرایا۔ کندھے سے بیگ اور سر سے چادر صوفے پر اتار کر رکھتے ہوئے اُسے دیکھا تو وہ بھی ماں کو ہی دیکھ رہا تھا۔

”کیا ہوا؟“ کیا بلقیس باجی (ہمسائی) نے کچھ کہا تھا؟“ عائشہ کو اُس کی نظروں سے کچھ محسوس ہوا تھا تبھی وہ فکر مندی سے اُس کی طرف لپکی۔ معوذ کے معصوم چہرے پر سنجیدگی اور بے ریا آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ عائشہ نے بڑھ کر اُسے بانہوں میں سمیٹا۔ جانتی تھی بلقیس باجی وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی چبھتی ہوئی بات کہہ کر معصوم و شفاف ذہن و دل پر دنیا کی زبان میں تجربات تحریر



”ہا.....ں..... پھر میں سارا وقت اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی اور پھر نہ میرا بیٹا بور ہوتا نہ اُسے اکیلے رہنا پڑتا اور نہ ہی اُسے ڈر لگا کرتا۔“ عائشہ نے اُس کے بال بکھیرتے ہوئے لاڈ سے کہا تو وہ سر نفی میں ہلا کر بولنے لگا۔

”ماما..... کیا سچ مچ جو شہید ہو جاتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ہماری باتیں سنتے ہیں۔ بابا جان بھی تو ہمارے پاس ہوتے ہیں تو پھر آئی بلقیس کیوں کہتی ہیں کہ ہم اکیلے ہیں۔“

”معوذ!“ عائشہ نے قدرے زچ ہو کر سرزنش والے لہجے میں اُسے پکارا۔ پھر قدرے نرمی سے اُسے سمجھانے لگی۔ یقیناً باجی بلقیس نے اُس سے آج ایسی باتیں کی تھیں۔ جس پر اُس کا ذہن منتشر تھا۔

”بیٹا..... میں اور تم ہیں تو ہم اکیلے کیسے ہوئے؟ اور پھر یہ بات بالکل سچ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں یا بے گناہ مارے جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اور شہادت پانے والے لوگ زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے قریب..... باجی بلقیس کو پتا ہی نہیں ہے کہ تمہارے بابا جان ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔“ عائشہ نے بولتے بولتے بہت محبت سے اُسے اپنے پہلو سے لگایا۔

”ہاں..... ماما..... مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ بابا جان میرے پاس ہیں۔ جب میں گھر میں اکیلا ہوتا ہوں مجھے تب بھی بابا جان اپنے پاس محسوس ہوتے ہیں۔“ معوذ نے تائیداً بولتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ عائشہ نے اُس کی پیشانی سے بال پیچھے کر کے اُس کی پیشانی پر بوسہ لیا۔

”بالکل وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تم بھی باجی بلقیس سے زیادہ باتیں نہ کیا کرو۔ اپنی پڑھائی پر توجہ دیا کرو۔ تمہیں معلوم ہے نا تمہارے بابا تمہیں آرمی آفیسر دیکھنا چاہتے تھے۔“

”مجھے پتا ہے ماما..... میں بڑا ہو کر سو لجر بنوں گا اور سب دشمنوں کو مار دوں گا۔ پھر بابا تو خوش ہوں گے ناں؟“ معوذ کی معصومیت میں جوش ولولہ فطری تھا۔ عائشہ نے اُسے محبت سے دیکھا۔ ”بالکل، نہ صرف بابا جان خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ بھی بے حد خوش ہوگا۔

کیونکہ وہ برائیوں کو ختم کرنے والے کو پسند کر کے اُسے اپنی بہترین نعمتیں عطا کرتا ہے اور شہید کو شہادت کے بعد ملنے والی زندگی اللہ کی بہترین عطا ہے۔“ عائشہ نے پہلے تو اُسے محبت سے سمجھایا پھر جیسے خود کلامی والے انداز میں دھیمے لہجے میں بولتی بولتی وہ کہیں کھو گئی۔ معوذ بھی ملک شیک پینے لگا۔ اپنی ماما کی باتوں سے اُس کے اندر فوجی بننے کی خواہش جاگنے لگی تھی۔ ایسا فوجی جو جرات و بہادری میں بے مثال ہوتا۔ وہ خالی گلاس میز پر رکھ کر اُسی کمرے کے ایک کونے میں پڑے اپنے کھلونوں کی جانب آ گیا اور پھر اُن میں سے اپنی پسندیدہ گنز (بندوقیں) نکال نکال کر دیکھنے لگا۔

عائشہ بھی بیٹے کو کھیل میں مگن دیکھ کر رات کے لیے کھانا بنانے کچن میں گھس گئی۔ کام کے دوران بھی وہ آنے والے دن کے حوالے سے ذہنی کشمکش کا شکار تھی۔ کہ آیا وہ جرات کر کے چھٹی کر لے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو یا پھر ہمیشہ کی طرح معوذ کی سال گرہ کا دن ٹھکے ماندے ذہن و جسم کے ساتھ زبردستی کی خوشگوااری طاری کر کے منائے۔ ابھی تو اُس نے کل کے دن کے حوالے سے کوئی انتظام بھی نہیں کیا تھا اس نہ ہی معوذ کے لیے کوئی تحفہ ہی خرید پائی تھی۔ آخر اُس نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ کل وہ آفس نہیں جائے گی بلکہ حسب خواہش معوذ کے اسکول سے آنے سے پہلے سارا انتظام کر رکھے گی۔ اس اطمینان قلب کے ساتھ عائشہ نے بہت دنوں بعد رغبت سے کھانا کھایا۔ معوذ بھی معمول کے مطابق کھانے کے بعد باقی ہوم ورک کرنے بیٹھا تو اچانک اپنی میتھ کی کاپی پر سوال حل کرتے کرتے بولا۔



”ماما! 20th! کو اسکول میں ونٹرو وکیشن شروع ہو جائیں گی۔ اس بار تو ہم نانو کے پاس گاؤں جائیں گے نا۔“ معوذ کے لہجے میں حسرت و خواہش کا ملا جلا تاثر عائشہ کو متوجہ کر گیا۔ وہ جو آنے والے دن کے لیے اپنے کپڑے اور معوذ کا اسکول یونیفارم استری کرنے میں منہمک تھی۔ ایسے چونکی جیسے معوذ نے پہلی بار ایسی خواہش کی ہو۔

”ماما..... ہم جائیں گے نا.....!“ وہ پھر سے پوچھ رہا تھا۔

”پتا نہیں بیٹا..... اس بار بھی جاسکیں گے یا نہیں۔“ عائشہ نے نظریں خرا کر اُس کی پینٹ کی تہہ جمائی۔

”کیوں ماما..... آپ نے تو کہا تھا کہ ہم اس بار تو ضرور جائیں گے۔“ معوذ نے ٹھٹک کر پہلے کاپی بند کی پھر بغور ماں کو دیکھتے ہوئے اُس کا وعدہ یاد دلایا۔ عائشہ نے ٹھنڈی آہ کو بمشکل اندر ہی روکا۔

”کہا تو تھا میری جان..... مگر..... اُس سے چھٹی نہیں مل رہی۔“ عائشہ نے استری کا سوچ بند کر کے اُسے دیکھا۔

”یہ کیا بات ہوئی ماما..... آپ نے پراس کیا تھا۔“ اُس کے لہجے میں تاراضگی اُتر آئی تھی۔

”باس نہیں مان رہے۔ انہوں نے تو کل بھی چھٹی نہیں دی۔“ عائشہ نے استری شدہ کپڑے ہینگر

میں لگائے اور کمرے میں موجود الماری کی طرف بڑھ گئی۔ معوذ بھی گود سے کاپی اور ہاتھ سے پینسل

میز پر پھینکتے ہوئے اُٹھ کر اُس کے پیچھے لپکا۔

”ماما..... مجھے ضرور اس بار کہیں نہ کہیں جانا ہے۔ ہم کبھی گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی نہیں گئے۔ میرے

کبھی فرینڈز جا رہے ہیں۔“ معوذ نے جیسے منوانے کے سے انداز میں ضد کی تو عائشہ اُسے بے بسی سے دیکھ کر رہ

گئی۔ معوذ حساس بھی تھا اور ذہین بھی۔ کبھی کبھی اُسے سمجھانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ

سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ اسی لیے عائشہ نے اُسے سنجیدگی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ”معوذ..... کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کے دوست جو کریں آپ بھی ویسا ہی کرو۔ آپ سمجھ سکتے ہو۔ آپ کے فرینڈز کی مددز جاب نہیں کرنی ہوں گی۔ اس لیے وہ ہر وکیشن میں کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں۔ آپ کے بابا جان ہوتے تو ہم بھی.....!“

آخر ہر بار مجھے کیوں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ.....!“ بولتے بولتے عائشہ کی آواز ہی نہیں بھرا گئی اُس کے

چہرے پر بھی حزن و ملال سا بکھر گیا۔ وہ ایکدم وہاں سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ معوذ بھی اُس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ ماں کے آنسو اُسے بھی تکلیف

دیتے تھے۔ اُس کی زندگی میں ماں کے سوا تھا بھی کیا۔ وہ آگے بڑھ کر ماں سے لپٹ کر خود بھی رونے لگا۔

”ماما..... ماما..... آپ کیوں رو رہی ہیں۔ آئی پراس میں اب کہیں جانے کی بات نہیں کروں گا۔“

عائشہ اُس کے آنسوؤں پر خود کو سنبھالتی اُسے چومنے لگی۔ اپنی ضد پر نادم ہو کر وہ اُسے ہی شرمندہ کر رہا تھا۔

وہ کیا کرتی بے اختیاری کا قلق اُس کی جان سے لپٹ کر جکڑے ہوئے تھا۔ ”نہیں میری جان ہم جائیں گے ضرور جائیں گے۔ میں کوشش کروں گی کہ مجھے چھٹیاں

مل جائیں۔ پھر ہم خوب سیریں کریں گے۔ عائشہ اُسے بہلاتے ہوئے مسکرائے کی کوشش کرتی بڑے عجیب

تاثرات میں نظر آ رہی تھی۔

”ماما آپ پریشان نہ ہوں..... میں بڑا ہو کر آپ کو جاب نہیں کرنے دوں گا۔ اور پھر میں کبھی بھی شکایت نہیں کروں گا۔ آپ کل بھی چھٹی مت کرنا۔ میں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اپنی برتھ ڈے منالوں

گا۔“ معوذ پھر سے اپنے سنجیدہ اور متین انداز میں بولتا عائشہ کو حیران کر رہا تھا کبھی کبھی وہ بالکل زمان کی طرح بات چیت کرتا محسوس ہوتا تھا۔

”ہاں..... ہاں..... تم اپنے کلاس فیلوز کے



ہے نامیں نے تمہیں بتایا تھا سخت سردی میں وضو کرنا بھی  
جہاد کے برابر ہے۔ اور تمہیں تو مجاہد بننا ہے نا۔“  
عائشہ اُسے اسی طرح ترغیب دیا کرتی تھی۔

”سچ ماما..... میں سردی میں نماز پڑھنے سے بھی  
مجاہد بن جاؤں گا۔“ سول میں گرجوٹی بھی تھی اور  
معصومیت بھی۔

”ہاں..... اگر تم شوق اور لگن سے پڑھو گے  
تو.....!“ عائشہ اسی طرح اُس کی تربیت کرتی آرہی  
تھی۔

معوذ فوراً بستر سے اتر کر غسل خانے کی طرف  
بڑھ گیا۔ عائشہ کے چہرے پر بہت نرم سی مسکراہٹ  
آگئی۔ معوذ کی یہ عادت بہت اچھی تھی۔ وہ عائشہ کی  
باتیں بہت جلد مان لیتا تھا۔ نہ صرف مان لیتا تھا بلکہ  
عملی طور پر بھی ثابت کرتا تھا کہ وہ اپنی ماں کا  
فرمانبردار ہے۔ جتنی دیر میں معوذ وضو کر کے آیا اتنی  
دیر میں عائشہ نے خود نماز فجر ادا کی اور پھر تسبیحات  
پڑھنے لگی۔ معوذ کمرے کے کونے میں پڑی تیالی سے  
دوسری جا نماز اٹھا کر لایا اور اُس کے قریب بچھا کر نیت  
باندھنے لگا تو عائشہ نے اُسے متوجہ کر کے پکارا۔

”معوذ!“

”جی ماما.....“ وضو کا پانی تولیے سے صاف  
کرنے کے باوجود معوذ کے چہرے پر پانی کی نمی  
کے علاوہ بھی ایک خاص سی چمک تھی۔ عائشہ کی نگاہ  
اُس کے چہرے پر ٹھہر نہیں سکی۔ اُس کی آواز کسی  
خاص کیفیت کے تحت خود بخود مغلوب ہوگئی۔

”معوذ نماز پڑھنے سے پہلے آج دو نفل  
شکرانے کے بھی پڑھ لو۔ میں نے تمہیں نفل ادا کرنے کا  
طریقہ سکھایا تھا نا؟“ معوذ نے قدرے حیرت بھرے  
تاثرات کے ساتھ استفسار کیا۔

”نف..... ل.....؟ وہ کس لیے ماما..... آج شب  
معراج تو نہیں تھی۔“

ساتھ بھی برٹھہ ڈالے منالینا۔ مگر میں کل گھر پر بھی  
ارتھوٹ کر لوں گی۔ اور میں کل آفس بھی نہیں جاؤں  
گی۔ ہاس ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔“ عائشہ  
نے جیسے خود کو بھی پاور کرا کر عزم سے کہا۔

”سچ ماما..... کل جب میں اسکول سے واپس  
آؤں گا۔ تو آپ گھر پر ہی ہوں گی نا.....“ معوذ میں  
پھر سے بچوں کی سی گرجوٹی بھر گئی۔

”بالکل بہرے چاند..... ماما گھر پر ہی ہوں گی۔  
اب ایسا کرو سو جاؤ۔ صبح جلدی اٹھنا ہے اور مجھے بھی کل  
صبح بازار جانا ہے۔“ عائشہ نے اُسے خود سے الگ  
کرتے ہوئے تاکید کی تو وہ ہنس رہا تھا۔ اُس کے  
چہرے پر بلا کی معصومیت نے عائشہ کی اندر بسی متا کو  
بے اختیار اُس کی بلائیں لینے پر مجبور کر دیا۔

☆.....☆.....☆

صبح نہانے کیسے الارم سے پہلے ہی عائشہ کی  
آنکھ کھل گئی تھی۔ فجر کی اذان میں کچھ وقت تھا۔ فجر  
کی نماز پڑھنا تو اُس کا معمول تھا ہی کبھی کبھار وہ تہجد  
بھی پڑھ لیا کرتی تھی۔ اُس کے اشک رواں تھے اور  
وقت بھی رواں دواں تھا۔ اذان فجر نے اُسے ہی  
نہیں چونکا یا تھا۔ گہری نیند میں سوئے معوذ کو بھی جگا  
دیا تھا۔ کبھی کبھی معوذ بھی نماز پڑھ لیتا تھا۔ جب  
عائشہ اُسے تاکید کرتی۔ اب بھی اُسے بستر پر جاگتے  
دیکھ کر بہت نرمی سے اُسے مخاطب کیا۔

”معوذ..... اٹھو بیٹا..... نماز پڑھ لو.....!“ سرخ  
کبیل میں لپٹا آٹھ سالہ معوذ جو پھر سے سونے کا سوچ  
رہا تھا۔ ماں کی پکار پر زرا سا کسمایا۔

”ماما..... سردی بہت ہے..... پانی ٹھنڈا  
ہوگا۔“ معصوم عذر تھا مگر حقیقت بھی تھی۔ دسمبر کے  
وسط میں پانی بھی برف کی طرح چوٹ دیتا تھا۔

”میں نے پانی گرم کر رکھا ہے اٹھو جان..... اللہ ہر  
کسی کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں دیتا اور تمہیں یاد



معوذ نے اُس کے کہنے پر دودھ کا گلاس دوبارہ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ عائشہ نے کبھی اُسے چھٹی کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔

”ہاں..... آج تو تمہارا ٹیسٹ ہے؟“ اُسے بھی جیسے یاد آیا۔

”چلو کوئی بات نہیں اچھا سا ٹیسٹ دینا۔ میں دعا کروں گی تمہیں سب سے زیادہ نمبر ملیں۔“ عائشہ نے معوذ کو پچکارا۔

”مگر ماما..... آج میری اچھی تیاری نہیں ہے۔ اس لیے میں نے دعا کی ہے کہ آج ہمارا ٹیسٹ نہ ہو۔“ وہ جو چھٹی کے نام پر ذرا پُرجوش ہوا تھا یکدم ڈھیلا ہو کر بولا تو عائشہ نے سنجیدگی سے دیکھا۔

”تیاری تو کرنی چاہیے تھی۔ کیوں نہیں کی تیاری۔“

”آئی بلیس کی وجہ سے..... وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی تھیں۔“ معوذ کی شکایت میں بیزاری بھی تھی۔

”آئندہ وہ تم سے باتیں نہیں کریں گی، میں انہیں منع کر دوں گی۔“ عائشہ نے اُس کا بھاری بھر کم بستہ اُس کے دونوں بازوؤں میں پرو کر اُس کی کمر پر لاد دیا۔ اسکول دین کا ہارن قریبی گلی سے سنائی دے رہا تھا، کچھ ہی لمحوں میں وہ اُن کے گھر کی گلی کے قریب کٹڑ پر آ پہنچتا۔ عائشہ جلدی سے چادر اوڑھ کر اُسے باہر نکلنے کا اشارہ کرتی منہ میں معمول کی آیات قرآنی اور دعائیں پڑھتی اُس کے پیچھے لپکی۔ دروازہ اچھی طرح بند کر کے وہ معوذ کے ہتھم ہوا کر اُس پر آیات و دعائیں پھونک کر بولی بلکہ ہمیشہ کی جانے والی نصیحتیں دہرانے لگی۔

”معوذ..... بیٹا دین کی کھڑکی سے مت جھانکنا اور کسی بچے سے بھی جھگڑنا مت اور سبھی کے ساتھ مل جل کر کھیلنا..... ٹھیک ہے۔“ عائشہ نے اُس کا سر سہلایا۔

”اوکے..... ماما.....!“ معوذ بولتا نگر پر کھڑی دین میں لپک کر بیٹھ گیا۔ عائشہ کے چہرے پر دھیمی سی

”نہیں آج شب معراج تو نہیں تھی مگر آج کا دن تمہاری پیدائش کا دن ہے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مکمل صحت مند اور اپنی نعمتوں سے بھرپور زندگی عطا کر کے دنیا میں نیک اور اچھے کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اسی لیے آج اور ہمیشہ اللہ کے حضور شکرانہ ادا کیا کرنا..... اچھا!“ عائشہ کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ معوذ سے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ معوذ نے تابعداری سے سر ہلا کر اسے مطمئن کیا اور نماز نفل شکرانہ کی نیت باندھنے لگا۔ صبح کے معمولات کے مطابق عائشہ نے پہلے اپنے اور معوذ کے لیے ناشتہ بنایا اور پھر ہر روز کی طرح کمرے میں میز پر رکھنے کے بعد معوذ کو انڈا اور سلاٹس کھانے کی طرف راغب کرتی اُس کے بیگ میں کتابیں رکھنے کے ساتھ ساتھ اُس کے ساتھ باتیں، نصیحتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔

”معوذ میں نے چاکلیٹ کا ڈبہ بیگ کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ یاد سے لے کر جانا اور تمام کلاس فیلوز میں بانٹنا۔“

”ماما..... میں اپنی ٹیچر کو ڈے دوں گا وہ سب میں بانٹ دیں گی۔“ دودھ کا گھونٹ بھرنے کے بعد معوذ کرسی سے اٹھ کر ماں کے قریب آ گیا اور پھر بے اختیار ہی ماں سے لپٹ گیا۔

”تھینک یو..... آئی لو یو ماما۔“ معوذ کا یہ بے اختیارانہ عمل عائشہ کو چونکا گیا۔ اُس نے بھی فرطِ محبت میں اُس کی پیشانی چومی۔

”آئی لو یو ٹو۔ اب جلدی سے اپنا دودھ کا گلاس ختم کرو۔ دین آتی ہوگی۔ ویسے میں تو چاہ رہی تھی کہ تم بھی آج اسکول نہ جاؤ..... مگر.....“ عائشہ اپنی بات کہہ کر خود ہی پریشان نظر آنے لگی۔ جیسے وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی مگر کچھ اور کہہ رہی تھی۔ معوذ بھی حیران تھا۔

”ماما..... آج میرا ٹیسٹ بھی ہے نا..... مگر آپ کہتی ہیں تو میں چھٹی کر لیتا ہوں۔“



مسکراہٹ تھی اور ہاتھ الوداعی انداز میں لہرا کر وہ بھی بچوں کے درمیان نمایاں معوذ کو بلائیں لیتی نظروں سے کھڑی دیکھتی رہی حتیٰ کہ دین آگے بڑھ کر آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔

عائشہ گھر واپس پٹی تو باجی بلقیس ساتھ والے گھر سے نکل کر اُس کے گھر آنے کا ارادہ رکھتی کھڑی تھیں۔

”باجی آپ.....؟ آئیں ناں!“ دروازے کی چٹنی کھولتی عائشہ انہیں دعوت دے کر اندر بڑھ گئی تو چالیس سالہ باجی بلقیس بھی پیچھے ہی آ گئیں۔ اچھی نیک فطرت خاتون تھیں۔ عائشہ کو اُن کی ذات سے کافی ڈھارس اور حوصلہ تھا۔ وہ اکثر بازار سے (عائشہ کے گھر کی) ضرورت کی چیزیں لادیا کرتی تھیں۔ کسی کسی وقت معوذ کو اپنے گھر سے کھانا بھی کھلا دیتی تھیں اور اپنے بچوں کے ٹیوشن اکیڈمی جانے کے بعد معوذ کے ساتھ تین چار گھنٹے گزار لیا کرتی تھیں یا پھر اُسے اپنے گھر لے جایا کرتی تھیں۔ (جب انہیں کوئی ضروری کام ہوا کرتا تھا) عائشہ کو وہ ہمیشہ چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھاتی رہتی تھیں کہ وہ اپنی زندگی تنہا گزار دینے والی سوچ کو بدل دے۔ عائشہ اُن کی باتوں سے متفق ہو کر بھی بے بس تھی۔ وہ ادراک رکھتی تھی کہ سفر لہسا ہو تو کسی ہمسفر کی رفاقت ہی اُس کی کھٹنائیوں کو سہل بنانے میں کارفرما ہوتی ہے مگر کیا کیجیے کہ ہمسفر کے بدل جانے کا احتمال ہی تو اُس کی ہر سوچ کو پابند کر دیتا تھا۔

اپنی ذات سے زیادہ اُسے معوذ کی فکر لاحق تھی۔ وہ اُس کی تربیت میں کوئی جھول اور خلاء نہیں چاہتی تھی جو کہ دوسرے باپ کی صورت معوذ کی شخصیت کو متاثر کرتا۔

”تم آج آفس نہیں جاؤ گی؟“ اُسے چادر اتار کر ایک طرف رکھتے دیکھ کر باجی بلقیس نے قدرے حیرت سے پوچھا تو وہ خفیف مسکراہٹ کے ساتھ سر نگی میں ہلا کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔

”نہیں باجی..... آج میں نے چھٹی کر لی ہے۔“ باجی بلقیس اُس کے کہے بغیر ہی سامنے کرسی پر بیٹھ چکی تھیں۔

”اچھا! میں نے سوچا تھا تمہارے آفس جانے سے پہلے پوچھ لوں، آج بازار سے کچھ منگوانا ہو تو.....!“

”منگوانا تو ہے؟ باجی میں خود ہی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ بس ذرا گھر کی صفائی کر لوں۔ آپ تب تک اپنا کوئی کام کر لیں۔“ عائشہ کچھ سوچ کر بولی۔ تو باجی بلقیس بھی فوراً اٹھتے ہوئے بولیں۔

”چلو ٹھیک ہے۔ تم فارغ ہو کر مجھے آواز دے دینا۔ میں بھی دوپہر کے لیے ہنڈیا چڑھا دوں۔ بازار میں کہیں ویرنہ لگ جائے۔“ عائشہ نے سر ہلایا اور باجی بلقیس کے جانے کے بعد برتن وغیرہ سمیٹ کر باورچی خانے میں آ کھڑی ہوئی، کام کرتے کرتے آج اُسے بار بار زمان کی یاد آبدیدہ کر رہی تھی۔ جس عزم و ارادے سے اُس نے چھٹی کی تھی، وہ جوش و ولولہ اب ماند سا پڑ رہا تھا۔ حالانکہ اُسے معوذ کے آنے سے پہلے گھر کو غباروں سے سجانا تھا۔ بازار جا کر کیک اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر آتی تھیں۔ اور سب سے اہم کام گاؤں سے آنے والے اپنے بابا یعنی معوذ کے نانوکے لیے کھانا بنانا تھا۔ جو خصوصی طور پر معوذ کی سالگرہ پر اُس سے ملنے آرہے تھے۔ ورنہ انہیں شہر میں آ کر رہنا بالکل پسند نہیں تھا۔ یہی عائشہ کا سر پر اڑتا تھا جو وہ معوذ کو دینا چاہتی تھی۔

ابھی اُس کا کام ختم نہیں ہوا تھا جب باجی بلقیس نے زور سے اُس کے گھر کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ عائشہ جو غباروں کا پیکٹ بستر پر رکھے چند غبارے پھلائے بیٹھی تھی۔ ہڑبڑا کر دروازہ کھولنے لگی اور دروازہ کھولتے ہی بولی۔

”بس باجی..... میں آپ کی طرف آنے ہی والی



تھی۔ بس چلتے ہیں دس پندرہ منٹ میں۔“ باجی بلیقیس  
حواس باختہ سی وروازے پر کھڑی رہ گئی۔

”آجائیں نا..... میں ذرا کپڑے بدل لوں۔“  
باجی بلیقیس کو خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ بے اختیارانہ  
پوچھنے لگیں۔

”تم نے ٹی وی میں خبر دیکھی؟“ بات مکمل کرنے  
میں اتنی دشواری باجی بلیقیس کو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ عائشہ  
کی توجہ اُن پر نہیں تھی ورنہ اُن کی غیر ہوتی حالت اُسے  
تشویش میں مبتلا کر دیتی۔ وہ پہلے کمرے سے گزر کر  
دوسرے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔

”باجی! آپ کو معلوم تو ہے۔ میں بلا وجہ ٹی وی نہیں  
لگاتی۔ اور خبریں سن کر دیکھ کر مجھے اختلاج ہونے لگتا  
ہے۔ کیسی کیسی باتیں سننے اور منظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دس  
دن تک طبیعت نہیں سنبھلتی۔“ اُس کی بات سن کر باجی  
بلیقیس پر چند لمحوں کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔

”کیا ہوا؟ کیا خبر تھی جس نے آپ کو پریشان  
کر دیا؟“ عائشہ اُن کی خاموشی محسوس کر کے پلٹ کر آئی۔  
باجی بلیقیس کی خاموشی اُسے تشویش میں مبتلا کر گئی۔

”وہ اسکول ہے نا..... وہشت گردوں نے.....  
بچوں کو..... اسکول میں گھس کر..... قتل.....“ باجی  
بلیقیس کے لفظ بے ربط سے تھے۔ عائشہ کو جیسے سمجھ نہیں  
آئی۔ معمولات کا حصہ تھیں اب تو ایسی خبریں..... اور وہ  
تو خود بھی ایک بڑے سانحے کا شکار ہو چکی تھی۔ خبریں  
تکلیف دیتی تھیں، سو اُس نے اس تکلیف دہ امر پر غور  
کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن سن کر اُسے تکلیف تو ہوئی  
تھی۔ آہ بھر کر غمزہ لہجے اور تاثرات کے ساتھ بولی۔

”آہ..... اب مسجدوں کے بعد معصوم بچوں کے  
اسکولوں کو بھی تالے لگوائیں گے یہ بے دین، بے ضمیر، بے  
حمیت درندے..... انسا..... ن کہنے کو دل نہیں چاہتا میرا  
انہیں۔“ اُس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی۔ بلیقیس باجی  
دھاڑیں مار مار کر رونے لگیں۔ گلی سے بھی شور کے ساتھ

دوڑتے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔

”با..... جی..... خیر تو ہے نا..... آ..... پ..... یہ  
شور..... آوازیں..... آپ کس اسکول کی بات.....  
کر..... رہی تھیں؟“ جو اباجی بلیقیس کی ہچکی بندھ گئی۔  
عائشہ کو وہم اور خدشے ٹھٹھکنے پر مجبور کر گئے۔ کچھ ہوا تھا۔  
ایسا غلط اور بے یقین جس نے باجی بلیقیس کے دل کو پکھلا  
کر بکھرنے پر مجبور کر دیا تھا۔

”وہ..... عائشہ..... ہا..... را..... معوذہ جس  
اسکول میں پڑ..... ہتا..... ہے وہاں وہشت گرد گھسے  
ہیں۔“ باجی بلیقیس نے جس ضبط اور حوصلے سے یہ  
اطلاع دی تھی وہی جانتی تھیں اور عائشہ کی سماعتیں سن کر  
بھی بے یقین تھیں۔ دل مچل گیا تھا۔

”ایسا نہیں ہو سکتا۔“ اور پھر اُس کے ہوش دحواس  
بکھر کر منتشر ہو گئے تھے۔ آوازوں کا شور تھا۔ نیوز چینلز  
والوں کا لمحہ بہ لمحہ نشر ہوتا تبصرہ دل دہلانے والے مناظر  
ماؤں کا کلیجہ چیرتی معصوم بچوں کی آہ و بکا اور خون میں  
لتھڑی لاشیں پھولوں کی پتیوں کی طرح بکھری ہوئی  
تھیں۔ ایک قیامت برپا تھی۔ پل بھر میں کیا سے کیا  
ہو گیا تھا۔ گھر سے نکل کر حصول علم کی لگن میں محو معصوم مگر  
ذہین بچے خود پر حملہ آور ہوئے درندوں سے مزاحمت  
بھی نہ کر پائے تھے۔ ماؤں کے جگر گوشے چھلنی ہوئے  
خاکستر پڑے ہوئے تھے۔ انسانوں کے جنگل میں بے  
پر پنچھیوں کو پہلی پرواز سے پہلے ہی گھونسلوں سے گرا کر  
روند دیا گیا تھا۔ یہ کیسے طاقتور تھے جو اپنی حیوانیت کا شکار  
نا تو اتنا کمزور اور بے بس نفوس کو کر کے اپنی برتری کا  
احساس دلار ہے تھے۔ عجب دیوانگی تھی۔ آٹھ سالہ معوذ  
اور اُس جیسے سیکڑوں بچے اپنے وطن کے اُن دشمنوں کی  
بربریت کا شکار ہوئے تھے جو انسانیت کے خانے سے  
خارج تھے۔

عائشہ کا دکھ عظیم تر تھا۔ اہل وطن اُن ماؤں کے دکھ  
پر اشکبار تھا۔ جن کے معوذ جیسے سپوت وطن کی مٹی پر نثار و



قربان ہو کر ایک نئی فصل کو خزاں میں کاشت کر کے نئے موسم کے پھل پھول دے کر بتا گئے تھے کہ قربانی کا عمل زندگی کو دوام ہی نہیں بخشتا بلکہ آنے والوں کو اپنے پیچھے اندھیروں کو اجالنے کا عزم و حوصلہ بھی عطا کرتا ہے۔

☆.....☆.....☆

خون آلود کفن میں لپٹا معصوم معوذ کا چہرہ چاند کی طرح تابناک اور روشن عائشہ کی طویل خاموشی کو آخر ٹوٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ عائشہ کے والد نثار گل نواسے کی سالگرہ پر سر پر اتر دینے کی غرض سے آئے تھے اور اب خود خیران کن صورت حال سے دوچار بیٹھے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھے اُسے حوصلہ اور ڈھارس دینے کی کوشش میں تھے۔ عائشہ بھی اپنے غم گسار و ہمدرد باپ کی شفقت پاتے ہی کھنکتی مٹی کی طرح بجنے لگی تھی۔

”بابا..... میرا..... معوذ آپ نے دیکھا۔ وہ..... وہ بھی..... ز..... ما..... بن کی طرح مجھے تبا چھوڑ گیا..... وہ کہتا تھا..... اس بار..... وہ بھی اپنے دوستوں کی طرح کہیں جانا چاہتا ہے..... آپ کے پاس..... مگر..... وہ تو بہت دور..... ہمیشہ کے لیے چلا گیا..... مجھے بتایا بھی نہیں۔“ زمان نے بھی مجھے نہیں بتایا تھا۔ وہ بھی چلا گیا اور یہ بھی۔“

”وہ تمہیں چھوڑ کر نہیں گئے میرے بچے..... اللہ کا حکم تھا انہیں واپس لوٹنا تھا۔ جس طرح ہم سبھی کو وقت مقررہ پر اُس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ہمارا بلاوا تو نجانے کب اور کس حالت میں ہوگا مگر دیکھو اللہ نے ہمارے پیاروں کو کس شان اور اعزاز سے اپنے قرب کی سعادت بخشی ہے۔ تم چاہتی تھیں نا کہ معوذ ہمارے وطن پر اپنی جان نثار کر دے تو ایسا ہو گیا ہے۔ میرے بچے اللہ کے اس احسان پر شکر ادا کرو کہ ہمیں اُس نے اپنے پیاروں سے وابستہ کیا ہے۔ ہمیں ظالموں کا ساتھ دینے والا نہیں بنایا۔“ نثار گل کی باتیں اثر انگیز تھیں عائشہ کا دل خود بھی ایمان کی شمع سے روشن و منور تھا۔ اس لیے وہ جلد ہی سنبھل گئی۔

”بابا جان..... آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اُس نے ہماری تمناؤں اور خواہشوں کے مطابق ہمیں عطا کیا ہے اور اُن حیوانوں کو اُن کے اعمال کے مطابق سزا بھی وہی دے گا انشاء اللہ..... ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہ ہم اللہ کی طرف سے انعام پانے والوں میں شمار ہیں۔ اُس کے غضب کو آواز دینے والوں میں سے نہیں۔“

☆.....☆.....☆

عائشہ غمگین ہے افسردہ ہے زندگی کا رخ بدلنے پر کبھی کبھی متذبذب بھی رہتی ہے۔ ماں کا دل جو اُس کے سینے میں دھڑکتا ہے۔ بچے کی جدائی پر سسکتا بلکتا بھی ہے۔ اور پھر اُس کی ممتا کی دھڑکنیں فخر و انبساط سے خراماں درواں ہو جاتی ہیں۔ وہ معوذ جیسے بچے کی ماں ہے یہ احساس اُسے زندگی کے نئے رخ سے روشناس کرواتا نئی سمت لے آیا ہے۔ اُس نے ملٹی نیشنل کمپنی سے استعفیٰ دے کر اسی اسکول میں معوذ جیسے بچوں کو علم کی روشنی بانٹنے کی درخواست دی ہے اور اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرنے کا بھی ارادہ باندھا ہے۔

وہ آرمی پبلک اسکول کے ہر شہید کو ہر نماز میں اپنی دعاؤں کے تحفے بھیج کر اپنی محبتوں کا ایقان منتقل کرتی ہے۔ زندگی سے اُسے اب کوئی شکایت ہے نہ گلہ۔ اُس کی گود میں پردان چڑھنے والا اُس کا جگر گوشہ اپنی پیدائش کے یوم پر ہمیشہ رہ جانے والی زندگی سے ہم کنار ہوا تھا۔ اُسے اللہ سے اور کیا چاہیے تھا۔

☆.....☆.....☆

”اور تم کیا جانو..... شہید کی موت اصل میں اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ سے ملاقات کی راحت پانے کی لذت دنیاوی زندگی کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ آیات کا مفہوم عائشہ کی سماعتوں میں گونجتا اُسے زندہ رہنے کی طرف بلکہ زندگی جینے کی طرف راغب کر گیا تھا۔

☆.....☆.....☆



# مقدار کی سنگند

”رات کو مجھے اچانک جہانگیر خان کا فون آیا، وہ مجھ سے تمہارے متعلق پوچھ رہے تھے۔“  
 ”مم..... میرے متعلق؟“ میں ہکلا کر بولی۔ ”ہاں وہ تمہارے گھر کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ تمہارے گھر آ کر تمہیں پرپوز کرنا چاہتے ہیں۔“ میڈم کی بات.....

## ناولٹ نمبر کی سوغات، ایک بہت منفرد ناولٹ

بڑے اچھے سے گزارا ہو جاتا تھا کیوں کہ ابا کا ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور تھا۔ جس میں سے اچھی آمدنی ہو جایا کرتی تھی..... لیکن ابا بس چند دن بیمار رہے اور جب تک ہم ان کی بیماری سمجھتے وہ جان جان افرین کے سپرد کر گئے تھے۔ بڑے کٹھن دن تھے وہ..... اماں بیٹیوں کو دکان پر نہیں بٹھا سکتی تھیں۔ تینوں داماد اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ کچھ وقت تو نو کروں کے ذریعے دکان چلی، لیکن جب اماں کو اندازہ ہوا کہ نوکر سب کچھ خود ہی ہنڈل رہے ہیں تو انہوں نے دکان اونے اونے بیچ کر اس باب کو ہی بند کر دیا۔ ان دنوں جب گھر کے حالات دگرگوں ہو رہے تھے..... مجھے ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچرار شپ مل گئی اور اس طرح گھر کی گاڑی بری بھلی چلنے لگی۔ علیزہ بھی ڈل کلاس لڑتی تھی لیکن وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ سو وہ رئیسوں جیسی زندگی بسر کر رہی تھی۔ لیکچرار شپ بھی وہ اپنے شوق کی بنا پر کر رہی تھی بقول اس کے کہ وہ صرف

میں اور علیزہ ایک جان دو قالب تھے۔ ہم دونوں کی دوستی سے ہر کوئی واقف تھا۔ ہم اسکول کے وقت کے ساتھ ساتھ تھے اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی..... ہم دونوں ساتھ ساتھ رہتے..... ہمارے بیچ کوئی بھی بڑا جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ کبھی کبھار اختلاف رائے ہو جایا کرتا تھا جس نے ہمارے درمیان کوئی بھی دیوار نہیں کھڑی کی تھی۔ آج کل ہم دونوں ایک پرائیویٹ کالج میں بطور لیکچرار کے اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے تھے۔ ہم دونوں کی الگ الگ کہانیاں تھیں..... نہیں بلکہ حقیقتیں تھیں..... میری خاصی بڑی فیملی تھی..... ابا وفات پا چکے تھے۔ ہم چار بہنیں تھیں اور دو بھائی تھے۔ ہم چاروں بہنیں بھائیوں سے بڑی تھیں..... تینوں بڑی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ بھائی ابھی اسکول گونگ تھے..... ابا کی وفات نے ہمیں معاشی طور پر بڑا دھچکا پہنچایا تھا..... ہماری کلاس تو پہلے ہی ڈل کلاس تھی۔ پھر بھی ابا کی زندگی میں







اور صرف میرے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ جاب کر رہی تھی..... ہم دونوں کا ابھی رشتہ طے نہیں ہو سکا تھا جس کا اماں کو بہت قلق تھا..... علیزہ تو اماں کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ میری اور اس کی دوستی کو کبھی اماں نے پسند نہیں کیا تھا۔ لیکن آج کل اماں کو میری شادی کی شدید فکر لاحق جو گئی تھی۔ جب سے میری تیسری بہن رومانہ کے شوہر نے دبے لفظوں میں رومانہ کو کہا تھا کہ اماں میری شادی اس لیے نہیں کروائیں گی کہ میری وجہ سے ان کے گھر کی گاڑی چل رہی ہے حالانکہ میں جانتی تھی کہ اس بات میں زیرو فیصد بھی سچائی نہیں تھی۔ اماں میری شادی کی فکر میں ہر وقت ہلکان ہوتی رہتیں لیکن ابھی تک کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملا تھا۔ ابھی حال ہی میں اماں نے اپنے گھر کے اوپر کا حصہ کرائے پر دے دیا تھا۔ جس سے آمدنی بڑھ گئی تھی۔ اماں اپنے طور پر گھریلو قسم کا بزنس بھی کرتی تھیں..... مثلاً شامی کباب اور سموسوں کے پیکٹ بنا کر سٹورز میں دینا..... ایسے کئی چھوٹے موٹے کام کر کے وہ اپنی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کر رہی تھیں..... میں خاصی اسمارٹ تھی مین نقش بھی اچھے تھے لیکن میرا رنگ سانولا تھا۔ اماں کا خیال تھا کہ میری سانولی رنگت ہی میرے رشتے کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے لیکن میں ایسا نہیں سمجھتی تھی..... میں بڑی مست ملنگ ٹائپ لڑکی تھی..... میں سمجھتی تھی جب بھی خدا کو منظور ہوگا میری شادی ہو جائے گی..... اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی..... بہت سی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی اور وہ شادی شدہ سے اچھی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں..... میرے اس خیال سے علیزہ بھی متفق تھی لیکن ایک بات کا میں اعتراف کرتی ہوں علیزہ مجھ سے زیادہ گڈ لکنگ تھی۔ اس کی رنگت سفیدھی اس کے نقوش تیکھے تھے

اور قد لانا تھا۔ اس کے بال لمبے گھنے اور کالے تھے۔ جو اس کے گورے چہرے پر لہراتے بہت بھلے لگتے تھے اس کے بہت سارے رشتے آتے تھے لیکن ابھی بات نہیں بنی تھی..... شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اس لیے وہ ہر رشتے میں میخ نکال کر اسے ریجکٹ کر دیتے تھے۔

اس دن کالج سے گھر لوٹی تو اماں کو بہت خوش پایا۔ جب سے اماں پر ذمہ داریوں کا بڑا بوجھ آن پڑا تھا اماں کا موڈ ہر وقت آف ہی رہتا تھا۔ لیکن آج اماں بہت مسرور بے حد شاداں اور مگن نظر آ رہی تھیں۔ اماں کو خوش دیکھ کر میرے اندر طمانیت پھیل گئی۔

”کیا بات ہے اماں..... کیا آج کوئی خزانہ مل گیا ہے آپ کو۔“ میں مسکرا کر اماں سے پوچھنے لگی۔

”ہاں ایسا ہی سمجھ لو۔“ اماں نے بڑا نقرتی قبہہ لگاتے ہوئے کہا۔

”مجھے شریک نہیں کریں گی..... اپنی اس خوشی کے خزانے میں۔“

”ارے کروں گی..... سو بار کروں گی..... تیری شرکت کے بغیر تو کچھ بھی ہونے سے رہا۔“ اماں خوشی سے لبریز آواز میں بولیں۔ تو میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اماں میری طرف جھک کر رازداری سے بولیں۔

”تیرے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے مینا۔“

”اچھا۔“ میرے اچھے موڈ میں اضافہ ہو گیا۔

”کون ہیں؟..... کیسے لوگ ہیں؟“

اماں اسی رازداری سے بولیں۔

”تیری خالہ ہے نازینت..... اسی نے ساری بات کر لی ہے بہت اچھا رشتہ ہے بلکہ بہترین



# پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

## یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ سیریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on  
Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1



”ارے مجھے بھی تو بتاؤ وہ خاص الخاص مہمان کون ہیں؟“ وہ اپنی آنکھیں گول گول گھماتے ہوئے بولی۔

”میرے رشتے کے لیے آرہے ہیں۔“ میں نے زیادہ سسپنس نہیں پھیلا یا تو وہ بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی۔

”ارے مینا سچ کہہ رہی ہے تو.....“ میں نے اثبات میں سر ہلایا تو وہ جلدی سے بولی۔

”اچھا اب مجھے بھی کام بتا..... تیرے سر ایلوں کے لیے میں بھی کچھ کر لوں۔“ میں بے ساختہ ہنس پڑی۔

”میں نے سب کر لیا ہے..... اب تم انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام شامل کرنا چاہتی ہو۔“ ہم دونوں نے ایک ساتھ قہقہہ لگایا تو اماں کو گویا ہمارے قہقہے نے نیند سے جگا دیا۔ وہ سیدھی کچن میں آئی اور علیزہ کو میرے ساتھ دیکھ کر ان کا موڈ آف ہو گیا۔ علیزہ نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے منہ ہی منہ میں بد بد کر سلام کا جواب دیا اور پھر مجھے مخاطب کر کے بولیں۔

”ان لوگوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔“

تم نے کچھ کیا بھی ہے یا نہیں؟“

”کر لیا ہے اماں..... بس اب تیار ہونے جا

رہی تھی۔“ میں علیزہ کے ساتھ اپنے کمرے میں

آگئی..... علیزہ نے میرے کپڑے نکالے اور مجھے

تیار ہونے میں مدد کی..... چائے کی ٹرابلی گھسیٹتے

ہوئے میں اندر کھسی تو بالکل سامنے وہ لڑکا جس کا

نام اماں نے اکبر بتایا تھا۔ وہ اپنی نظروں میں شوق

کا طوفان لیے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ساتھ میں

اس کی بہنوں کی نظریں بھی مجھ پر جمی تھیں۔ میں

کنفیوز سی ہو گئی، لیکن اس وقت علیزہ میری مدد کو

آپہنچی..... مجھے صوفے پر بیٹھے کا اشارہ کر کے وہ

ہے..... لڑکے کی دو بہنیں ہیں۔ جو شادی شدہ ہیں..... نہ ماں ہے نہ باپ لڑکا دوہی میں اچھی پوسٹ پر کام کرتا ہے..... انجھی چھٹیوں میں گھر آیا ہے تو بہنوں نے اس کا گھر جمانے کا فیصلہ کیا ہے..... وہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتی ہیں..... زینت نے تیری تصویر دکھا دی۔ تیرے کردار کی تعریف کی..... بس انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ تجھے ہی بھابی بنانا ہے..... آج وہ آرہی ہیں..... لڑکا بھی ساتھ آرہا ہے کہ ہم لڑکا دیکھ لیں۔“ اماں نے ایک ہی سانس میں بات ختم کی..... ”اچھا تو بس تو کچن دیکھ میں ذرا کمر سیدھی کر لوں صبح سے کچن میں کھڑی ہوں۔ کمر اڑ گئی ہے۔“

میں کچن میں آئی تو بہت پھیلاوا کچن میں پھیل چکا تھا۔ اماں نے اپنے طور پر کچھ ڈشز تیار کر لی تھیں لیکن ابھی بھی میرے کرنے کو بہت کام باقی تھے۔ کچن میں ابلے پنے پڑے تھے..... جن کو پیاز ٹماٹر سے آراستہ کر کے ڈش تیار کرنی تھی..... دوسری دیپچی میں گا جریں دودھ اور چینی کے ساتھ گل چکی تھیں لیکن ابھی اس پر کھویا پھیلانا اسے الاچھی کا بگھار دینا باقی تھا۔ میں دوپٹہ کمر میں باندھ کر کام میں جت گئی۔ میں کام میں لگن تھی کہ آہٹ کی آواز پر چونک کر پیچھے دیکھا تو میرے پیچھے علیزہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ”ارے..... تم کب آئی؟“

”ابھی آئی ہوں۔ لیکن یہ کیا..... کیا کوئی

خاص مہمان آرہے ہیں۔“ اس نے کچن میں

بکھرے پھیلاوے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

کہا۔

”ہاں۔“ میں دھیرے سے مسکرائی۔ اماں اتنی

فراخ دل نہیں کہ عام مہمانوں کے لیے اتنا بکھیڑا

کھڑا کر دیں۔“



تو کیسے ملنے آئے گی جانم... میں تو دوہی  
میں ہوں گی۔

وہ جلدی سے بولی۔

”کیا میں دوہی نہیں آسکتی۔ ارے میری جان  
اگر تو امریکہ میں بھی ہوئی تو میں وہاں بھی ملنے  
آؤں گی۔ وہ مجھے گلے لگاتے ہوئے پیار سے  
بولی۔

علیزے نے اگلے دن ہی یونیورسٹی کی  
دوستوں کو بتا دیا کہ میرے آزادی کے دن ختم  
ہونے والے ہیں اور میں بہت جلد پیادیس  
سدھارنے والی ہوں۔ سہیلیوں نے مبارکبادیں  
دیں۔ جنہیں میں خوشی خوشی وصول کرتی رہی۔

لیکن دو دن بعد ایسی خبر سننے کو ملی کہ مجھے تو جو  
دکھ ہوا سو ہوا لیکن اماں تو جیسے ڈھے ہی گئیں۔ اس  
دن سنڈے تھا۔ میں گھر پر تھی آج کچن کا سارا کام  
کرنے کی میری باری تھی میری کوشش ہوتی کہ  
آج کے دن میں ماں کو کام کو ہاتھ لگانے تک نہ دو  
سنڈے کو بھی میں صبح منہ اندھیرے اٹھ جاتی اور  
سارے گھر کی صفائی کرتی۔ پھر کچن میں آ کر دو  
ہانڈیاں بنا لیتی کہ ایک آدھ دن اماں کو کچھ نہ پکانا  
پڑے۔ ہفتے بھر کے گندے کپڑے مشین میں دھو  
دیتی۔ اس وقت بھی میں ایک ہانڈی بنا چکی تھی اور  
دوسری ہانڈی یعنی آلومٹر بنانے کی تیاری کر رہی تھی  
کہ زینت خالہ آگئی۔ اماں کب سے زینت خالہ  
کے انتظار میں تھیں... آج انہیں دیکھ کر اماں بے  
طرح خوش ہو گئیں... گر مجوشی سے انہیں گلے لگایا  
اور خوشی سے لبریز آواز میں مجھے آواز دے کر  
بولیں۔

اری مینا... چائے بنا کر لا... اچھی سی تیری  
زینت خالہ آئی ہے۔

”نہیں آپا... چائے کو دل نہیں کرتا۔“

ان لوگوں کے لیے چائے بنانے لگی۔ اماں نے  
میری شادی شدہ بہنوں کو اس موقع پر نہیں بلایا تھا۔  
ان کا جواز یہ تھا کہ تمہاری بہنیں اپنے بچوں کے  
ہمراہ آتی ہیں تو چائے کے لیے ڈبل لوازمات  
پکانے پڑتے ہیں... اور اس چھوٹے سے گھر میں  
اپنی ادھم مچ جانی ہے کہ مہمانوں کا دل ہی نہیں چاہتا  
کہ اس کچ مچ والے گھر میں رشتہ کریں۔ اماں کے  
خیال سے مجھے اتفاق نہیں تھا لیکن میں چپ کر  
گئی... مہمانوں نے بڑے اچھے طریقے سے  
چائے پی لی۔ اس دوران وہ مجھ سے چھوٹے  
موٹے سوالات بھی کرتے رہے... اکبر زیادہ تر  
خاموش رہا... وہ خود بھی ایک سلجھا ہوا سنجیدہ نو  
جوان لگ رہا تھا... چہرے پر ایک نرم سا تاثر  
پھیلا تھا۔ جو اس کے مردانہ وقار میں اضافہ کر رہا  
تھا۔ وہ لوگ رخصت ہوئے اماں کو انہوں نے کہہ  
دیا کہ وہ ایک دو دن میں انہیں جواب سے مطلع  
کریں گے... اماں بڑی خوش تھیں... انہیں سو  
فیصد امید تھی کہ اس بار یہ رشتہ طے ہو جائے گا۔  
انہیں اکبر بھی واماد کے طور پر بہت پسند آیا تھا۔ اور  
وہ بار بار کہہ رہی تھیں دیکھ لینا مینا... اکبر تیرے  
سارے بہنویوں سے اچھا ثابت ہوگا۔

میں شرما جاتی... علیزے بھی مجھے اکبر کے  
حوالے سے چھیڑ رہی تھی۔ اماں کی بات دوسری تھی  
لیکن علیزے سے تو میں بہت فری تھی۔ سو جب  
اس نے ہنس کر کہا۔

”مینا... اکبر جیسا شوہر پا کر تو تو آسمانوں  
میں اڑنے لگے گی... تیرے پیر زمین پر نہیں نکلیں  
گے اور جب میں تم سے ملنے آؤں گی تو تو نوکر سے  
کہے گی کہ کون علیزے؟ جاؤ اس سے کہہ دو کہ میں  
اپنے میاں کے ساتھ مصروف ہوں۔

میں کھل کھلا کر ہنستے ہوئے بولی۔



زینت خالہ کی آواز بھی سمجھی سی تھی..... میں نے چائے کا پانی چولھے پر رکھ دیا لیکن میرا سارا جسم کان بن کر اماں اور زینت خالہ کی باتیں سن رہا تھا۔ زینت خالہ پوچھ رہی تھیں۔

آپا..... جب وہ لوگ اس وقت رشتے کے لیے آئے تو مینا کی کوئی دوست بھی یہاں تھی۔؟  
ہاں..... وہ دم چھلی تو ہر وقت مینا کے ساتھ چپکی رہتی ہے۔ اس دن بھی یہاں تھی.....“ اماں کی آواز میں ناگواری اور بے زاری تھی۔ جہاں اس کے ذکر پر مجھے حیرت ہوئی وہاں اماں بھی حیرانگی سے بولیں۔

”لیکن زینت..... اس لڑکی کا یہاں کیا ذکر ہے؟“

سارا مسئلہ تو اس لڑکی کا ہی ہے..... اگر وہ نہ ہوتی تو مینا کا رشتہ طے پا جاتا۔“

کک..... کیا مطلب۔“ اماں کی آواز میں اندیشے لرز رہے تھے۔

”مطلب یہ ہے کہ..... اکبر نے اس دوسری لڑکی کو پسند کر لیا ہے..... بہنیں بے چاریاں تو بڑی شرمندہ ہو رہی تھیں..... لیکن وہ بھی کیا کریں..... جب لڑکے نے ہی راستہ بدل لیا۔“  
میرا توجہ دھک سے رہ گیا۔

لیکن اماں پر کیا گزری..... یہ تو میں کچن میں بیٹھے بیٹھے بتا سکتی تھی..... کتنی دیر تک اماں کی آواز ہی نہیں آئی..... میں گھبرا گئی..... مجھے اماں کی فکر ہونے لگی میں تیزی سے کچن سے باہر آ کر صحن میں آ گئی۔

اماں..... اماں آپ ٹھک تو ہیں ناں.....؟“  
میں نے گم صم..... بے دم سی بیٹھی اماں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اماں نے ایک تیز نظر مجھ پر ڈالی اور غصے سے بولیں۔

”میں نے سو بار سمجھایا تھا کہ اس لڑکی سے دوستی ختم کر دے..... یہ تجھے تباہ کر دے گی۔ پر تو نے میری ایک نہ مانی۔ دیکھ لیا..... میری چھٹی حس کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔“

اماں میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔

”اس میں علیزہ کے کیا قصور ہے..... اس نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ مینا کو چھوڑ کر مجھے پسند کریں۔“

اماں میری بات پر توجہ دیے بغیر رونے لگیں..... وہ زارو قطار رو رہی تھیں۔ آنسو کسی آبخار کی طرح ان کے گالوں پر گر رہے تھے۔ مجھے اماں کا رونا بہت تکلیف دے رہا تھا۔ جب خواب ٹوٹتے ہیں تو بندے کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ خواب تو میرے بھی ٹوٹے تھے لیکن مجھے اس وقت اپنے خوابوں کے ٹوٹنے کا دکھ نہ تھا۔ مجھے تو ماں کے خواب ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ انہوں نے تو اکبر کو اپنا داماد بھی سمجھ لیا تھا۔ اس بار تو انہیں سو فیصد یقین تھا کہ یہ رشتہ طے ہو جائے گا۔ میرا کیا تھا۔ میں تو اب اس کھیل کی عادی ہو چکی تھی۔ میں نے تھک کر سوچا اور اماں کو بہلانے لگی۔

”اماں..... نصیب سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا اگر علیزہ نہ آتی تو کوئی اور وجہ بن جاتی..... لیکن یہ رشتہ طے نہ ہوتا۔ کیوں کہ یہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔“

اماں آنسو پونچھ کر ہٹ دھری سے بولیں۔  
”تو کچھ بھی کہے..... میں تو یہی کہوں گی یہ رشتہ علیزہ کی وجہ سے نہیں ہوا..... اب بھی وقت ہے مینا..... اس لڑکی سے دوستی ختم کر دے۔“

اچھا اماں..... ختم کر دوں گی۔ پر آپ تو خود کو سنبھالیں نا..... پلیز اماں..... ساری دنیا اس اکبر



پر ختم تو نہیں ہوئی.....“

لیکن اماں کوئی جواب دیے بغیر منہ موڑ کر لیٹ گئیں اُن کی سسکیاں اب بھی جاری تھیں..... اس دوران خالدہ زینت چپکے سے اٹھ کر چلی گئی تھیں..... میں تھکے تھکے قدموں سے کچن کے باقی کام ختم کرنے کے لیے اٹھ گئی تھی۔

شام کو اماں کو تیز بخار آ گیا۔ بخار اتنا تیز کہ وہ ہڈیاں بول رہی تھیں۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے میں نے اپنے بھائی سعید کو جلدی سے محلے کے ڈاکٹر کے پیچھے دوڑایا۔ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا اور دوائیاں دیں۔ میں اماں کی پٹی سے لگی بیٹھی تھی۔ اماں کچھ دن خاصی بیمار رہیں میں نے کالج سے چند دن کی چھٹی لی اور دن رات اماں کی خدمت میں لگی رہی چوتھے دن اماں کا بخار ٹوٹ گیا لیکن وہ اتنی کمزور ہو چکی تھیں کہ چار پائی سے اٹھنا بھی ان کے لیے محال تھا..... میرے کالج کا بہت ہرج ہو رہا تھا..... اماں کمزور ضرور تھیں لیکن اب ٹھیک تھیں..... میں نے اپنی ایک شادی شدہ بہن کو اُن کی خدمت کے لیے بلا یا تھا اور خود کئی دن کی غیر حاضری کے بعد کالج چلی گئی۔

کالج میں ساری کولیگز میرے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ سب کو معلوم تھا میری غیر حاضری کا سبب اماں کی بیماری ہے۔ سو سب ان کے بارے میں پوچھنے لگیں لیکن مجھے حیرت ہوئی ان میں علیزہ نہیں تھی..... میں نے بے اختیار پوچھا۔

”علیزہ کہاں ہے؟“ کیا وہ آج کالج نہیں آئی؟“

”وہ تو خود کئی دن سے نہیں آرہی“ حنانے جواب دیا۔

”اور سنا ہے کسی اکبر نای لڑکے سے اس کی بات پکی ہو گئی ہے۔“ نمیزہ نے لقمہ دیا۔ اکبر کے

نام پر میرے دل نے ایک بیٹس کس کر دی شاید اکبر اور علیزہ کے قسمت کے ستارے ملتے تھے۔ اس لیے وہ اسے خدا نے میرے گھر بھیج دیا اور اکبر نے اسے پسند کر لیا۔ میرے دل میں علیزہ کے لیے کچھ نہیں تھا..... میں بھی ہی ایسی لڑکی..... میرے دل میں کسی کے لہیے کوئی منفی جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں ہر بات کو مثبت انداز میں لیتی تھی..... اور علیزہ کے لیے تو میرے دل میں کوئی غلط بات آ ہی نہیں سکتی تھی کہ بچپن سے لے کر اب تک ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ سکھ شیر کیے تھے۔ اب وہ میرے ساتھ کچھ کیسے رُا کر سکتی تھی۔ لیکن جب اماں کو پتا چلا تو اماں نے طوفان کھڑا کر دیا۔ علیزہ کو گوس گوس کر دہ تھک گئیں۔ مجھے بھی ساتھ رگید ڈالا۔ مجھے اس بات کی پروا نہیں تھی کہ انہوں نے مجھے برا بھلا کہہ ڈالا، پروا تھی تو اس بات کی کہ کہیں اماں کی طبیعت پھر سے خراب نہ ہو جائے۔ کچھ دن تو اماں اسی بات کے زیر اثر رہیں..... کبھی علیزہ کے خلاف بولتی کبھی مجھے طعنے تشنہ دیتی..... کبھی کھانے پینے پر غصہ نکالتی اور کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیتیں میں منت سماجت کر کے انہیں کھانا کھلاتی دودھ کا گلاس ان کے ہونٹوں سے لگا کر انہیں زبردستی پلاتی۔ آہستہ آہستہ ان کی حالت نارمل ہونے لگی۔ اس دن بڑے دنوں بعد علیزہ کالج آئی۔ میں اماں کی بیماری میں ایسی الجھی تھی کہ مجھے اس سے بات کرنے کا خیال تک نہیں آیا۔ علیزہ جیسے ہی میرے سامنے آئی۔ میں بے تاب سے اسے گلے لگاتے ہوئے بولی۔

”کیسی ہو علیزہ؟“ آج اتنے دنوں بعد ہماری

ملاقات ہو رہی ہے۔“

علیزہ میری پیچر سے اچھی طرح واقف تھی۔



اس لیے اُسے حیرت تو نہیں ہوئی لیکن وہ مجھ سے نظرس نہیں ملا پارہی تھی۔ باقی کو لیگز اس سے اس کی منگنی اور اکبر کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اصلی بات کا تو ان کو علم ہی نہ تھا۔

میں خالی پیریڈ میں کالج کے پچھلے لان میں آگئی تو میرے پیچھے پیچھے علیزہ بھی آگئی۔

”مینا..... تم مجھ سے ناراض ہونا؟“ وہ چھوٹے ہی بولی اس کے چہرے پر شرمندگی پھیلی تھی۔

”نہیں..... میں کس بات پر ناراض ہوں گی تم سے بھلا۔“ میں نے اُسے جواب دیا تو وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے رُندھی آواز میں بولی ”مجھے معاف کرو وینا۔“

”ارے میں نے آگے بڑھ کر اسے بے اختیار گلے لگایا۔“

ہم دونوں کا رشتہ کیا ایسا ہے۔ جس میں معافی تلافی کی گنجائش ہو۔ وہ بھرائی آواز میں بولی۔

”مینا..... میں اکبر سے شادی بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جانے وہ کیسے میرے گھر تک پہنچ گئے تھے۔ لیکن امی جسے میرے لیے کوئی رشتہ پسند نہیں آتا تھا..... وہ اس رشتے پر رچھ گئیں۔ بطور داماد اکبر انہیں بہت پسند آیا تھا۔“

اور پھر دوہی کا چارم..... بس میرے لاکھ ناں کر کے باجود انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔“

”دیکھو علیزہ۔“ میں نے رساں سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کہتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ تو تمہارا اور اکبر کا جوڑ بھی خدا نے آسمانوں میں بنایا تھا۔ مجھے نہ تم سے کوئی گلہ ہے نہ نا راضگی۔“ وہ میرے گلے لگ کر بے اختیار رو دی تھی۔

”مینا تم کتنی اچھی ہو۔ تمہارا اول کتنا صاف و

شفاف ہے، بالکل کسی شیشے کی طرح۔“ میں نے مسکرا کر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا..... اور تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں پہلے کی طرح ایسے باتوں میں مگن ہو گئے۔ جیسے پہلے ہوتے تھے۔ لگتا نہ تھا ہمارے درمیان کوئی انوکھا سا واقعہ ہوا ہے۔

علیزہ کی شادی ہوگئی۔ میں چاہتے ہوئے بھی شادی میں شرکت نہ کر سکی کہ ان دنوں اماں کی طبیعت پھر سے خراب ہوگئی تھی..... علیزہ کا شادی کا گفٹ میں نے اپنی کولیگ حنا کے ہاتھ اسے بھجوا دیا تھا۔ اماں کو مزید تکلیف نہ پہنچے اس خیال سے میں نے نہ تو علیزہ کی شادی کا انہیں بتایا نہ اپنے گفٹ کے بارے میں انہیں بتایا حالانکہ میں اماں سے چھوٹی سی چھوٹی بات شیر کرتی تھی۔

شادی کے فوراً بعد علیزہ دوہی چلی گئی تھی۔ کچھ عرصے ہم ایک دوسرے کو فون اور ایس ایم ایس کرتے رہے۔ پھر بعد میں میرے مختلف مسائل کی وجہ سے یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ ان دنوں گھر میں چھوٹے موٹے پرابلز چل رہے تھے..... دونوں چھوٹے بھائیوں کو توجہ دینا ضروری ہو گیا تھا..... ان کا تعلیمی ریکارڈ بھی اچھا نہیں جا رہا تھا..... میں نے انہیں اچھے اسکولوں میں ڈالا اور پھر انہیں پڑھانے کی ذمہ داری بھی اپنے سر اٹھا لی۔ اماں کی خراب صحت کی بنا کر گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھاتی تھیں۔ جا ب کا بھی بوجھ تھا..... اماں کی تیمارداری ان کا خیال رکھنا غرض میں کچھ ایسی گھن چکر بنی کہ مجھے ذرا بھی فرصت نہیں ملتی تھی کہ میں کسی سے کوئی بھی رابطہ رکھتی اور شاید علیزہ بھی اپنی نئی زندگی میں مگن ہوگئی تھی۔ اس لیے اس کی طرف سے بھی خاموشی تھی۔

کالج میں ہر خاص موقع پر فنکشن ہوتے



سے ہو گئے۔

سارا کالج دلہن کی طرح سج گیا تھا۔ پرنسپل صاحبہ کی نظروں میں میرے لیے ستائش اور منہ پر تعریفی کلمات تھے..... وقت مقررہ پر طالبات اور ان کے عزیز واقارب آنے شروع ہو گئے۔ کچھ دیر میں کالج کا ہال لوگوں سے بھر گیا..... تھوڑی دیر میں مہمان خصوصی بھی آ گئے..... حنا کا صحیح کہنا تھا ان کی عمر بھی خاصی کم تھی اور وہ لمبے تڑنگے پٹھانوں جیسے حسن کے حامل تھے..... انہوں نے سادہ سی لمبھی شلوار پہن رکھی تھی۔ پیروں میں چار سداہ زمانے کی چپل تھی۔ ہنستا مسکراتا چہرہ لیے وہ اپنے مخصوص صوفے پر بیٹھ گئے..... پرنسپل صاحبہ اور ہم تمام ٹیچر ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔ انہوں نے ایک اچھٹی نظر ہم سب پر ڈالی۔ تقریری مقابلہ شروع ہوا۔ اس مقابلے میں کالج کی کوئی ٹیچر وغیرہ حصہ نہیں لے سکتی تھی۔ لڑکیوں نے اس مقابلے میں جوش و خروش سے حصہ لیا..... ہر ایک لڑکی کی تقریر پر خوش اور مدلل تھی..... انعامات بھی مہمان خصوصی کے ہاتھوں دیے گئے۔ آخر میں انہوں نے ایک چھوٹی سی تقریر کی کہ اس طرح کی سرگرمیاں ہر تعلیمی ادارے میں ہونی چاہیے کہ غیر تعلیمی سرگرمیاں طالب علموں پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہیں۔ اس سے زندگی رواں دواں رہتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ! مہمان خصوصی اور ان کے ساتھ آئے مہمانوں کے لیے ہم نے عشائیہ کا بندوبست کر رکھا تھا..... ہاں میں یہ بتانا بھول گئی کہ جہانگیر نے ہمارے کالج کے لیے اچھا خاصا ہدیہ عنایت کیا تھا۔ جس نے ہماری پرنسپل کے چہرے پر مسکراہٹوں کے پھول سجا دیے تھے اور وہ بڑھ بڑھ کر ان کی خاطر مدارت کر رہی تھیں..... عشائیہ کے دوران ہم ٹیچرز بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ وہیں پرنسپل

رہتے تھے..... اب کہ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر پرنسپل صاحبہ نے ایک گریڈ فنکشن ترتیب دیا تھا۔ جس میں ”محبت ہے زندگی“ کے عنوان پر ایک تقریری مقابلہ تھا۔ جس میں جہانگیر خان نامی شہر کے ایک نامی گرامی شخصیت کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا تھا۔ حنا کو اس سلسلے میں ہمیشہ ہر قسم کی معلومات رہتی تھیں..... وہ اپنے مخصوص لہجے میں میں میرے کان میں گھسی دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ”جہانگیر خان علاقے کی دبنگ شخصیت ہیں“ جس ادارے میں مہمان خصوصی بن کر جاتے ہیں۔ وہاں بڑے بڑے رقوم دینے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تب ہی تو ہماری پرنسپل صاحبہ نے اس بار انہیں مدعو کیا ہے۔“ وہ مسکرا مسکرا کر بتا رہی تھی۔ ہم تمام ٹیچر ان نظامات میں مصروف تھیں..... میں اس کی بات کچھ سن رہی تھی کچھ نہیں سن رہی تھی..... وہ بتا رہی تھی۔

”موصوف ایکشن بھی جیت چکے ہیں..... ان کے وزیر بننے کے بہت چانسز ہیں..... سب لوگ حیران ہیں کہ اس چھوٹی اتج میں انہوں نے اتنی ترقیاں کر لیں۔“

بابا..... یہ کرسیاں یہاں رکھ دو۔“ میں نے اس کی بات سنی ان سنی کرتے ہوئے چوکیدار بابا سے کہا۔ حنا بہت باتونی تھی..... ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتی رہتی تھی اور کام سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ لیکن میں تو کام کے بارے میں بہت پھریشلی تھی اور جہاں ذمہ داری مجھ پر آن پڑتی تو میں وہاں جان مارا کرتی تھی۔ پرنسپل صاحبہ نے میری اس کوالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے آج کے تمام انتظامات کا انچارج بنایا تھا اور میری ساری توجہ اپنے کام پر تھی۔

میری زیر نگرانی تمام انتظامات احسن طریقے



صاحبہ نے ہمارا بھی ان سے تعارف کروایا۔ میری باری آئی تو پرنسپل صاحبہ نے کہا۔ ”یہ مینا ہے۔“ میرے کالج کی سب سے محنتی لڑکی آج کے فنکشن کی ساری تیاری اس نے کی ہے۔

شوخی نظریں مجھ پر ڈالتے ہوئے بولے۔  
آپ ہیں مینا ہیں..... تو اتنی خاموش کیوں ہیں..... مینا تو ہر دم چہکتی ہے۔

میں مسکرائی لیکن خاموش رہی..... چائے کے دوران میں چائے کا کپ لے کر ایک کونے میں کھڑی تھی۔ سارے لوگ گروپ بنا کر خوش گپیوں میں مصروف تھے..... وہ جانے کہاں سے میرے قریب آگئے۔

آپ یہاں اکیلی کھڑی ہیں..... اور..... آپ نے اتنا کچھ ہمارے لیے رکھا ہے۔ خود کچھ بھی نہیں لے رہیں۔ چائے کا خالی کپ لیے کھڑی ہیں۔“

ہیں گھبرا گئی..... وہ سیدھے میری آنکھوں

میں دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھیں جیسے ستارے چمک رہے ہوں..... خدا نے میری مشکل آسان کی..... اور ہماری ایک لیکچرار مس نجمہ چکن روسٹ کی ڈش اٹھا کر ان کی طرف آئی اور ان سے استدعا کرنے لگیں کہ وہ اس میں سے کچھ لے لیں۔ ان کی توجہ مجھ سے ہٹ کر ان کی طرف ہو گئی۔ میں اپنی کولیگز کی طرف بڑھ گئی۔ لیکن میں نے اسٹیج پر بھی محسوس کیا تھا کہ جہانگیر خان کی نظریں مجھ پر جمی ہیں..... سارے فنکشن میں جہاں جہاں بھی جاتی ان کی نظریں میرا طواف کرتی رہتیں..... میں اندر ہی اندر خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ خدا ان بڑے لوگوں سے بچائے ان کی نظروں میں آنا سراسر گھائے کا سودا ہوتا ہے کہ عورت تو ان کے نزدیک نشوونما پر جتنی حیثیت رکھتی ہے کہ برت کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ میں اندر ہی اندر کانپ رہی تھی..... پھر بھی مجھے اس سوچ پر طمانیت ہوئی کہ میں نہ خوبصورت ہوں اور نہ ہی

## متعدد و شیزہ رائٹرز ایوارڈ یافتہ لکھاری

ذردانہ نوشین خان کی پانچویں کتاب

”ریگ ماہی“ افسانوی مجموعہ چھپ کر آ گیا ہے۔

’ریگ ماہی‘ 29 افسانوں کی چمکتی دکتی مالا جس کا ہر موتی


چشم حیرت کشا ہے۔ آپ کی تنہا مجذوب راتوں، خاموش

دوپہروں اور ذوق مطالعہ کی بہترین دوست ہے۔

سوچ کا درکھولنے والی کتاب ”ریگ ماہی“

کتاب ملنے کا پتہ: الحمد پبلی کیشنز۔ لاہور

فون: 04237231490/37310944





امیر گھرانے سے میرا تعلق ہے..... مجھ میں خوبی ہی کیا ہے بس شاید وہ یوں ہی نظر باز سے بندے ہوں گے۔ میں نے خود کو مطمئن کیا اور باقی کے کاموں میں لگ گئی۔

فنکشن کو کافی دن بیت گئے تھے۔ کافی دنوں تک اس فنکشن کی بازو گشت کالج کے دوریوار سے سنائی دیتی رہی تھی۔ بعد میں یہ موضوع پرانا ہو گیا۔

جہانگیر خان کی نظریں یاد کر کے میں چند دن اب سیٹ رہی بعد میں خود ہی اپنی سوچ پر شرمندہ ہو گئی اور اپنے مسائل میں ایسی ڈوب کر رہ گئی کہ ہر بات بھول گئی۔ اماں کی بیماری طویل ہوتی جا رہی تھی صبح

مجھے اٹھ کر گھر کا کام بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ بھائیوں کی تیاری ان کو ناشتا وغیرہ کرانا بھی میری ذمہ داری تھی۔

اماں کو ناشتا کرانا اور ان کے لیے پرہیزی کھانا بنانا بھی میری ذمہ داری تھی۔ سو جلدی جلدی کرتے ہوئے مجھے کالج جانے میں دیر ہو جاتی۔ یہ تیسرا دن

تھا جب میں کالج کے لیے مسلسل لیٹ ہو رہی تھی۔ اس دن بھی میں خاصی لیٹ ہو گئی تھی۔ میرے

جاننے ہی حالہ نے مجھے پیغام دیا کہ پرسپل صاحبہ نے تمہیں فوراً بلا یا ہے! میرے بسنے چھوٹنے لگے۔

پرسپل صاحبہ اگر اچھے کام پر سرائتی تھیں تو غلطیوں پر بندے کو لتاڑ بھی دیتی تھیں۔ میں نے ابھی تک

انہیں یہ موقع نہیں دیا تھا کہ لیکن شاید اب یہ موقع ان کے ہاتھ آیا تھا۔ میں جل تو جلال تو کاورد کرتی ان کے آفس کی طرف جانے لگی۔ لیکن جب میں

بھاری پر وہ اٹھا کر ان کے آفس میں گھسی تو ان کو بڑے اچھے موڈ میں پایا.....

آؤ..... مینا..... وہاں دروازے میں کیوں کھڑی ہو۔  
”وہ دراصل میم آج میں پھر لیٹ ہو گئی.....  
سوری میم..... وہ دراصل میری والدہ بیمار رہنے لگی

ہیں تو.....“ اپنے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے میں رُک رُک کر بولی۔

ارے..... تو تم سے وضاحت کس نے مانگی ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم لیٹ آ رہی ہو۔“ میں نا سنجھی سے کچھ بولے بنا

ان کی طرف دیکھنے لگی۔  
”ارے نہیں مینا..... بات یہ نہیں..... بات تو دوسری ہے۔“

بالکل انوکھی اور نئی بات۔“  
میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ان کا چہرہ

دبے دبے جوش سے تھمرا رہا تھا..... پرسپل صاحبہ ہمیشہ ہم تمام ٹیچرز سے ایک فاصلے پر رہ کر بات

کرتیں تھیں..... میں نے انہیں اتنا فریبنکلی بات کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر ان کا انداز..... مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔

”تم بیٹھو مینا..... وہ اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولیں۔“

”میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس بات کا سرا کہاں سے شروع کروں..... میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔“

یا اللہ خیر! اب تو میں سچ سچ گھبرا گئی۔ اب ایسی بھی کیا بات تھی کہ میڈم کہہ نہیں پا رہی تھیں۔ کیا

میرے متعلق کسی نے انہیں کچھ غلط بتایا ہے۔ مجھے قسم قسم کے وہم گھیرنے لگے۔ لیکن جب میڈم نے مجھے وہ بات بتائی تو میرے چودہ طبق روشن ہو گئے۔ میرے تو حواس ساتھ چھوڑنے لگے۔ اتنی

بڑی بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی مجھے ان کی کہی بات کا یقین آ رہا تھا..... میڈم مجھے دھیسے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بتا رہی تھیں۔  
”رات کو مجھے اچانک جہانگیر خان کا فون آیا..... وہ مجھ سے تمہارے متعلق پوچھ رہے تھے۔“



”مم..... میرے متعلق؟“ میں ہکلا کر بولی۔  
 ”ہاں وہ تمہارے گھر کے بارے میں پوچھ رہے تھے..... وہ تمہارے گھر آ کر تمہیں پر پوز کرنا چاہتے ہیں۔“

”میڈم کی بات پر میں بری طرح حواس باختہ ہو گئی۔ کتنی دیر تک تو مجھ سے بولا ہی نہیں گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو بولنے پر آمادہ کیا اور رُک رُک کر..... پریشان ہو کر کہنے لگی۔

”میم..... آپ نے بتایا نہیں کہ میں ڈل کلاس بھی نہیں لوڑ کلاس ہوں..... اور میرے اتنے مسئلے مسائل ہیں..... اور پھر میں شکل و صورت میں بھی ان کے پاسنگ نہیں..... غرض ہر لحاظ سے یہ ایک بے جوڑ رشتہ ہے۔ آپ کو انہیں سمجھانا چاہیے تھا نا میم۔“

”سمجھایا بھی..... اچھی طرح سمجھایا..... میں نے تمہارے بارے میں ساری حقیقت انہیں کھل کر بتا دی..... لیکن جو سچ تھا وہ بھی بتا دیا کہ تم بے حد ایمان دار..... سچی اور اسٹرائنگ لڑکی ہو۔ والد کی وفات کے بعد جیسے تم نے سارے گھر کو سنبھالا..... بیمار والدہ کی خدمت کی اور ساتھ جاب کی ساری ذمہ داریاں نبھائیں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور شکل و صورت کے بارے میں بھی کیا تبصرہ کرتی مینا..... اس لیے کہ وہ تمہیں دیکھ کر پسند کر چکے ہیں۔ اور تم اپنے بارے میں جانے کیوں احساس کمتری میں مبتلا ہو..... جب کہ تم جیسی نمکین حسن رکھنے والی لڑکی تو پورے کالج میں بھی کوئی اور نہیں..... ہر بندہ تمہیں ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی خواہش ضرور کرتا ہے۔“

پریسل صاحبہ بہت جوش و خروش سے بات کر رہی تھیں..... وہ فطرتاً اچھی عورت تھی اور مجھے تو بہت پسند کرتی تھی..... لیکن میں عجیب شش و پنج

میں تھی..... جہاں گنیر خان جیسے مرد کا ساتھ تو یقیناً ہر عورت کا خواب ہوتا ہے لیکن میں خود کیا تھی۔ بالکل اسی طرح اپنے بارے میں سوچتے ہوئے میری سوچوں کو بریک لگ گئی..... اتنے بڑے گھرانے میں فنٹ ہو سکوں گی۔ پریسل صاحبہ بڑے غور سے میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہی تھیں۔ مجھے الجھا الجھا اور خاموش دیکھ کر بولیں۔

”مینا..... قسمت بار بار دروازے پر دستک نہیں دیتی دیکھو..... اپنے کان بند مت کرو..... اور پہلی دستک پر اپنے دل کا دروازہ اس انتہائی نائس بندے کے لیے کھول دو..... ورنہ پچھتاؤ گی اور بری طرح پچھتاؤ گی۔ اور سنو۔“ جب میں ان کے آفس سے نکلنے لگی تو انہوں نے مجھے پکارتے ہوئے کہا۔

”اس بارے میں ابھی کسی سے کچھ مت کہنا..... تم بھی اپنی زبان بند رکھو میں بھی اپنی زبان بند رکھوں گی کیوں کہ دوست دشمن کا پتا نہیں چلتا..... معلوم ہی نہیں ہوتا۔“

احسان مندی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میڈم اس وقت مجھے اپنی ایک مخلص بڑی بہن جیسی لگ رہی تھیں۔ باہر نکلتے وقت میں نے جھک کر کہا۔

”میم کیا میں اس وقت گھر جا سکتی ہوں۔ وہ میری ذہنی حالت کچھ آپ سیٹ سی ہے..... تو.....“  
 ”آف کورس۔“ میڈم جلدی سے بولیں میں خود تمہیں کہنے والی تھی کہ تم گھر چلی جاؤ..... لیکن سنو وہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں میں چھپاتے ہوئے بولیں۔

شام کو اچھے سے تیار رہنا..... مہمانوں کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ کر کہنا..... اب جاؤ..... بیٹ آف لگ! میں کھ شرماسی گئی..... پھر انہیں سلام کرتے ہوئے میں ان کے آفس سے نکل آئی۔

اماں کو جب میں نے تفصیل بتائی تو پہلے انہیں



کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب یقین آیا تو ان کی شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی..... ان کی ساری بیماریاں جیسے پھر کر کے اڑ گئیں۔ وہ جلدی سے کچن میں آ گئیں۔ اور بھائی کو چیزوں کی ایک لمبی سی لسٹ پکڑادی..... مجھے تو اماں پر حیرت ہو رہی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا وہ کبھی بیمار تھیں۔ وہ تو سارے کام ایسے پھرتی سے کر رہی تھیں۔ جیسے ان کے ہاتھوں میں جادو کی چھڑی آ گئی ہو۔ مجھے تو وہ کچھ کرنے نہیں دے رہی تھی۔

”تم کمرہ صاف کرو اور پھر اپنے کپڑے استری کر لو۔ نہادھو لو تیار ہو جاؤ..... بس آج تمہارا یہی کام ہے۔“

میں نے میرون رنگ کا سوٹ پہن لیا۔ جس پر ہلکی سی کڑھائی کی گئی تھی..... میں نے اماں کے لاکھ کہنے کے باوجود ہلکا سا میک اپ کیا جو نہ ہونے کے برابر تھا۔ وقت مقررہ پر وہ لوگ آ گئے۔ ایک غامبی کار میں جہانگیر کے ساتھ ان کی بڑی بہن تھیں..... بھرے بھرے جسم کی ایک سو بری خاتون جنہوں نے ایک بڑی شال سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں دھک دھک کرتا دل لیے کچن میں تھی۔ جب کہ ماں نے انہیں ہاتھوں میں لیا اور بڑی عزت سے انہیں کمرے میں بٹھا دیا..... قدرے شرمندگی سے اماں انہیں کہہ رہی تھیں کہ ان کے چھوٹے سے گھر میں ان کے شایان شان ایسی جگہ نہیں جہاں ان کو بٹھایا جاسکے۔ مجھے کچن میں ان کی باتیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ جواب میں وہ خاتون بڑی نرمی سے کہہ رہی تھیں۔

”خالہ جان اگر بندہ کچھ خریدنے دکان میں جاتا ہے تو دکان پسند نہیں کرتا..... وہ چیز خرید کر آتا ہے اور ہم خدا نخواستہ کوئی چیز خریدنے نہیں آئے، بلکہ بڑی محبت سے اور عزت سے آپ کی بیٹی کو

اپنانے آئے ہیں۔“  
اماں پر جوش انداز میں کہہ رہی تھیں۔  
”میری بیٹی میں بہت گن ہیں..... اسے اپنا کر آپ کو کبھی ملال نہیں ہوگا..... وہ آپ کی تمام امیدوں پر پورا اترے گی۔“  
اس خاتون کی بے قرار آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔

اللہ..... خالہ جان..... بلائیے نا اُسے..... میں تو اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہی ہوں۔  
اماں نے کچن کی طرف منہ کر کے مجھے آواز دی۔

مینا پہلے آ کر مہمانوں سے مل لو..... چائے بعد میں لے آنا۔ میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں..... دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ دھڑک دھڑک کے بے حال نہ ہو جائے لیکن جائے بنا بھی چارہ نہ تھا۔ دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے میں کمرے میں چلی آئی۔ بالکل سامنے جہانگیر خان اپنی چمکتی آنکھوں میں شوق کی دنیا بسائے مجھے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج بھی پٹھانوں جیسی شلواری میض اور ساتھ میچنگ واسکٹ پہنی تھی..... اور سادہ سے ڈریس میں وہ بلا کا جازب نظر لگ رہا تھا..... ان کی بہن لپک کر انھیں اور مجھے گلے لگا کر میرے کئی بو سے کیے پھر انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا۔

ماشاء اللہ..... ماشاء اللہ..... مجھے توقع تھی جہانگیر کی پسند خاص ہی ہوگی۔ شرم نے میرے ہونٹوں پر قفل لگا رکھا تھا۔ اور میں خود میں بات کرنے کی بالکل بھی ہمت نہیں کر پارہی تھی وہ خاتون ہی مجھ سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولیں۔

میں جہانگیر کی بڑی بہن ہوں..... یہ مجھے آپا



کہتا ہے تم بھی آپا کہنا۔ میں دوہی میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ یہ تو میں خاص اس کا رشتہ کرانے اس کی درخواست پر آئی ہوں..... اس سے پہلے میں کئی بار اس مقصد کے لیے آئی کہ اس کا گھر بسا سکوں لیکن اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ یہ کہتا تھا جب بھی کوئی لڑکی میرے دل کو بھاگتی تو میں فوراً آپ سے کہہ دوں گا۔

مارے شرم کے میرا سر گھٹنوں کو چھونے لگا تھا..... میں اچھی خاصی میچور لڑکی تھی لیکن آج تو سمجھو سترہ اٹھارہ سال کی لڑکی بن گئی تھی۔ شرم کے مارے نظریں نہیں اٹھایا رہی تھی۔

”چلو مینا اب جا کر چائے لے آؤ۔“ شاید اماں میری حالت سمجھ گئیں تھیں۔ سوانہوں نے مجھے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ چائے کے دوران اماں اور ان کے بیچ سارے معاملات طے پا گئے چائے۔ انہوں نے بڑے اچھے ماحول میں پی..... اور خوشی خوشی رخصت ہوئے۔

میری شادی بہت جلدی اور بے حد سادگی سے ہوئی تھی۔ میں میری بہنیں اپنی آل ادلاد کے ساتھ آئی تھیں اور میں نے بھی اپنی کالج کی کولیگز کو بلایا تھا اور پرنسپل صاحبہ بھی آئی تھیں میری قسمت کے اس دن بدلتے موڑ پر سب حیران لیکن بہت خوش تھے۔ جہانگیر خان کے ساتھ اس کی بہن بہنوئی اور ان کے بچے اور قریبی دوست آئے تھے۔ اماں کو جہانگیر نے بڑی سختی سے جہیز وغیرہ کے لیے منع کیا تھا۔ لیکن اماں نے کھانے کا بڑا زبردست انتظام کیا تھا..... میں جیسے خواب میں چلتے ہوئے جہانگیر کے سنگ رخصت ہو گئی۔ مجھے تو خود اس بدلاؤ کا یقین نہیں آ رہا تھا۔

جہانگیر کی کوشی کو کوشی نہیں کہا جاسکتا تھا..... وہ تو بہت بڑا محل تھا..... قدم قدم پر ملازموں کی فوج

تھی..... ایک ایک کام کے لیے کئی نوکرتھے..... لمبے چوڑے پورچ میں قیمتی گاڑیاں کھڑی تھیں اور جس بیڈروم میں مجھے لے جایا گیا۔ وہاں تو مجھ پر سچ سچ سحر طاری ہونے لگا..... جہازی سائز کا بہت خوبصورت ڈبل بیڈ..... ایسے قالین جن پر پیردھنس جاتے تھے اور اوپر سے کمرے کی آرائش و زیبائش..... مجھے خدا نے تو اتنا نوازا ہے..... میرے

صبر کا خدا نے اتنا زبردست انعام دیا ہے۔ مارے شکر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میرا دل چاہ رہا تھا۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے رب کے آگے سجدے میں گر جاؤں اور آنسوؤں کے دریا بہا دوں لیکن نی الحال کمرہ جہانگیر خان کی رشتہ دار خواتین سے بھرا ہوا تھا اور ایسا ممکن نہ تھا۔ میں اپنے خیالوں میں اماں کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی۔

”اماں تم خواہ مخواہ میرے لیے فکر مند ہو رہی تھی، دیکھو تو..... خدا نے میرے لیے کتنا بڑا انعام رکھا تھا۔ اس لیے تو اکبر سے میری شادی نہیں ہو سکی تھی۔ پھر میں دل ہی دل میں خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی، اللہ تو نے بہت نوازا ہے..... بس اب ایک احسان کر دینا کہ مجھے ایک اچھے انسان کا ساتھ دے دینا۔ جہانگیر خان کو میرے لیے ایک بہترین شوہر ثابت کر دینا۔ جب مجھے تنہائی نصیب ہوئی تو میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی اور ابھی میں شکرانے کے نفل پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ جہانگیر خان کمرے میں داخل ہوئے صد شکر کہ میں فارغ ہو کر بیڈ پر دلہن کے انداز میں بیٹھی تھی..... انہوں نے کھانس کر اپنے آنے کا عندیہ دیا۔ پھر میرے قریب بیٹھ کر دھیرے سے ایک خوبصورت انگوشھی میری انگلی میں ڈالتے ہوئے بولے۔

مینا..... تمہیں منہ دکھائی کا تحفہ دینا ضروری تھا ورنہ جب میں اس مقصد کے لیے بازار گیا تو مجھے



نے مجھ سے یہ بات کی تھی تو میں نے خاص مخالفت کی تھی۔ اگرچہ مجھے اماں کی بہت زیادہ فکر رہنے لگی تھی لیکن میری غیرت کو یہ گوارہ نہ تھا کہ اماں نے اپنی ساری زندگی خودداری سے گزاری ہے اور اب وہ بیٹی کی دست نگر بن کر رہیں گی اور اماں نے تو صفا چٹ منع کر دیا وہ زندگی ہوئی آواز میں بولیں۔

ابھی اتنا بھی برا وقت نہیں آیا مینا کہ میں بیٹی داماد کے زیر سایہ زندگی گزاروں۔

میں تو خود ہی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ سو خاموش ہو گئی۔ لیکن اس دن جب اُن سے فون پر روٹین کے مطابق باتیں کر رہی تھی تو اُن کی ہائے دائے نے مجھے چونکا دیا۔

کیا ہوا ماں خیریت تو ہے ناں؟ میں تشویش سے بولی۔

ہاں..... بس آج ہاتھ روم میں پاؤں پھسل گیا تھا تو اس کی وجہ سے سارا وجود درد کر رہا ہے۔

میری تو جان نکل گئی..... میں اور جہانگیر اسی وقت اماں کو دیکھنے چلے گئے اس بار جہانگیر نے انہیں سنجیدگی سے کہا۔ ”اماں..... میں آپ کو اپنے گھر نہیں لے جا رہا۔ الگ گھر میں رہیں گی آپ، آپ کا کھانا پینا الگ ہوگا..... اور اگر آپ میرے گھر میں مفت رہنا نہیں چاہتیں تو میں آپ کا یہ گھر کرایہ پردے کر اس کا کرایہ وصول کروں گا۔ لیکن آپ ہمارے قریب رہیں گی۔ مینا ہرزور آپ سے مل سکے۔ اور اماں وہ محبت سے اماں کا جھریوں بھرا ہاتھ تھام کر بولے۔

مینا آپ کی بیٹی ہے تو کیا آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتیں میں نے تو آپ کو دیکھتے ہی اپنی ماں کے عہدے پر فائز کر دیا تھا میری ماں زندہ نہیں میں آپ ہی کو ماں سمجھنے لگا ہوں لیکن لگتا ہے آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتیں اس لیے تو اتنی غیرت برت رہی ہیں۔

تمہارے شایان شان کچھ نظر نہ آسکا۔  
میرا دل بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔  
میں نے اندر ہی اندر دل کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔

توچ کر میں اپنے مجازی خدا کی بات تو سن سکوں۔ وہ میرا گھونگھٹ اٹھا کر بڑے شوق اور وارفتگی سے دیکھے جا رہے تھے۔ پھر وہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں میرے دونوں ہاتھ تھام کر دباتے ہوئے بولے۔

مینا..... تم یقین جانو..... میں لاکھوں لڑکیوں سے ملا اندرون ملک بیرون ملک لیکن یقین کرو کسی نے مجھے متاثر نہیں کیا..... لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میری تلاش کا خاتمہ ہو گیا ہو۔ مجھے تم جیسی گھریلو لڑکی کی تلاش تھی۔ جو ذمہ دارانہ روش رکھتی ہو گڈ لکنگ ہو جو بیوی بنے تو سارا گھر اس سے آراستہ ہو جائے۔ اس لیے تمہیں دیکھ کر میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ بیوی بنو گی تو تم بنو گی۔ ورنہ کوئی اور نہیں بنے گی۔

وہ اپنے جذبوں کی کہانی سنا رہے تھے۔ اور میں ہواؤں میں اُڑ رہی تھی..... دل کی دھڑکنیں کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی تھیں اور رات کیسے گزری پتا ہی نہیں چلا۔ جہانگیر خان کیسے انسان ہیں اس کا علم تو مجھے شادی کی پہلی رات ہو گیا تھا۔ لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا ان کی ڈھیر ساری خوبیاں مجھ پر آشکار ہوتی جا رہی تھیں۔ دن عید کیسے ہوتی ہے اور شب رات کیونکر ہوتی ہے اس کا علم مجھے اب ہوا تھا۔ کیوں کہ میرا ہر دن عید اور شب برات تھی..... یہ مقولہ صرف محادرے تک محدود نہیں رہا تھا۔ جہانگیر خان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے محل کے ساتھ جو چھوٹا سا بنگلا تھا۔ ان کا..... اور جو خالی پڑا تھا..... اُسے صاف ستھرا کر کے اس میں فرنیچر وغیرہ ڈلوایا اور اماں کو یہاں شفٹ کر دیا۔ جب جہانگیر



”نن..... نن..... نہیں بیٹا اماں سٹ پٹا کر بولیں تو میرا بیٹا ہے داماد کیا بیٹوں سے کم ہوتا ہے اور پھر تم جیسا داماد تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔“

”بس تو فیصلہ ہو گیا..... مینا..... اماں کا سامان باندھ دو ہم ابھی شفٹ کرائیں گے۔“

اور اماں کے ناں ناں کرنے کو جہانگیر نے کوئی اہمیت نہیں دی اور فون کر کے نوکروں کو فوراً پہنچنے کو کہا..... شام تک اماں ہمارے ساتھ والے گھر میں شفٹ ہو گئیں تھیں۔

گزرتے وقت نے ثابت کر دیا کہ جہانگیر خان کا یہ فیصلہ کتنا صحیح تھا۔ مجھے اماں کی اتنی فکر تھی کہ میری خوشیاں ماند ہو گئیں تھیں لیکن جو وہ قریب آئیں تو ہر روز میں وقت بے وقت جا کر ان سے مل لیتی۔ اماں بھی ہفتے میں ایک دو بار مجھے دیکھنے آ جاتیں اور میرے ٹھاٹ بھاٹ دیکھ کر خوشی سے واپس چلی جاتیں۔ جہانگیر نے اماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازمہ رکھی تھی۔ گیٹ پر باہر چوکیدار ہوتا تھا جو باہر ڈیوٹی کرتا تھا۔ اماں حسب معمول کچن کا کام خود کرتیں جب کہ باقی سارے کام کی ذمہ داری ملازمہ کی تھی۔ بھائیوں کو اسکول جانے کے لیے جہانگیر نے دین لگوا دی تھی۔ وہ اُن کی پڑھائی کے بارے میں اُن سے پوچھ گچھ کرتا اور ایک بڑے بھائی کی طرح روک ٹوک کرتا۔ غرض میری زندگی کہ تمام مسائل انہوں نے ختم کر دیے تھے۔ میں ان کے احسانوں کا بوجھ تو مر کر بھی نہیں اتار سکتی تھی۔ لیکن اپنے فرائض سے میں نے کبھی بھی کوتاہی نہیں کی..... میں نے ان کا کوئی کام نوکروں سے نہیں کروایا..... ان کے کپڑے استری کرتا..... ہر روز ان کے لیے لباس منتخب کرنا ان کے لیے اُن کی پسندیدہ ڈش پکانا..... یہ سب میں کرتی..... وہ لاکھ ناراض ہوتے وہ بار بار کہتے یہ

سب نوکروں کے کام ہیں۔ تم میرے دل کی ملکہ ہو اور اس گھر کی بھی..... بس ملکہ بن کر رہو..... نوکروں پر حکم چلایا کرو..... شاپنگ کیا کرو..... گھوما پھرا کرو..... مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم میرے پاؤں سے چپل اتارتی ہو لیکن مجھے اچھا لگتا تھا اُن کا ہر کام کر کے دلی تسکین ملتی ہے۔ خدا نے جہانگیر خان کی صورت میں مجھے انمول تحفہ عنایت کیا تھا۔

کوئی چیریٹی شو تھا جہاں جہانگیر خان کو مہمان خصوصی کے طور پر انوائٹ کیا گیا تھا۔ جہانگیر خان مجھے ساتھ لے جانے پر بھند تھے مجھے جانے سے انکار تو نہ تھا لیکن ان دنوں میری طبیعت کچھ خراب چل رہی تھی۔ اللہ پاک کی ذات نے میری خوشیوں کو مکمل کرنے کا سامان کر دیا تھا۔ میرے پیروں کے نیچے جنت سخنے والی تھی۔ میں ماں بننے کے پراسس سے گزر رہی تھی۔ جہانگیر خان میرا بہت خیال رکھنے لگے تھے۔ کسی قیمتی کھلونے کی طرح وہ میرا دھیان رکھتے۔ اب بھی میں اگر اپنی طبیعت کی خرابی کا بتاتی تو وہ مجھے جانے پر مجبور نہ کرتے۔ لیکن ان کا جوش و خروش دیکھ کر میں نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ویسے بھی جب سے ہماری شادی ہوئی تھی۔ وہ بہت کم ہی کہیں اکیلے جاتے تھے۔ ہر جگہ مجھے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود میں اچھی طرح تیار ہوتی..... وہ مجھے اس طرح تیار دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مجھے ستائشی نظروں سے سرتاپہ دیکھتے ہوئے بولے۔

واہ بیگم واہ.....! تم تو آج قیامت ڈھا رہی ہو۔ پیاری تو تم پہلے سے ہی تھی لیکن آج تو تم پر نظر نہیں ٹھہر رہی ہے۔ کہیں تمہاری اس خوبصورتی میں ہمارے صاحبزادے یا صاحبزادی کا ہاتھ تو نہیں۔

آخر میں اُن کا لہجہ شرارتی ہو گیا..... میں بلش کر رہ گئی۔ حیا سے میری نظریں جھک گئیں۔ وہ محبت



سے میری کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولے۔

آپ کا تو مجھے علم نہیں لیکن ہمارے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ عورت جب ماں بنتی ہے تو اس پر دو ہر روپ آتا ہے۔ میں نے جلدی سے اُن کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔

آپ دیر کر رہے ہیں جہانگیر..... وہاں آپ کا انتظار ہو رہا ہوگا۔

اچھا..... چلو..... وہ میرے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے ہنستے ہوئے بولے۔

پورچ میں کھڑی پیچیر و میں ڈرائیور الٹ بیٹھا تھا..... ہمیں دیکھتے ہی وہ لپک کر اتر اور ہمارے لیے گاڑی کا دروازہ کھول کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ اور جب تک ہم نہیں بیٹھے وہ نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ جب ہم بیٹھ گئے تو وہ پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اس نے گاڑی اشارت کر دی۔

فنکشن خاصے بڑے پیمانے پر تھا..... یہ ایک گرینڈ فنکشن تھا۔ ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور ہمارے لیے جو خاص سیٹیں مخصوص تھیں۔ اُن پر ہمیں عزت سے بٹھا دیا گیا۔ جانے کیوں مجھے اپنے کالج کا وہ فنکشن یاد آ گیا۔ جس میں جہانگیر خان مہمان خصوصی تھے اور میں اُن کی خدمت پر مامور ایک عام سی نیچر..... اس وقت میرے ذہن میں بھی نہ تھا۔ مجھے ایک دن جہانگیر خان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ میں اُن کی نصف بہتر بنوں گی۔ اور لوگ مجھے بھی اتنی ہی عزت دیں گے۔

میں ایک ذرہ تھی جسے میرے رب نے آفتاب بنا دیا تھا۔ فنکشن میں بے انتہاء لوگ تھے۔ ہر طبقہ فکر کے لوگ تھے مرد حضرات اور خواتین کی بھی بڑی تعداد تھی۔ کندھے سے کندھا چھل رہا تھا۔ اپنے مقررہ وقت سے کچھ دیر بعد فنکشن شروع ہوا۔ یہ اپناج بچوں کے لیے فنکشن تھا۔ پہلے اس ادارے

کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی گئی۔ بچوں کے حوالے سے بنائی گئی ان کی تصاویر دکھائی گئیں۔ غرض انہوں نے جو بھی کام کیے تھے۔ ان بچوں کو اسٹیج پر بلا کر اُن کا تعارف کروایا گیا۔ اور آخر میں اُن کو انعام دینے کے لیے جہانگیر خان کو بلا یا گیا۔ جہانگیر نے ایک پُراثر تقریر کی، جس میں معاشرے کے ہر فرد پر زور دیا کہ وہ ان خاص بچوں کے لیے جو بھی کر سکتا ہے وہ ضرور کرے..... کیونکہ ان کا ہم پر اتنا حق ہے جتنا ہم پر اپنے بچوں کا حق ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے ان خاص بچوں کے لیے ایک خطیر رقم دینے کا اعلان کیا۔ عشاءِ یہ میں وہ میرے ساتھ کھڑے تھے۔ بعد میں اُن کو اُن کے کسی دوست نے آواز دی تو وہ اس کی طرف چلے گئے۔ میں پلیٹ ہاتھ میں لیے وہاں کی نگران عملے کے ساتھ کھڑی تھی جو بار بار مجھے کچھ لینے پر زور دے رہی تھیں کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے گلے میں بانہیں حائل کرتے ہوئے مجھے زور سے بھینچا میں اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی..... میں نے گھبرا کر اپنے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور اسے دیکھ کر تو میں دم بخود رہ گئی۔ وہ علیزہ تھی علیزہ..... تم؟

سرت سے میری آواز رندھ گئی..... ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے ملیں تو جدا ہونا یاد نہ رہا۔ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہم بھری محفل میں ملے ہیں۔ ہم دونوں بے قراری سے ایک دوسرے سے احوال پوچھنے لگیں۔

”بے وفاداری سے آئی ہو اور مجھے ملنے تک نہیں آئی۔ شکوہ میرے لبوں پر چل گیا تو وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔

ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں دوہی سے آئے ہوئے ملنے کو بہت دل کر رہا تھا۔ اس لیے کالج چلی آئی..... وہاں تمہاری شادی کے بارے میں معلوم ہوا



کہ بہت بڑے آدمی سے تمہاری شادی ہوئی ہے۔ خوشی تو بہت ہوئی کہ تم اسی قابل تھی کہ جہانگیر خان جیسا شاندار مرد تمہارا نصیب بنتا ہے لیکن تمہارے سرال آنے کی ہمت اپنے اندر نہ لاسکی کیونکہ۔“

وہ چپ ہو گئی اور پھر بولی لیکن تم بہت یاد آ رہی تھی..... اور جب یہ معلوم ہوا کہ اس فنکشن کے مہمان خصوصی جہانگیر خان ہیں۔ تو اس امید پر چلی آئی کہ شاید تم بھی آ جاؤ..... اور دیکھو..... میرے جذبے سچے تھے اس لیے تم سے ملاقات ہو گئی۔

علیزہ پہلے سے کمزور لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ روپ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ ہنس رہی تھی۔ لیکن اس کی آنکھیں اس کی ہنسی کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جانے کیوں وہ مجھے بھئی بھئی اور اس لگی کافی دیر سے میں اپنے چہرے پر کسی کی آنکھیں محسوس کر رہی تھی۔ اور ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ تنگ آ کر میں نے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ اکبر تھا۔

علیزہ کا شوہر..... وہ بڑی حسرت سے ایک کونے میں کھڑا مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ ایک لمحے میں، میں نے سمجھ لیا وہ خود کو لعنت ملامت کر رہا ہے کہ اس نے مجھے ریجیکٹ کیوں کیا تھا۔ خیر ان باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں دل کی اتنی صاف تھی کہ میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اسے یہ احساس ہو کہ مجھے کھو کر اس نے بُرا کیا۔ کیوں کہ علیزہ اس کی بیوی تھی اور اسے علیزہ کے لیے اچھا سوچنا چاہیے تھا۔ نہ کہ کسی اور کو حسرت بھری نظروں سے دیکھنا..... مجھے ذرا اچھا نہیں لگا میں اس کی طرف سے پیٹھ موڑ کر علیزہ سے باتیں کرنے لگی۔ علیزہ مجھے چپکے چپکے بتا رہی تھی۔

میں..... اس شخص سے شادی کر کے میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں گزارا..... یہ شخص حد سے زیادہ شکی ہے اتنا کہ اس نے میری زندگی اجیرن کر

دی ہے۔ آفس سے گھر آتا ہے تو کمروں میں گھوم پھر کر جائزہ لیتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں کوئی غیر مرد تو نہیں آیا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں میں کس مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ اگر مجھے اپنے والدین کا احساس نہ ہوتا میں اس سے طلاق لینے میں لمحے کی بھی دیر نہ کرتی..... لیکن کیا کروں..... اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں اس لیے ہمیشہ سب انہیں اچھا ہے کہ رپورٹ دیتی ہوں۔

علیزہ کی باتیں مجھے ہولا رہی تھیں..... علیزہ میری بہنوں سے بڑھ کر دوست تھی میں نے کبھی اس کا برا نہیں چاہا تھا۔ ہمیشہ اس کے لیے دعائیں مانگی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے عم سے میرا دل بند ہو جائے گا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھپک تھپک کر میں اُسے تسلیاں دے رہی تھی۔ اس دوران جہانگیر خان مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے قریب آ گئے۔ میں نے علیزہ کا تعارف اس سے کرایا تو جہانگیر خان مسکرا کر بولے۔

اتنی پرانی دوست ہے تم یہاں کھڑے کھڑے کھڑے باتیں کر رہی ہو بھئی گھر پر انوائٹ کرو اسے۔ بلکہ پوپ کرو ان کا انڈریس لے لو کل ڈرائیور کو بھیج کر انہیں ان کے شوہر سمیت بلوالینا۔“

میں نے دیکھا علیزہ کی آنکھوں میں خوف سا اتر آیا۔ وہ میرا ہاتھ دبا کر مجھے خدا حافظ کہہ کر تیزی سے چلی گئی۔ جہانگیر خان نے مجھے جانے کا عندیہ دے دیا۔ میں ان کے ساتھ چلنے لگی۔ ہمارے ساتھ ادارے کے بہت سارے افراد تھے۔ جو ہمیں گاڑی تک چھوڑنے آ رہے تھے۔ میرے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ علیزہ اکبر کے ہمراہ جا رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا، جیسے میرا دل بھی نوج کر اپنے ساتھ لے جا رہی ہو!

☆☆.....☆☆



## چھٹا وا

حماد منزل پر موت سا سوگ طاری تھا۔ کیوں کہ شادی کا دھوم دھڑکا اور رونق فریہ کے انکار کے باعث ایک دم ماند پڑ گیا تھا۔ حماد کا ہر کیس اک گہرے شاک کی کیفیت میں تھا۔ امی نے سختی نرمی سے سب کچھ بھلا کر فریہ کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کرنے.....

## محبت کی ایک چھوٹی سی کہانی، افسانے کی صورت

کی چیخ پکار سے پیدا ہونے والی گھبراہٹ نے اس کے پورے وجود کو آکٹوپس کی طرح جکڑ لیا اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دم گھٹنے لگا ہو۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں دوبارہ کھول لیں۔ کمرے میں موجود ٹیوب لائٹس روشن تھیں مگر اسے لگ رہا تھا جیسے چہار سو گھپ اندھیرا ہے۔ جس میں کچھ بچھالی نہیں دیتا۔ اس نے خشک ہوتے حلق کو سائیڈ ٹیبل پر رکھے پانی کے گلاس سے تر کیا اور اٹھ کر کمرے کی کھڑکیوں کے پٹ کھول دیے تاکہ بڑھتی ہوئی گھٹن میں کچھ کمی واقع ہو۔ مگر ٹھنڈی ہوا کے جھوکوں کا بس صرف کمرے کے درد دیوار پر ہی چل سکا۔ اس کے اندر کا جس تھا کہ بس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ضبط کے آگے بندھے بند توڑ ڈالے اور اشکوں کی باڑھ طوفان بادو باراں کا روپ دھارے ردانی سے بہنے لگی۔

اس کے اندر کا سناٹا، آہوں، سسکیوں اور دبی دبی چیخوں کے شور سے آباد ہونے لگا۔

☆.....☆.....☆

وہ درد وفا، وہ وفا، وہ محبت تمام خُذ لے دل میں تیرے قرب کی حسرت تمام خُذ یہ بعد میں کھلے گا کس کس کا خون ہوا؟ ہر ایک بیاں ختم، عدالت تمام خُذ تو اب دشمنی کے قابل بھی نہیں رہا۔ اٹھتی تھی جو کمی وہ عدالت تمام خُذ جائز تھی یا نہیں، تیرے حق میں تھی مگر کرتا تھا جو دل بھی، وہ وکالت تمام خُذ وہ روز روز مرنے کا قصہ ہوا تمام وہ روز دل کو چیرتی وحشت تمام خُذ محسن میں کنج زیست میں چپ چاپ ہوں پڑا مجنوں سے وہ خصلت و حالت تمام خُذ ٹیکسٹ ٹائپ کر کے مطلوبہ نمبر پر send کر دیا اور خود بیڈ کے گراؤن سے سر لگا کر آنکھیں موند لیں۔ مگر کیوں کہ اس کا دماغ جاگ رہا تھا تو سوچ میں موجود خیالات مجسم ہو کر سرگرم ہو گئے اور اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں۔ دل و دماغ



ہے سوچ لو مگر خدا کے واسطے یہ ڈرامہ بند کرو۔“  
 حمزہ نے طنز آمیز لہجے میں کہہ کر اس کی راہ  
 چھوڑی تھی اور فریجہ مرے مرے قدموں سے آ کر  
 اپنے بیڈ پر ڈھے گئی تھی۔

ایک حمزہ پر ہی بس نہیں تھا۔ اپنے اسول و  
 نظریات کے سامنے اسے گھر بھر کی نوجوان پارٹی کی  
 مخالفت کا سامنا رہتا تھا۔

”کیا باجی تم بھی نا..... میں اتنی مشکلوں سے تم  
 دونوں کی ملاقاتیں ارنج کراتی ہوں اور تم ہو کہ مانو بی  
 بن جاتی ہو۔“ فریجہ کی چھوٹی بہن نے برا سامنہ بنا کر

”مجھ سے شادی پر خوش نہیں ہونا!“ حمزہ ایک  
 بار پھر فریجہ کی راہ روکے اس سے سوالیہ تھا۔  
 اب جبکہ شادی میں گنے چنے دن رہ گئے  
 تھے۔ حمزہ کا یہ سوال..... فریجہ کو لگا جیسے اس کے  
 قدموں تلے زمین سرکتی جا رہی ہے۔

”کیونکہ تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں ہے۔“ خود ہی  
 سوال کر کے خود ہی جواب دے کر اس نے ایک اور  
 دھماکہ کیا۔ تو فریجہ کو محسوس ہوا جیسے کہ وہ ابھی بے دم ہو کر گر  
 جائے گی۔ یہ وہی حمزہ تھا۔ جو فریجہ کی صرف ایک جھلک کو  
 ترستا تھا۔ اس سے صرف ایک ملاقات کے لیے دیگر کزنز



اسے دیکھا تو وہ اس کی معصوم ادائیں پس پڑی تھی۔  
 ”دھیکنس مائی ڈیئر سسٹر۔ مگر آپ کی ان منصوبہ  
 بندیوں کا علم ہماری والدہ محترمہ کو ہو گیا نا تو بس۔ ان  
 کا ایک ہی وار تمام کاروائیوں کو نیست نابود کر دے  
 گا۔ ویسے بھی ملیجہ تم اب حمزہ کو ٹال دیا کرو۔ دیکھو نا  
 شادی سے پہلے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ ان مردوں کا  
 ویسے بھی کچھ بھروسہ نہیں آج جن ملاقاتوں کے لیے  
 ذوق شوق سے آتے ہیں۔ کل ان ہی کو بے حیائی کا

کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ شادی میں بہت کم دن رہ گئے تھے  
 اور ان کی ملاقات اور بات چیت پر سخت پابندی تھی۔ مگر  
 آج حمزہ کے اس کڑے رویے کی وجہ فریجہ کا بار بار گریز  
 تھا۔ جس کا محرک صرف خاندانی روایات کی پاسداری  
 تھا۔ مگر حمزہ کو کون سمجھاتا کہ اگر فریجہ کو اس سے شادی پر  
 اعتراض ہوتا تو یہ رشتہ ہی کیوں طے پاتا۔

”تمہیں اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو مستغنی کا  
 ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی۔“ اب بھی وقت



طعنہ بنا لیتے ہیں۔ فریحہ نے بہت سنجیدگی سے ملیجہ کو سمجھایا۔ نہیں باجی کم از کم حمزہ بھائی تو ایسے نہیں ہیں۔ کتنی سویٹ نیچر ہے ان کی۔ سب ہی بہت تعریف کرتے ہیں ان کی۔ لگتا نہیں کہ اتنا عرصہ باہر رہ کر آئے ہیں۔ پورا خاندان رشک کرتا ہے تمہاری قسمت پر حمزہ بھائی جیسا ہینڈ سم، ایجوکیٹڈ، ویل مینر ڈ بندہ تمہارا شریک سفر بنے گا۔“ ملیجہ اپنے ہونے والے بہنوئی کا بھرپور دفاع کرتی تھی۔

”اللہ کرے ایسا ہی ہو سسٹر۔“ حمزہ ایسے ہی ہمیشہ رہیں تا عمر۔ لیکن چندا بندے کو پرکھنے اور برتنے کے بعد ہی اس کی اصل کا پتا چلتا ہے۔ فریحہ کے دل میں ہم وقت خدشات کھیلتے رہتے اسی لیے حمزہ سے فریحہ کا گزیردن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ لیکن حمزہ کے آج کے کڑے تیوروں نے فریحہ کو کیڑے میں لاکھڑا کیا تھا۔ وہ صحیح تھی یا غلط۔ وہ دل و دماغ کی گواہی کے انتظار میں تھی کیوں کہ اب اس کے با عزت بری ہونے کا معاملہ انہی سے مشروط تھا۔

☆.....☆.....☆

وہ سب جو اسٹ فیملی سسٹم کی ڈور میں بندھے تھے۔ حمزہ اور فریحہ کی نسبت بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی۔ دونوں آپس میں پھوپھی زاد کزن تھے۔ حمزہ اے لیول کے بعد ہائیر اسٹڈیز کے لیے پاکستان سے باہر چلا گیا تھا۔ اب جبکہ فریحہ نے اپنا ایم بی اے مکمل کر لیا تھا تو بھائی کے اصرار پر پھوپھو نے بیٹے کو سر پر سہرا باندھنے کے لیے بلوایا تھا۔ گوکہ لڑکی ہونے کے ناطے فریحہ تھوڑی بہت تشویش میں مبتلا تھی کہ جانے اتنے عرصے باہر رہنے کے باعث حمزہ کے عادت و اطوار کیسے ہوں مگر حمزہ کے واپس آنے کے بعد اس کی سویٹ نیچر سے وہ کافی حد تک مطمئن تھی۔ گوکہ ابھی بھی کچھ دوسو سے اُسے تنگ کر رہے تھے۔ حمزہ نے فریحہ کو تصویروں میں تو دیکھا ہوا تھا مگر

روبرو دیکھا تو تصویروں سے بڑھ کر پایا۔ گوکہ اسکا پ کی سہولت کے بعد دونوں کی باقاعدہ سلام دعا بھی رہنے لگی تھی۔ مگر مشین انسان کا نعم البدل تو نہیں۔ ایسے میں وہ فریحہ کی چھوٹی بہن ملیجہ سے چھوٹی چھوٹی ملاقاتوں کے اریج مینٹس پر زور دیتا تھا۔ کیوں کہ خانداری روایات کی پاسداری کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں گھرانوں نے شادی سے پہلے ملاقاتوں کو ممنوع قرار دے دیا تھا۔ حمزہ پھوپھو کا اکلوتا بیٹا تھا۔ تو اپنی شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں ہونے والے لین دین کے چکر میں اکثر خود ہی فریحہ کے گھر کے چکر لگاتا رہتا تھا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ تو امی اور ملیجہ کے بازاروں کے چکر بڑھ گئے۔ جب کہ گرمی کی شدت بڑھ جانے کے باعث روپ کے کملا جانے کے ڈر سے امی نے فریحہ کے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی تو اس نے کچن کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اس دن بھی وہ کچن سے کھانا بنا کر گرمی کے اثرات دور کرنے کے لیے سنگھین کا گلاس سامنے رکھے ٹی وی ڈرامہ دیکھنے میں لگن تھی۔ گھر والے جیولری اور فرنیچر کا آڈر کنفرم کرنے نکلے ہوئے تھے۔ فریحہ کے اکیلے پن کی وجہ سے چھوٹا بھائی واحد گھر میں تو رہ گیا تھا۔ مگر اپنے کمرے میں کمپیوٹر پر لگن تھا۔ ایسے میں ڈور بیل پر فریحہ نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ جب کہ وہ شوخی سے مسکرا دیا تھا۔

☆.....☆.....☆

حماد منزل پر موت سے سوگ طاری تھا۔ کیوں کہ شادی کا دھوم دھڑکا اور رونق فریحہ کے انکار کے باعث ایک دم ماند پڑ گیا تھا۔ حماد کا ہر کمیں اک گہرے شاک کی کیفیت میں تھا۔ امی نے سختی نرمی سے سب کچھ بھلا کر فریحہ کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کرنے کی پوری کوشش کی مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی۔ رشتوں کی بنیاد



اعتبار پر نہ ہو امی تو محض مجبور یوں کے ستونوں پر کھڑی عمارت جلد ڈھے جاتی ہے۔

حزہ کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بودیکھا اس پر اعتبار کیا۔ فریحہ کو صفائی کا موقع دیے بغیر، تصدیق کیے بغیر اسے مورد الزام ٹھہرا دیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے فریحہ کو ایک شاپنگ سینٹر میں ایک ہینڈ سٹم سے آدمی کے ساتھ دیکھا تھا۔

”تو یہ ہے تمہارے گریز کی وجہ۔ میں بے وقوف تمہارے کترانے کو تمہاری شرم سمجھ رہا تھا۔“  
حزہ کے اس کے سر پر جا پہنچا تھا اور سلگتے لہجے میں انتہائی ناگوار انداز میں کہا تو فریحہ کے ساتھ کھڑے شخص نے انتہائی چونک کر اسے دیکھا تھا اور فریحہ جیسے لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر لیا تھا۔

”پوچھ سکتا ہوں تمہارے دل کی دنیا کسی اور کے دم سے آباد تھی تو مجھ سے شادی سے انکار کیوں نہیں کیا اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ فریحہ کا دل چاہا کہ دکھتا ہوا انگارہ اس کی زبان پر رکھ دے کہ اس پر کچھ اچھالنے کی آئندہ جرأت نہ ہو مگر اس نے نہایت تحمل سے ضبط کی کڑی منزیں طے کر کے فقط اتنا ہی کیا۔

”اس سوال کا جواب آپ کو شام پر میرے گھر پر ملے گا۔ وہ بھی سب کے سامنے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے والے شخص کو اشارے سے روک دیا اور پھر دھیمے قدموں سے ان کی معیت میں شاپنگ سینٹر سے نکلتی چلی گئی۔

☆.....☆.....☆

وہ اسد صدیقی تھے۔ فریحہ کے سب سے چھوٹے چچا۔ جو کہ اک عرصے سے دیار غیر میں مقیم تھے۔ من پسند شادی ان کا جرم تھی۔ جن کی پاداش میں حماد منزل کے مکینوں نے عرصہ پہلے لن سے ناتا توڑ لیا تھا۔ وہ سالوں بعد لوٹے تو خالی ہاتھ تھے۔ بیوی ایک حادثے میں چل بسی اور اولاد نصیب میں نہ تھی۔ یہ اتنے سالوں پرانی بات تھی کہ حماد منزل کی نو

جوان پارٹی یا صرف ان کے نام سے واقف تھی یا پھر پرانی تصویروں کے ذریعے ان سے شناسا تھی۔ فریحہ نے انہیں ایف بی پڑھونڈ نکالا تھا۔ مگر ان ہی کے منع کرنے پر اپنے اس کارنامے کی اطلاع کسی کو نہیں دی تھی۔ اور اب فریحہ کی خواہش پر ہی وہ اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے چلے آ رہے تھے۔ دل میں کہیں دبی دبی خواہش اور موہوم سے امید بھی تھی کہ شاید اس طرح پرانے مراسم بحال ہو سکیں کیوں کہ اب ان سے بھی تنہائی کا دکھ جھیلنا نہیں جا رہا تھا اور وہ اسی سلسلے میں راہیں ہموار کرنے کی جہد و جہد میں تھے کہ قسمت نے یہ کھیل کھیل ڈالا۔

گو کہ اسد صدیقی کے سامنے آجانے پر تمام اصلیت خود بخود واضح ہو گئی تھی مگر..... فریحہ حمزہ کے اس پیلے ہوئے روپ کو قبول کرنے سے یکسر انکاری ہو گئی تھی۔ حماد منزل کے مکینوں نے اسد صدیقی کو تو کھلے دل سے اپنا لیا تھا کہ خون کے رشتے بھلا کہاں ٹوٹا کرتے ہیں۔ مگر فریحہ نے ایسی چوٹ کھائی تھی کہ وہ سنبھالنے سے نہیں سنبھل رہی تھی۔ سب نے سمجھا یا، منایا..... حمزہ نے معافی مانگ لی، منتوں پر اتر آیا۔

”میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں فریحہ اس لیے یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پایا۔“ اس نے فریحہ کے آگے ہاتھ جوڑ ڈالے۔ وہ دن بھر اسے منانے کو ایس ایم ایس کرتا۔

”اور آپ کو شاید علم نہیں مسٹر حمزہ کہ محبت نہیں نفرت اندھی ہوتی ہے۔ اور اب مجھے آپ سے محبت ہرگز نہیں رہی اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہی ہیں اور مجھے آپ سے سوائے اس کے کچھ نہیں کہنا۔ اس نے نظم ناسپ کر کے حمزہ کو ایسا ایم کر دی۔ اور موبائل آف کر دیا۔ ادھر حمزہ بھی شاید فریحہ کی نفرت کی آگ میں جل کر بھسم ہو چکا تھا۔ سو اس نے بھی سم نکال دی۔ کیوں کہ یہی پچھتاوا اس کے جرم کی سزا تھا۔

☆.....☆.....☆



## رحمن، رحیم، سدا سائیں

اپنے تئیں اس نے کوشش کی تھی کہ چپ چاپ جا کر اسے پکڑ لے وہ جو بھی تھی مگر اس کے قدموں کی آہٹ نے اس کی آمد کا بھید کھول دیا تھا۔ چونک کر تیزی سے گردن موڑنے والی لڑکی کا چہرہ دیکھ کر عبدالعلی کو شاک لگا تھا۔ ”تم.....؟“ وہ کسی طرح بھی اپنی حیرت پر قابو نہیں رکھ سکا.....

زندگی کے ساتھ سفر کرتے کرداروں کی فسوں گرمی، ایمان افروز ناول کا پندرہواں حصہ

## گزشتہ اقساط کا خلاصہ

بیک وقت حال و ماضی کے دریچوں سے جھانکنے والی یہ کہانی دیا سے شروع ہوتی ہے۔ جسے مرتد ہونے کا پچھتاوا، ملال، رنج، دکھ اور کرب کا احساس دل و دماغ کو شل کرتا محسوس ہوتا ہے۔ جو رب کو ناراض کر کے وحشتوں میں مبتلا ہے۔ گندگی اور پلیدی کا احساس اتنا شدید ہے کہ وہ رب کے حضور سجدہ ریز ہونے میں مانع رکھتا ہے۔ مایوسی اس کی اتنی گہری ہے کہ رب جو رحمن و رحیم ہے، جس کا پہلا تعارف ہی یہی ہے۔ اسے یہی بنیادی بات بھلائے ہوئے ہے۔ دیا جو درحقیقت علیزے ہے اور اسلام آباد چاچا کے ہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے مکین ہے۔ یوسف کرچکن نو جوان جو اپنی خوب روئی کی بدولت بہت سی لڑکیوں کو استعمال کر چکا ہے۔ علیزے پر بھی جال پھینکتا ہے۔ علیزے جو دیا بن کر اس سے ملتی ہے اور پہلی ملاقات سے ہی یوسف سے متاثر ہو چکی ہے۔

یہ ملاقاتیں چونکہ غلط انداز میں ہو رہی ہیں۔ جیسی غلط نتائج مرتب کرتی ہیں۔ یوسف ہر ملاقات میں ہر حد پار کرتا ہے علیزے اسے روک نہیں پاتی مگر یہ انکشاف اس پر بجلی بن کر گرتا ہے کہ یوسف مسلمان نہیں ہے۔ دنیا میں آنے والے اپنے ناجائز نئے کو باپ کا نام اور شناخت دینے کو علیزے یوسف کے مجبور کرنے پر اپنا مذہب ناچاہتے ہوئے بھی چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرتی ہے مگر ضمیر کی بے چینی اسے زیادہ دیر اس پر قائم نہیں رہنے دیتی۔ وہ عیسائیت اور یوسف دونوں کو چھوڑ کر رب کی ناراضگی کے احساس سمیت نیم دیوانی ہوتی سرگرداں ہے۔ سالہا سال گزرنے پر اس کا پھر سے بریرہ سے ٹکراؤ ہوتا ہے جو خیالات کی چکی میں پس کر خود بھی سراپا تغیر کی زد میں ہے۔ علیزے کی واپسی کی خواہاں ہے اور علیزے کی مایوسی اور اس کی بے اعتباری کو اُمید میں بدلنا چاہتی ہے۔ مگر یہ اتنا آسان نہیں۔

علیزے اور بریرہ جن کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے۔ بریرہ علیزے کی بڑی بہن مذہب کے معاملے میں بہت شدت پسندانہ رویہ رکھتی تھی۔ اتنا شدت پسندانہ کہ اس کے اس رویے سے اکثر اس سے وابستہ رشتوں کو تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔ خاص کر علیزے..... جس پر علیزے کی بڑی بہن ہونے کے ناتے پوری اجارہ داری ہے۔ عبدالغنی ان کا بڑا بھائی ہے۔ بریرہ سے بالکل متضاد صرف پرہیزگاری و انکساری جس کے ہر انداز سے جھلکتی ہے اور اسیر کرتی ہے۔ درپردہ بریرہ اپنے بھائی سے بھی خائف ہے۔ وہ صحیح معنوں میں پرہیزگاری و نیکی میں خود سے آگے کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ ہارون اسرار شوہر کی دنیا میں بے حد حسین اور معروف شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ گھر کی دینی محفل میں وہ بریرہ کی پہلے آواز اور پھر حسن کا اسیر ہو کر







اس سے شادی کا خواہاں ہے۔ مگر بریرہ ایک گمراہ انسان سے شادی پر ہرگز آمادہ نہیں۔ ہارون اس کے انکار پر اس سے بات کرنے خود ان کے پاس آتا ہے اور شو بزنس تک چھوڑنے پر آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے رضامند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہیں اس موقع پر اس کی پہلی ملاقات عبدالغنی سے ہوتی ہے۔ ہارون اسرار کسی بھی صورت عبدالغنی کو اس رشتہ پر رضامندی پر التجا کرتا ہے۔ عبدالغنی سے تعاون کا یقین پا کر وہ مطمئن ہے۔ اسے عبدالغنی کی باوقار اور شاندار شخصیت بہت بھاتی ہے۔ محلے کا اوباش لڑکا علیزے میں دلچسپی ظاہر کرتا ہے۔ جس کا علم بریرہ کو ہونے پر بریرہ علیزے کی کردار کشی کرتی ہے۔ علیزے اس الزام پر سوائے دل برداشتہ ہونے کے اور کوئی صفائی پیش کرنے سے لاجوار ہے۔

اسامہ ہارون اسرار کا چھوٹا بھائی حادثے میں اپنی ٹانگیں گنوا چکا ہے۔ ہارون کی مٹی اپنی قیمتی جہتی سارہ سے زبردستی اس کا نکاح کرتی ہیں۔ جس کے لیے اسامہ ہرگز راضی نہیں اور نہ ہی سارہ کو اس کے حقوق دینے پر آمادہ ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے سارہ کی اچھائی کی وجہ سے وہ اس کا اسیر ہونے لگتا ہے اور بالآخر اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ لاریب ہارون کی چھوٹی بہن جو بہت لائبرالی نظر آتی ہے۔ ہارون کے ہمراہ کالج واپسی پر پہلی بار عبدالغنی کو دیکھ کر اس کی شخصیت کے سحر میں خود کو جکڑا محسوس کرنے لگتی ہے۔ لاریب کی دلچسپی عبدالغنی کی ذات میں بڑھتی ہے۔ جسے بریرہ اپنی منگنی کی تقریب میں خصوصاً محسوس کر جاتی ہے۔ لاریب محبت کی راہوں کی تنہا مسافر ہے۔ عبدالغنی انجان بھی ہے اور لا تعلق بھی۔ لاریب کے لیے یہ بات بہت تکلیف کا باعث ہے کہ وہ کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔ علیزے لاریب کی ہم عمر ہے۔ دونوں میں دوستی بھی بہت ہو چکی ہے۔ وہ لاریب کی اپنے بھائی میں دلچسپی کی بھی گواہ ہے مگر وہ لاریب کی طرح ہرگز مایوس نہیں ہے۔

شادی کے موقع پر بریرہ کا رویہ ہارون کے ساتھ بھی بہت لیادیا اور سرد مہر ہی نہیں حاکیت آمیز بھی ہے۔ اسے ہارون کے ہر اقدام پر اعتراض ہے۔ وہ اس پر ہر قسم کی پابندیاں عائد کرنے میں خود کو حق بجانب سمجھتی ہے اور اس کی ساتھی اداکارہ سوبا کی ہارون سے بے تکلفی اسے سخت گراں گزرتی ہے۔ مٹی کو اپنی بیٹی کا عبدالغنی جیسے نوجوان میں دلچسپی لینا ایک آنکھ نہیں بھاتا جسمی ایک معمولی بات پر وہ لاریب کے سامنے عبدالغنی کی بے حد تحقیر کرتی ہیں۔ اس سے پہلے وہ لاریب کو بھی جتلا چکی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ لاریب کو عبدالغنی سے سے ردارکھا جانے والا مٹی کا رویہ بغاوت پر ابھارتا ہے۔ وہ تمام لحاظ بھلائے جواب تک اس کے قدموں کو اس راہ پر آگے بڑھنے سے روکے تھے۔ اپنا گھر چھوڑ کر عبدالغنی کے پاس آ کر عبدالغنی سے خود کو اپنانے کی گزارش کرتی ہے۔ عبدالغنی اس کی جذباتی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اسے بہلا، سمجھا کر واپس بھیجتا ہے۔ مگر لاریب اس مصالحانہ عمل کو سمجھے بغیر اسے اپنی ریجیکشن اور تذلیل سمجھتے ہوئے شدید ہجان میں مبتلا ایک سیڈنٹ کر دانتھتی ہے۔ مٹی اس کی حالت پر حراساں جبکہ لاریب اسی ہسٹریائی کیفیت میں مبتلا عبدالغنی کے حوالے سے اپنی ہر شدت اور شدت پسندانہ بے بسی ان کے سامنے عیاں کر جاتی ہے۔ مٹی جو بریرہ کے حاکمانہ رویے اور ناشکرانہ انداز کی بدولت سخت دل برداشتہ ہیں اور اپنی بیٹی کو اس کے بھائی کے حوالے کرنے میں شامل ہیں۔ لاریب کی خوشی کی خاطر اس شادی پر بالآخر آمادہ ہونے پر ایک بار پھر مجبور ہو جاتی ہیں۔ لاریب کی دائمی مسکراہٹ کی چاہ انہیں عبدالغنی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کرتی ہے۔

بریرہ لاریب کو ناپسند کرتی ہے۔ جسمی اسے یہ اقدام ہرگز پسند نہیں آتا مگر وہ شادی کو روکنے سے قاصر ہے۔ لاریب عبدالغنی جیسے منکسر المزاج بندے کی قربتوں میں جتنا سنورنی ہے۔ ہارون بریرہ کے حوالے سے اسی قدر اذیتوں کا شکار ہے۔ لیکن اس وقت تنہا ہوتی ہے۔ جب وہ علیزے کے حوالے سے اس پر الزام عائد کرتی ہے۔ صرف ہارون نہیں..... اس سلیٹی حرکت کے بعد علیزے بھی بریرہ سے نفرت پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ وقت کچھ اور آگے سرکتا ہے۔ بریرہ کے دل شکن رویے کے باوجود ہارون اس کی توجہ کا منتظر بار بار اس کی طرف پیش رفت کرتا ہے۔ اس خواہش کے ساتھ کہ وہ بھی لاریب کی طرح سدھار کا متمنی ہے۔ مگر بریرہ جو علیزے کی بے راہ زدی کا باعث خود کو گردانتی ہے اور احساس جرم میں جتلا رب کو منانے ہر صورت علیزے کی واپسی کی منتہس ہے۔ ہارون کے ہر احساس سے گویا بے نیاز ہو چکی ہے۔ ہارون اس بے نیازی کو لا تعلق اور بے گانگی سے تعبیر کرتے ہوئے مایوسی کی اتھا۔ گہرائیوں میں اترتا تا صرف شو بزنس کی دنیا میں دوبارہ داخل ہوتا ہے بلکہ ضد میں آ کر بریرہ کو جھنجھوڑنے کی خاطر سوبا سے شادی بھی کر لیتا ہے۔ علیزے کے حوالے سے بالآخر بریرہ کی دُعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ لیکن تب تک ہارون کے حوالے سے گہرا نقصان اس کی جھولی میں آن گرا ہوتا ہے۔

علیزے کی واپسی کے بعد عبدالغنی سمیت اس کے والدین بھی علیزے کے رشتے کے لیے پریشان ہیں۔ علیزے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود بھی یہ علم پانٹ رہی ہے۔ عبدالبہادی اپنے روحانی استاؤ کے زیر تربیت ایک کامل مومن کی شکل میں ان کے سامنے ہے۔ وہ اسے نور کی روشنی پھیلانے کو ہجرت کا حکم دیتے ہیں۔



جیز ایک بد فطرت عورت کے وطن سے ہم لینے والی ہا کر دار اور ہا حیا لڑکی ہے۔ جسے اپنی ماں بہن کا طرز زندگی بالکل پسند نہیں۔ وہ اپنی ناموس کی حفاظت کرنا چاہتی ہے۔ مگر حالات کے تاثر و تکبوت نے اسے اپنے منحوس بہنوں میں جکڑ لیا ہے۔ کامیاب علاج کے بعد اسامہ پھر سے اپنے ہیروں پر چلنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اسامہ چونکہ فطرتاً کاملیت پسند ہے۔ کسی بھی چیز کا ادھورا پن اسے ہرگز گوارا نہیں مگر اس کے بیٹے میں ہمدردی پیدا ہونے والی معذوری کا انکشاف اسے سارہ کے لیے ایک سخت گیر شوہر، متکبر انسان کے طور پر متعارف کراتا ہے۔ وہ ہرگز اس کمی کے ساتھ بیچے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں۔ بیرو کو حالات اس سچ پر پہنچا دیتے ہیں کہ وہ ایک مسجد میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس کی شرافت دیکھ کر مؤذن صاحب اسے اپنی بے شفقت پناہ میں لے کر اس کی ذمے داری قبول کر لیتے ہیں۔ ام جان اور ہا جان سچ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ عبدالغنی سے مؤذن صاحب بہت متاثر تھے۔ وہ اس سے اپنی اس پریشانی کا ذکر کرتے ہیں اور اسے قابل بھروسہ جان کر بیرو کو عقد میں لینے پر زور دیتے ہیں۔ عبدالغنی انتہائی مجبوری کی حالت میں ان کا یہ فیصلہ قبول کر کے بیرو سے نکاح کر لیتا ہے۔ یہ سب کچھ اتنی اچانک ہوتا ہے کہ وہ لاریب سے اس بارے میں کوئی ذکر تو کجا مشورہ بھی نہیں کر پاتا۔ بیرو کو لے کر عبدالغنی گھر آ جاتا ہے۔ لاریب کے لیے یہ سب کچھ سبنا آسان نہیں ہوتا، وہ اسی وقت گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ چونکہ گھر میں کوئی بڑا نہیں ہوتا، اس لیے لاریب کو سمجھانا عبدالغنی کے بس سے باہر تھا۔ علیزے، عبدالہادی کے ساتھ اس کی مام سے ملنے ان کے آہائی گھر چلی جاتی ہے۔ جب عبدالہادی علیزے کو اپنی ماں سے ملوانے کے لیے کہتا ہے تو وہ ایک غیر مسلم عورت سے ملنے کے لیے فوری طور پر انکار کر دیتی ہے۔ عبدالہادی کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ کیونکہ اس کی ماں بیٹے کی محبت میں اسلام قبول کر چکی تھیں۔ علیزے بدگمان تھی مختلف مواقع پر عبدالہادی کو پرکھنے کے بعد بلا آخرا پناہ دل صاف کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ ہارون اسرار کا رویہ بریرہ سے بہت برا ہو جاتا ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ اسلام آباد اپنی دوسری بیوی کے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے۔ بریرہ اسے بھی اپنا امتحان مان کر راضی ہو جاتی ہے۔ ہارون اسرار کی دوسری بیوی، پہلی بیوی کو برداشت نہیں کر پاتی اور اس سے اپنے نام لکھی گئی جائیداد اور روپے پیسے لے کر طلاق لے لیتی ہے۔ بریرہ اور ہارون پھر سے محبت کے بندھن کو جوڑے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ عبدالغنی کا ایک سیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ لاریب اور بیرو میں اس حادثے کے بعد دوستی ہو جاتی ہے۔

### (اب آپ آگے پڑھیے)

سے مزین جس محل میں وہ پل کر جوان ہوئی تھی۔ جس قدر ملازمائیں اس کی خدمت میں ہر وقت موجود رہا کرتی تھیں اور جتنے ناز اس کے مل کر عبدالہادی اور علیزے نے اٹھالیے تھے۔ اتباع کا خیال تھا وہ بگڑی نہیں تھی۔ حالانکہ بگڑ جانا چاہیے تھا۔ ہاں وہ خود پسند بہت تھی۔ نازک اندام بہت تھی۔ تو یہ خود قدر کے خیال میں اس کی اضافی خوبیاں تھیں ناکہ خامیاں.....

”اذان کا وقت ہے اس لیے بند کیا۔ تم بھی اٹھ جاؤ۔ اماں نیچے چائے پہ انتظار کر رہی ہیں تمہارا۔“

اتباع آگے بڑھ کر پردے ہٹا کر کھڑکیاں کھولنے لگی۔ قدر نے اسے جواباً تیکھے چوتونوں سے دیکھا۔

”تم بالکل بڑھی روح ہو اتباع! دو دو والد داؤں کے ساتھ رہ کر تم خود بھی ان ہی کی طرح ہو گئی ہو..... سوکول..... اینڈ اولڈ“

اس نے ناک چڑھالی تھی۔ انداز میں نخوت تھا۔

کلیاں گزاراں کیویں راتاں کالیاں  
ڈنگدیاں مینوں رُتاں پیاروالیاں  
تیرے باجوں جی نئی لگد میں تاں مر گئی تھاں.....  
آ جا سو ہنیا گھر آ جا سو ہنیا  
اتباع نے دروازہ کھول کر نیم تاریک کمرے میں قدیم رکھا تو شاز یہ منظور کی دل نشین آواز نے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ پہلے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ پھر میوزک بند کیا۔

”قدر! جاگ رہی ہو؟“ اس کی پوزیشن میں فرق نہ آتے دیکھ کر اسے پکارنا پڑا تھا۔

”میرا خیال ہے جاگتا ہوا انسان ہی میوزک انجوائے کر سکتا ہے۔ بائی داوے تم نے آف کیوں کر دیا؟“

وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ اور خصوصی خفگی سے ایک ایک بات جتلائی۔ اس کا مزاج اگر نازک تھا تو اس میں اس کا قطعی کوئی قصور نہیں تھا۔ آرائشوں



ٹاپسندیدگی تھی۔ اتباع نے تھم کر اس کے تاثرات دیکھے اور آہستگی سے مسکرا دی۔

”یہ اس گھر کی برکت کہہ لو..... یہاں جو بھی رہتا ہے۔ اتنا ہی ڈینٹ ہو جاتا ہے۔ تم بھی ہو جاؤ گی۔ بہر حال آنا تو تمہیں بھی یہیں ہے۔“

سنجیدگی سے بات کرتی وہ آخر میں قدرے شوخ ہوئی تھی۔ قدرے بھنویں اچکا کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔

”کہیں تم کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہو گئیں کہ یہ ساگ میں تمہارے بھائی جان کے لیے سن رہی تھی؟“ اس بات کے جواب میں اتباع دھیرے سے ہنس دی تھی۔

”غلط فہمی کا شکار ہوتی تو شک ہوتا تم کسی اور کے لیے سن رہی ہو۔ مجھے یقین ہے تم میرے بھائی جان کے لیے ہی سن رہی تھیں۔“ وہ ہنوز دھیسے سروں میں ہنس رہی تھی۔ قدر کا گلابی چہرہ جانے کس احساس کے تحت سرخ پڑ گیا۔

”یعنی غلط فہمی نہیں تو خوش فہمی کا شکار ضرور ہو۔“

محترمہ اتباع عبدالغنی اطلاعاً عرض کروں کہ میرے نادریاالات ذرا مختلف ہیں۔ وقت آنے سے کبھی فرصت میں ضرور فیض یاب کروں گی۔ اس وقت تو بس اتنا بتا دو تمہارے بھائی جان آخر مصروف کہاں رہتے ہیں۔ جب بھی دیکھو ہمیشہ غائب..... اب یہی دیکھ لو..... کل سے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں۔ محترم کی ایک جھلک نہیں ملی۔ تصویریں تم لوگ بنواتے نہیں ہو اسکاپ پہ آن لائن ہوتے بھی شریعت کی ممنوعیت مانع آ جاتی ہے کہ اسلام میں ہر طرح کی مووی پکچر منع ہے۔ مجھے تو لگتا ہے نیلسن منڈیلا کو حسن میں مات دیتے ہوں گے جیسی تو چھپے پھرتے ہیں۔ ڈرتے ہوں گے کہیں میں رونہ کر دوں۔“

بات سخت تھی۔ کسی حد تک تکلیف اور ول آزاری

کا باعث بھی..... اتباع کو یکدم چپ لگ گئی۔ مزاج میں۔ ”وہ ماں کا عکس تھی۔ ہو بہو عکس۔ اس کا نکل، اس کا صبر و برداشت۔ ویسی ہی گھمبیر چپ اور شرمیلی فطرت۔ قدر سے اس موضوع پہ اس سے پہلے ہمیشہ ہلکا پھلکا مذاق چلا تھا اور بس مگر آج اس کے خیال میں قدرے انتہا کر وی تھی۔“

”میں نیچے چلتی ہوں۔ اماں منتظر ہوں گی میزبانی! تم بھی ذرا جلدی آ جانا۔“

اس کی خاموشی نے ہی قدر کو یہ بات جتلائی تھی کہ اسے یہ بات کتنی کھلی ہے۔ اس کے باہر چلنے جانے کے بھی بہت دیر بعد تک وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی۔ ایک عجیب سی تشنگی، کسک اور توہین کا احساس تھا جو اسے چھو چھو کر، رگید رگید کر گزر رہا تھا۔ آج اس احساس میں اور بھی شدت تھی۔ وہ محض پندرہ سال کی تھی جب ایک روز اتفاقاً اس نے ماما..... (علیزے، وہ علیزے کو اماں یا والدہ نہیں کہتی تھی۔ حالانکہ علیزے نے کتنی کوشش کر کے دیکھ لی تھی۔ وہ بھی عبدالعلی کی طرح اسے اماں کہے۔ مگر وہ مان کر نہ وی۔)

”اماں.....!!“ وہ کتنا ہنسی تھی۔

”کس قدر بیک ورڈ ہے یہ ورڈ ماما! اور پھر آپ آئینے میں تو خود کو دیکھیں ذرا۔ ہرگز آپ کو دیکھ کر نہیں لگتا آپ میرے جتنی لڑکی کی ماں بھی ہو سکتی ہیں۔ چلیں ماما تو کھینچ تان کر بنایا جاسکتا ہے مگر اماں..... ہرگز ہرگز نہیں۔“

”اماں لفظ میں کتنی اپنائیت اور مٹھاس ہے۔ مجھے پسند ہے۔ اچھا لگتا ہے بیٹے! پھر عبدالعلی بھی تو لاریب کو اماں کہتا ہے۔“

اور یہیں اسے غصہ آ گیا تھا۔

”عبدالعلی..... عبدالعلی.....! ماما! آپ ہر بات میں اُس بندے کا حوالہ مجھے کیوں دیتی رہتی ہیں ہر وقت۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔“



وہ چیخ پڑی تھی۔ جبکہ علیزے کی رنگت اس قدر تیزی سے زرد پڑتی چلی گئی تھی۔

”کون..... کون اچھا نہیں لگتا..... عبدالعلی؟“

الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے تھے، جیسے خوف اس کی روح سلب کر رہا تھا۔ یہ لگا تھا اگر علیزے نے لفظ ہاں کہہ دیا تو اس کا دل ہمیشہ کے لیے دھڑکنے چھوڑ دے گا۔

”ہاں..... نہیں لگتا مجھے وہ اچھا ماما! بیٹی میں ہوں آپ کی نہ کہ وہ آپ کی اولاد ہے۔ مگر آپ محبت اس سے زیادہ کرتی ہیں۔“ قدر رو ہانسی ہو رہی تھی۔ علیزے کے حواس ذرا سے بحال ہوئے۔

”ایسے نہیں کہتے ہیں بیٹے! عبدالعلی بھی میری اولاد ہے۔“

”قطعاً نہیں۔ وہ صرف آپ کا بھتیجا ہے اینڈ ویش آل.....“

قدر کی شدت پسندی اور خود پسندی پوری طرح واضح ہو رہی تھی۔

”وہ میرا صرف بھتیجا نہیں ہے قدر! وہ میرا ماد بھی ہے۔ ہم نے تمہاری پیدائش کے موقع پر تمہارا نکاح عبدالعلی سے کر دیا تھا۔ یاد رکھنا تمہاری شادی صرف عبدالعلی سے ہوگی۔“

اس روز علیزے پہلی مرتبہ قدر سے بلند آواز میں بولی تھی۔ پہلی بار اس کی آواز میں سختی اتری تھی۔ جبکہ قدر گنگ رہ گئی تھی۔ شاید..... اس کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی۔

”واٹ.....؟“ وہ چیخی۔

”ایسی آخر کیا افتاد آن پڑی تھی کہ آپ کو یہ نکاح اتنی عجلت میں کرنا پڑا۔“ وہ غم و غصے اور قہقہے سے لرزنے لگی اور کسی بھی بل رونے کے لیے تیار۔

”یہ میری خواہش تھی۔ شدید خواہش۔ قدر وہ اس قابل ہے کہ تمہیں ڈیزر رو کرے۔“

علیزے اسے لپٹا کر پیار کرنا چاہتی تھی، سمجھانا

چاہتی تھی۔ مگر وہ بھری ہوئی موج کی ماند چیل کر، پھر کر اس کے حصار سے نکل گئی۔ انداز بے حد شاکی تھا، خفگی اور دکھ سے بھر پور۔

”مجھے یقین نہیں آ رہا ہے ماما! کہ آپ میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہیں۔ اور پاپا جانی نے بھی نہیں بتایا مجھے کبھی۔“ آنسو اس کی پلکوں سے پھیل پھیل کر بیچ چہرے پہ بکھرنے لگے۔ علیزے کی جان اس قدر مشکل میں آئی تھی۔

”کیا وہ تمہیں پسند نہیں.....؟“ علیزے کا رنگ فق ہوا تھا۔

”پسند کا کیا سوال ہے ماما! میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں۔ ہم جب بھی ماموں کے گھر گئے۔ وہ کبھی گھر پہ نہیں ملا۔ ہمیشہ ہوشل میں ہوا کرتا تھا۔

بڑے ہونے پہ بھی میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا۔ اہم مسئلہ یہ نہیں ہے۔ آپ نے ماموں کے گھر کا ماحول دیکھا ہے.....؟ کتنا بیک ورڈ ہے۔ اتباع

..... اُف اپنی ماؤں سے زیادہ سنجیدہ اور گول ہے۔ وہ لوگ ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس میں انہیں ذرا سا بھی احتمال ہو کہ گناہ ہے اور عبدالعلی کے متعلق تو میں نے ہمیشہ یہی سنا وہ ماموں کی

کاربن کاپی ہے۔ آئی ڈونٹ لائک اٹ۔ ماما! مجھے اتنے رُوڈ، اس قدر پابند اور ان رومنٹک بندے سے شادی نہیں کرنی۔ میں تو اپنے گھر کے ماحول سے الر جک تھی۔ مجھے آزاد ماحول اور آزادی پسند

ہے۔ آپ مجھے یہاں سے بھی زیادہ پابند اور گھٹے ہوئے ماحول میں بھیجئے پر آمادہ ہیں۔“

جواب اتنا تفصیلی اور اس قدر دل برداشتہ تھا کہ علیزے سے کھڑے رہنا محال ہو گیا تھا۔ اس کا دل اس صدمے کو سہا نہیں پار رہا تھا۔ جب ہی اگلے کئی دن وہ بستر سے نہیں اٹھ سکی۔ وہ بس روتی

تھی..... عبدالہادی اس صورت حال سے اس سے زیادہ اپ سیٹ تھے۔



”میں اس لیے خلاف تھا بچپن کی رشتہ داریوں سے لیزے..... مگر آپ نے تب میری ایک نہ سنی۔“ وہ عاجز اور بے بس لگ رہے تھے۔ سخت مضطرب۔ علیزے کے آنسوؤں میں روانی آنے لگی۔

”ذرا سوچیں عبدالعلی! بھائی کو کیا منہ دکھائیں گے اب ہم۔“

عبدالہادی مضطربانہ ٹہل رہے تھی اور ہاتھ مسلتے تھے۔

”غلطی ہماری تھی۔ ہم نے اپنی بیٹی کو سر پہ بہت چڑھا لیا۔“

علیزے دل گیری سے بولی۔ عبدالہادی نے ہونٹ ہنسیج کر انھیں دیکھا۔

”وہ ہر صحیح غلط فرمائش کرتی رہی آپ نے پوری کر دی۔ عجیب نقطہ تھا آپ کا۔ دین زبردستی مسلط نہیں کیا جاسکتا۔ اسے قبول کیا جاتا ہے۔ اپنایا جاتا ہے۔ ارے پھر بتائیں دس سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر بچوں کو مارنے کا حکم کیوں ہے حدیث میں۔ مان لیں آپ کی نرمی سے بگڑی ہے۔“

علیزے ساری شکایتیں اک ساتھ لے بیٹھی تھی۔ میں نے منع کیا تھا موبائل نہ لے کر دیں۔ مگر آپ نے آئی فون لے کر دیا۔ لیپ ٹاپ اس وقت تھا اس کے پاس جب وہ دس سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہی سب اگر آپ نے اسے اپنے دین سے

محبت کرنے پہ محنت کی ہوتی تو وہ ایسی ہوتی؟“

”میرا نظریہ اب بھی وہی ہے لیزے! موبائل فون اور لیپ ٹاپ اس کی ضروریات تھیں۔ میں ان سے ہاتھ کیسے کھینچ سکتا تھا۔ میں نے دین کے متعلق قدر کو محبت دی ہے۔ اس پہ اثر کتنا ہوا یہ کچھ کیسے کہوں۔ زبردستی میں محبت نہیں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ ابھی وہ چھوٹی ہے۔ عمر نہیں گزری۔ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی تھیں۔ دیکھ لیں پھر اللہ کی عنایات کس قدر ہوئیں۔ آپ حوصلہ رکھیں۔“

علیزے کا فیصلہ عبدالہادی کو جذب کر کے رکھ گیا۔ ”اس کا کیا مطلب ہے بیگم صاحبہ! ہماری بیٹی شادی سے پہلے کیوں سسرال میں جا کر قیام پذیر ہو۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔“ انھیں شدید اختلاف ہوا تھا۔ علیزے اس قدر چڑنے لگی۔

”اس میں ہرگز بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے عبدالہادی! جب اسے ساری زندگی وہاں گزارنی ہے تو یہ عرصہ بھی گزار لے، تاکہ اسے اس گھر میں رہنے کا طریقہ، سلیقہ آ جائے۔ نکاح ہو چکا ہے اس کا۔ ویسے بھی وہ گھر اور اس کے مکین غیر نہیں ہیں۔ میرے بھائی کا گھر ہے وہ۔ یعنی ہمارا اپنا۔“

عبدالہادی محض انھیں عاجز اور بے بس نظروں سے دیکھتے رہے۔

”آپ اختلاف نہیں کریں گے عبدالہادی! نہ قدر کی سائیڈ لیں گے، سن لیں آپ..... میں اسے ہر صورت وہاں بھیجنا چاہتی ہوں۔ اور خاص کر عمیر بھابی اور بجو سے کہوں گی۔ اس نالائق کی ذرا بہتر تربیت کرویں۔ تاکہ عبدالعلی کے کچھ تو قابل ہو سکے۔“

”ہاں..... اس آس میں بیٹھے رہے گا۔ ضروری ہے کہ وہ بھی ہماری طرح ہی ٹھوکر کھا کر سنبھلے.....؟“

علیزے کا موڈ سخت آف ہو گیا تھا۔ عبدالہادی سرد آہ بھر کے رہ گئے۔

”پھر کیا چاہتی ہیں آپ.....؟“ وہ عاجز نظر آ رہے تھے۔ یہ سچ ہے مرد جب خواتین کی مرضی اور پسند کو مقدم رکھنے لگ جائیں تو پھر نہ صرف مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ بعض مقامات پہ شرمندگی سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔

”قدر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ آپ اس کا ایڈمیشن پری میڈیکل کالج میں کروادیں۔ یہ ہوشل نہیں رہے گی۔ وہاں رہے گی اپنے ماموں کے گھر.....“

علیزے کا فیصلہ عبدالہادی کو جذب کر کے رکھ گیا۔ ”اس کا کیا مطلب ہے بیگم صاحبہ! ہماری بیٹی شادی سے پہلے کیوں سسرال میں جا کر قیام پذیر ہو۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔“ انھیں شدید اختلاف ہوا تھا۔ علیزے اس قدر چڑنے لگی۔

”اس میں ہرگز بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے عبدالہادی! جب اسے ساری زندگی وہاں گزارنی ہے تو یہ عرصہ بھی گزار لے، تاکہ اسے اس گھر میں رہنے کا طریقہ، سلیقہ آ جائے۔ نکاح ہو چکا ہے اس کا۔ ویسے بھی وہ گھر اور اس کے مکین غیر نہیں ہیں۔ میرے بھائی کا گھر ہے وہ۔ یعنی ہمارا اپنا۔“

عبدالہادی محض انھیں عاجز اور بے بس نظروں سے دیکھتے رہے۔

”میرا نظریہ اب بھی وہی ہے لیزے! موبائل فون اور لیپ ٹاپ اس کی ضروریات تھیں۔ میں ان سے ہاتھ کیسے کھینچ سکتا تھا۔ میں نے دین کے متعلق قدر کو محبت دی ہے۔ اس پہ اثر کتنا ہوا یہ کچھ کیسے کہوں۔ زبردستی میں محبت نہیں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ ابھی وہ چھوٹی ہے۔ عمر نہیں گزری۔ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی تھیں۔ دیکھ لیں پھر اللہ کی عنایات کس قدر ہوئیں۔ آپ حوصلہ رکھیں۔“

علیزے کا فیصلہ عبدالہادی کو جذب کر کے رکھ گیا۔ ”اس کا کیا مطلب ہے بیگم صاحبہ! ہماری بیٹی شادی سے پہلے کیوں سسرال میں جا کر قیام پذیر ہو۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔“ انھیں شدید اختلاف ہوا تھا۔ علیزے اس قدر چڑنے لگی۔

”اس میں ہرگز بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے عبدالہادی! جب اسے ساری زندگی وہاں گزارنی ہے تو یہ عرصہ بھی گزار لے، تاکہ اسے اس گھر میں رہنے کا طریقہ، سلیقہ آ جائے۔ نکاح ہو چکا ہے اس کا۔ ویسے بھی وہ گھر اور اس کے مکین غیر نہیں ہیں۔ میرے بھائی کا گھر ہے وہ۔ یعنی ہمارا اپنا۔“

عبدالہادی محض انھیں عاجز اور بے بس نظروں سے دیکھتے رہے۔

”میرا نظریہ اب بھی وہی ہے لیزے! موبائل فون اور لیپ ٹاپ اس کی ضروریات تھیں۔ میں ان سے ہاتھ کیسے کھینچ سکتا تھا۔ میں نے دین کے متعلق قدر کو محبت دی ہے۔ اس پہ اثر کتنا ہوا یہ کچھ کیسے کہوں۔ زبردستی میں محبت نہیں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ ابھی وہ چھوٹی ہے۔ عمر نہیں گزری۔ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی تھیں۔ دیکھ لیں پھر اللہ کی عنایات کس قدر ہوئیں۔ آپ حوصلہ رکھیں۔“

علیزے کا فیصلہ عبدالہادی کو جذب کر کے رکھ گیا۔ ”اس کا کیا مطلب ہے بیگم صاحبہ! ہماری بیٹی شادی سے پہلے کیوں سسرال میں جا کر قیام پذیر ہو۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔“ انھیں شدید اختلاف ہوا تھا۔ علیزے اس قدر چڑنے لگی۔

”اس میں ہرگز بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے عبدالہادی! جب اسے ساری زندگی وہاں گزارنی ہے تو یہ عرصہ بھی گزار لے، تاکہ اسے اس گھر میں رہنے کا طریقہ، سلیقہ آ جائے۔ نکاح ہو چکا ہے اس کا۔ ویسے بھی وہ گھر اور اس کے مکین غیر نہیں ہیں۔ میرے بھائی کا گھر ہے وہ۔ یعنی ہمارا اپنا۔“

عبدالہادی محض انھیں عاجز اور بے بس نظروں سے دیکھتے رہے۔

”میرا نظریہ اب بھی وہی ہے لیزے! موبائل فون اور لیپ ٹاپ اس کی ضروریات تھیں۔ میں ان سے ہاتھ کیسے کھینچ سکتا تھا۔ میں نے دین کے متعلق قدر کو محبت دی ہے۔ اس پہ اثر کتنا ہوا یہ کچھ کیسے کہوں۔ زبردستی میں محبت نہیں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ ابھی وہ چھوٹی ہے۔ عمر نہیں گزری۔ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی تھیں۔ دیکھ لیں پھر اللہ کی عنایات کس قدر ہوئیں۔ آپ حوصلہ رکھیں۔“

علیزے کا فیصلہ عبدالہادی کو جذب کر کے رکھ گیا۔ ”اس کا کیا مطلب ہے بیگم صاحبہ! ہماری بیٹی شادی سے پہلے کیوں سسرال میں جا کر قیام پذیر ہو۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔“ انھیں شدید اختلاف ہوا تھا۔ علیزے اس قدر چڑنے لگی۔

”اس میں ہرگز بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے عبدالہادی! جب اسے ساری زندگی وہاں گزارنی ہے تو یہ عرصہ بھی گزار لے، تاکہ اسے اس گھر میں رہنے کا طریقہ، سلیقہ آ جائے۔ نکاح ہو چکا ہے اس کا۔ ویسے بھی وہ گھر اور اس کے مکین غیر نہیں ہیں۔ میرے بھائی کا گھر ہے وہ۔ یعنی ہمارا اپنا۔“

عبدالہادی محض انھیں عاجز اور بے بس نظروں سے دیکھتے رہے۔

”میرا نظریہ اب بھی وہی ہے لیزے! موبائل فون اور لیپ ٹاپ اس کی ضروریات تھیں۔ میں ان سے ہاتھ کیسے کھینچ سکتا تھا۔ میں نے دین کے متعلق قدر کو محبت دی ہے۔ اس پہ اثر کتنا ہوا یہ کچھ کیسے کہوں۔ زبردستی میں محبت نہیں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ ابھی وہ چھوٹی ہے۔ عمر نہیں گزری۔ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی تھیں۔ دیکھ لیں پھر اللہ کی عنایات کس قدر ہوئیں۔ آپ حوصلہ رکھیں۔“

علیزے کا فیصلہ عبدالہادی کو جذب کر کے رکھ گیا۔ ”اس کا کیا مطلب ہے بیگم صاحبہ! ہماری بیٹی شادی سے پہلے کیوں سسرال میں جا کر قیام پذیر ہو۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔“ انھیں شدید اختلاف ہوا تھا۔ علیزے اس قدر چڑنے لگی۔



اس آخری بات پہ عبدالہادی سرد آہ بھر کے رہ گئے۔

”عبدالعلی سے آپ کا عشق میری تو سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہرگز خیال نہ تھا وہ آپ کو اپنی بیٹی سے بھی عزیز ہو جائے گا۔“

علیزے اس بات پر ناراضی کے باوجود مسکرانے پر مجبور ہوئی تھی۔ چہرے پہ محبت کا انوکھا تاثر بکھر گیا۔

”محبت تو بلاشبہ بہت زیادہ ہے مجھے عبدالعلی سے۔ البتہ یہ فیصلہ نہیں ہوتا قدر سے زیادہ ہے یا اتنی

ہے۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک اولاد اپنی فرمانبرداری اور سعادت مندی کے باعث دل سے

زیادہ قریب ہو جایا کرتی ہے۔ بانسبت اکثر اور ضدی اولاد کے..... بس اتنی سی بات ہے۔“ اس

کے لہجے میں محبت کی خوشبو تھی۔ مان تھا، ناز تھا۔ اور یہ سب بلاشک و شبہ عبدالعلی کے لیے تھا۔

”ٹھیک ہے۔ ابھی اس کام میں وقت ہے۔ سال ڈیڑھ سال..... میں قدر کو خود قائل کر لوں گا۔

ماموں کے گھر جا کر رہے پر آپ کچھ نہ کہیے۔ پھر وہ بدل جائے گی۔ آپ بات منوائی نہیں ہیں۔ زبردستی

ٹھونسٹی ہیں۔ بچپن سے لے کر اب تک آپ نے اسے روکا تو کا نہیں۔ اب ایک دم سے چاہتی ہیں وہ

سدھر جائے۔ ایسا تو ممکن نہیں ہوتا۔“

عبدالہادی نے نری سے سمجھایا تھا مگر علیزے کو ان کی بات سخت ناگوار خاطر ہوئی۔

”یعنی آپ کا خیال ہے ساری غلطی میری ہے.....؟“ وہ روہانسی ہوتی، اس کے گلے پڑنے کو تیار تھی۔

”چھوٹی سی ہوتی تھی جب سے میں اسے دوپٹہ لینے پہ قائل کر رہی ہوں۔ ایسی ہے وہ باپ کی بیٹی کہ

یہ ایک بات مان کر نہ دکھائی۔ اتنی بڑی ہو گئی مگر دوپٹہ لینا نہیں آسکا۔ ہاتھ میں پکڑے تو پھرے گی

سر پہ نہیں اوڑھے گی۔ بتائیں اس میں میرا قصور.....“

ڈانٹ کے بھی دیکھ لیا..... اس پر آپ کی حمایت حاصل ہو جاتی تھی اسے..... بگڑنا نہیں تھا تو.....“

”اچھا بھئی! معاف کر دیں۔ مان لیا۔ غلطی ہماری ہے۔“

عبدالہادی عاجز ہوئے۔ وہ انھیں خفگی سے، ناراضی سے دیکھتی رہیں۔

☆☆☆

”ماما! بچپن کے نکاح کی کتنی اہمیت ہے ہمارے مذہب میں؟“

علیزے ڈانٹنگ ٹیمبل پر پلازمہ کے لا کر رکھے کھانے کے لوازمات سجا رہی تھی۔ جب وہ آ کر ان

کے سر پر سوار ہوئی۔ علیزے کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے ہاتھ روک کر گردن موڑی

اور اسے دیکھا۔ نی پنک لانگ شرٹ بے حد اشائکش جینز کے ٹراؤزر میں ملبوس اس کا موی سراپا

اور اس سے نکلتی شعاعیں اس کو ہمیشہ کی طرح بے انتہا حسین اور چارمنگ بنا کر دکھا رہی تھیں۔

”اہمیت ہی اہمیت ہے۔ یہاں تک سن لو..... بڑی ہونے پر اگر لڑکی کو یہ رشہ پسند نہ آئے تب بھی

وہ خلع نہیں لے سکتی۔ یہاں تک کہ اس کے ولی نہ چاہے۔ یعنی جنھوں نے نکاح کروایا۔ باپ یا دادا۔“

علیزے کا انداز صاف جتلاتا ہوا تھا کہ وہ بہر حال کچھ نہیں کر سکتی اب۔ قدر کی صبح پیشانی پہ

شکینیں سی نمودار ہوئیں۔

”ایک بات میں آپ کو بتا دوں صاف ماما! آپ کے بھائی کے گھر کا ماحول مجھے پسند نہیں آسکا ہے، یہ

کلیئر ہے۔ ہاں اگر آپ کا لاڈلا داماد بھی مجھے اٹریکٹ کرنے میں ناکام رہا تو پھر میں پاپا جانی کو

فوس کروں گی کہ مجھے ہر صورت خلع چاہیے۔“

اس کا انداز ضدی اور ہٹ دھرم تھا۔ علیزے کا چہرہ صرف غصے سے سرخ نہیں ہوا۔ ضبط سے بھی لال پڑتا جا رہا تھا۔



”اس سے پہلے کہ تم یہ کرو قدر یا تو میں خود کو شوٹ کر دوں گی یا تمہیں مار ڈالوں گی۔ یاد رکھنا۔“ وہ غرائی۔ قدر کا رنگ بالکل فق ہو گیا۔ اس نے اچنبھے میں گھر کر بے یقین سے ماں کو دیکھا۔ جو سرتاپا کانپ رہی تھی۔ لرز رہی تھی۔

”میں اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گی۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ رشتہ میری خواہش اور ضد پر طے ہوا تھا۔“ وہ چیختی تھیں۔ قدر کچھ دیر ساکن نظروں سے انھیں تکتی رہی تھی پھر کچھ کہے بغیر پلٹ کر بھاگ گئی۔

اپنے کمرے میں آ کر وہ کتنی دیر تک گھٹ گھٹ کر روئی رہی تھی۔ اس کی انا بلبلا رہی تھی۔ نسوانی پندار کرچی کرچی تھا۔ کس وجہ سے..... اس عبدالعلی کی وجہ سے جسے اس کی ماں اس پر فوقیت دے رہی تھیں۔ کیا وہ بتا سکتی تھی کسی کو۔ یہ اہم بات جان لینے کے بعد از خود اس کے دل میں اس انجانے ان دیکھے شخص کا خیال اور احساس جڑ پکڑتا چلا گیا تھا۔ سب سے شدید خواہش اسے دیکھنے کی تھی۔ اور اس کا اظہار اس نے اتباع سے بلا جھجک کر دیا تھا۔

”میں عبدالعلی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ذرا پتا تو چلے کس سے ماما نے میرا نصیب پھوڑا ہے۔“

اس کا انداز شگفتہ تھا۔ جواب میں اتباع نے کتنا حظ لیا تھا اس بات سے جیسی ہنستی رہی تھی۔

”تو تمہیں بالآخر یہ اہم بات معلوم ہوگئی۔ گڈ۔ کیا احساسات ہیں؟“

”یہ تو محترم کو دیکھنے کے بعد بتا سکتی ہوں۔ تم ان کی کچھ Pics تو ایم ایم ایس کرو مجھے۔“

وہ نارمل انداز میں کہہ گئی تھی۔ یہ سچ تھا ابھی وہ کوئی رائے نہیں دینا چاہتی تھی عبدالعلی کے متعلق۔

”تم شاید یقین نہ کرو قدر مگر حقیقت یہی ہے۔ بھائی جان اسٹپس نہیں بنواتے۔“

”کیوں؟ اتنے خوفناک ہیں وہ؟“

اتباع کے سنجیدگی سے دیے جواب پر اس نے غیر سنجیدگی سے کہا تھا۔

”نہیں۔ گناہ کے خیال سے۔“ اتباع کی سنجیدگی و متانت ہنوز قائم و دائم تھی۔ اور قدر شاک میں آگئی تھی۔

”ٹھیک ہے۔ میں اسکا پ پہ دیکھ لوں گی۔ وہاں تو اوپیلیمیل ہیں نا؟“

اس نے ہمت نہیں ہاری مگر اس کا بھی فائدہ نہیں ہوسکا۔

”نہیں نا یار..... بھائی جان اسکا پ یوز نہیں کرتے۔ فیس بک پہ بھی نہیں ہیں۔“

”کیوں.....؟“ اس کا انداز سخت احتجاجی ہوا۔

”اتنے مصروف ہیں؟ ملک ان ہی کے کاندھوں پر چل رہا ہے۔“ اس نے طنز پہ کہا تھا۔

”بات مصروفیات کی ہی نہیں ہیں نا قدر! بھائی جان ان خرافات کو پسند نہیں کرتے۔ پھر اسکا پ پہ بھی تو کیمرے سے مووی بنتی ہے نا۔ جبکہ انھوں نے تصویریں، موویز نہ بنوانے کا عہد کر رکھا ہے۔“ اتباع نے نرمی اور تحمل سے اصل وجہ بتائی تھی۔

وہ اس کے طنز صاف پی جایا کرتی تھی۔

”اووووف.....! قدر نے اپنے بال نوچ لیے تھے جیسے۔“

”اب کیا کروں.....؟ مجھے تو دیکھنا تھا ان کو“ اس نے بے زاری سے کہا۔

”گھر جب آئیں گے تم بھی آ جانا۔ پھر دیکھ لینا مل لینا، اچھی طرح۔“

اب کے اتباع کا انداز شرارتی ہوا تھا۔ قدر کا منہ بنا رہا۔ لگا کسی سوچ نے اس میں جوش جگایا۔

”سیل فون تو یوز کرتے ہوں گے یا وہ بھی نہیں؟“

چلو کیمرے کے بغیر ہی سہی۔“

اس کا انداز کسی حد تک تمسخرانہ ہوا۔

”ہاں فون استعمال کرتے ہیں۔ تم چاہو تو میں



ان کا کانٹکٹ نمبر تمہیں دے دیتی ہوں۔“  
 ایک بار پھر اتباع کا ریمان، محل اور رواداری ظاہر  
 ہوئی۔ وہ کتنے نرم انداز میں کہہ رہی تھی۔ قدر نے  
 ہنکارا بھرا۔

”ضرور دے دو..... مجھے بات تو کرنی ہے۔“  
 اس نے اب کے سرد انداز میں جواب دیا تھا اور رابطہ  
 منقطع کر دیا تھا۔

اتباع کے بھیجے نمبر پر اس نے اس دن کتنی بار ٹرائی  
 کیا۔ اسے یاد نہ رہ سکا۔ گھنٹیاں بجتی تھیں اور کال  
 ریسیونہ ہوتی تھی۔ قدر کو لگا تھا واقعی جیسے ملک اسی  
 ایک بندے کے کاندھوں پر سوار ہو کر چل رہا ہے۔  
 اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو سیل فون پر نگاہ پڑتے  
 ہی پھر سے عبدالعلی کا خیال آ گیا۔ بنا سوچے سمجھے  
 اس نے پھر اس کا نمبر پیش کر دیا تھا۔ ایک فیصد بھی  
 امید نہیں تھی کال ریسیو ہونے کی مگر ہو گئی..... اسے  
 حیرانی سے زیادہ خوشگوااری نے آ ن لیا تو وجہ دوسری  
 جانب سے آئی دلکش مردانہ آواز تھی۔ بھاری بیس  
 والی گھمبیر تر آواز اور ساعتوں پر اثر دکھاتا ہوا لہجہ۔

”السلام علیکم!“  
 وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ دل جانے کیوں  
 یکدم بہت شدتوں سے دھڑک اٹھا تھا۔

”وسلام! آپ عبدالعلی ہیں.....؟“  
 اس کے لہجے میں اشتیاق اور شوق کی فراوانی در  
 آئی تھی۔

”جی..... مگر آپ کون.....؟“ اس کا لہجہ بتاتا تھا  
 وہ الجھ رہا ہے۔ قدر بے ساختہ مسکرانے لگی۔

”قدر.....!“ اپنا نام بتاتے اک تقافر، اک ناز،  
 اک اعتماد خود بخود اس کے لہجے میں اتر آیا۔ جس کو  
 اگلے بل زمین پر پٹخ دیا گیا تھا۔

”کون قدر.....؟“ سوال ہوا تھا۔ انداز کی بے  
 نیازی اور بے گانگی نے قدر کو یگانگت صرف ٹھنڈا نہیں  
 کیا وہ توہین، سبکی اور خفت کے ان دیکھے سمندر میں

جاگری تھی۔  
 ”کیا واقعی آپ مجھے نہیں جانتے؟“ وہ سلگی تھی۔  
 بھڑکی تھی۔ ایسی توہین کا تو اس کے آس پاس بھی  
 تصور نہیں تھا۔

”دیکھیے محترمہ! فضول سوالات میں میرا ٹائم  
 برباد نہ کریں۔“

دوسری جانب سے بے زاری میں لپٹی سرد آواز  
 سننے کو ملی۔ اور قدر کے صبر، ضبط اور برداشت کی انتہا  
 ہو گئی۔ ایک لفظ مزید کہے بنا اس نے رابطہ منقطع  
 کر دیا تھا۔ اس کے چہرے سے آگ کی لپٹیں اٹھ  
 رہی تھیں۔ آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں جھونک  
 رکھی تھیں۔ وہ شعلوں میں گھری یہاں سے وہاں  
 پھرتی چیزیں پختی رہی۔

”کیا سمجھتا ہے وہ خود کو.....؟ میری توہین کر رہا  
 تھا دانستہ۔“

اس نے سیل فون اٹھا کر دیوار سے دے مارا۔  
 طیش پھر بھی ختم نہیں ہوا تھا۔

’شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہے وہ..... میں اسے  
 لازماً بتاؤں گی۔ میرے جوتے کو بھی پروا نہیں ہے  
 اس کی۔‘

اس نے حقارت سے سوچا اور فیصلہ کیا تھا، اور  
 کتنے دن اسی اشتعال میں گزار دیے۔ لاشعوری طور  
 پر وہ اس کے دوبارہ رابطہ کرنے کی تبھی منتظر تھی۔ وہ  
 معذرت کرے وہ خود اپنی غلطی کا اعتراف کرے۔  
 مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کا نیا فون اسی سابقہ  
 کانٹیکٹ نمبر کے ساتھ آن رہا۔ مگر عبدالعلی کی کال تو  
 درکنار ایک میسج بھی نہیں آیا۔ اور سبکی و ذلت کی انتہا  
 پہ جا کر اس نے ایک انتہائی فیصلہ کر لیا تھا۔ جیہی  
 علیزے کے پاس چلی آئی تھی۔

”ہاں ہاں بھابھی! میرے لیے تو یہ عید کے چاند  
 سے بڑھ کر خوشی کی خبر ہے۔ کب آ رہا ہے عبدالعلی!“  
 علیزے فون پر گفتگو میں مصروف تھی۔ قدر نے اس



# پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

## یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو م ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ سیریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرک نہیں کیا جاتا

**We Are Anti Waiting WebSite**

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on  
Facebook

[fb.com/paksociety](https://fb.com/paksociety)



[twitter.com/paksociety1](https://twitter.com/paksociety1)



کی بات پر دھیان نہیں دیا اور بے زاری سے انھیں مخاطب کیا تھا۔

”ماما!“ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح ضدی اور ہٹیلتا تھا۔ اس کی بچپن سے عادت تھی وہ جب بات کرنا چاہتی یا فرمائش کرنا چاہتی تو علیزے چاہے کتنی اہم کام میں مصروف کیوں نہیں۔ وہ اسے روک کر پہلے اپنی سناتی تھی۔ علیزے جتنا بھی چڑتی اس حرکت سے عبدالبہادی کبھی بے زار نہ ہوتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ قدر کی یہ عادت بجائے چھوٹنے کے پختہ ہو گئی تھی۔

”پہلے میری بات سن لیں آپ۔“

علیزے کے ہاتھ اٹھا کر انتظار کے اشارے کو سمجھ کر وہ بدتمیزی سے چیخی۔ علیزے نے اسے خفگی سے دیکھا۔ دوسری جانب عبیر بھی اس کی آواز سن چکی تھی۔ جیسی ہنستے ہوئے کہہ گئی۔

”کوئی بات نہیں علیزے! آپ بات سن لیں ہماری گڑیا کی۔ ویسے بھی یہ اطلاع دینا تھی۔ عبدالعلی سے بات ہوئی تو شاہ نے کہا تھا آپ کی طرف کا چکر ضرور لگائے۔“

انھوں نے الوداعی کلمات ادا کر کے فون بند کر دیا۔ علیزے نے قدر کو دیکھا۔ جس کا منہ پھولا ہوا تھا۔

”ہاں بولو جان۔“ وہ مسکرا رہی تھیں۔ موڈ عبدالعلی کی آمد کے متعلق سن کر ہی فریش ہو چکا تھا۔

”نہیں آپ لوگوں کی باتیں سن لیں۔ وہ سب آپ کو مجھ سے زیادہ اہم ہیں۔“

اس نے تڑخ کے جواب دیا تھا۔ علیزے گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ کہنا چاہتی تھی یہ لوگ نہیں ہمارے اپنے ہیں۔ مگر اس کے موڈ کی مزید تباہی کے پیش نظر کچھ اور بولی تھی۔

”خوامخواہ موڈ آف نہیں کرتے ہیں بیٹے! بتاؤ کیا کہنا تھا ماما کی جان نے ماما سے۔“

انھوں نے اس کا گال سہلا کر اسے پچکارا۔ قدر نے ناراضی سے ان کا ہاتھ پرے کر دیا۔

”مجھے افسوس ہے ماما! میں آپ کی خاطر بھی یہ رشتہ قائم نہیں رکھ سکتی۔ مجھے دنیا کے سب سے بدتمیز، روکھے اور سرد آدمی سے شادی نہیں کرنی۔ چاہے آپ کچھ بھی کہیں۔“

اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں ر کے بغیر ایک جھٹکے سے مڑی تھی مگر دروازے میں ایستادہ، فل یونیفارم میں ملبوس لمبے تڑنگے یکسر انجان واجبی نوجوان کو دو بروپا کے یکدم ٹھنک گئی۔ جس کے نقوش بالکل یونانی تھے۔ اور ہیزل گرے آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری، چہرے پہ ہلکا ہلکا رداں جو اس کی دلکشی، سحر انگیزی اور وجاہت کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔

”تم کون ہو.....؟ اور یہاں تک کسے حلے آئے؟“ وہ اس کی شخصیت کے سحر سے بامشکل نکل کر یہ سوال کر سکی تھی۔

”ہو جانی.....! پہچان سکی ہیں آپ مجھے؟“ اسے، اس کے سوال کو یکسر نظر انداز کیے وہ دونوں ہانہیں پھیلائے علیزے کی جانب بڑھا تھا اور قریب جا کر اسے ساتھ لگا لیا۔

”عبدالعلی.....! میرے بیٹے! میرے پسر! واٹ اے پلیئرنٹ سر پرائز۔ میری جان تمہاری ای تو ابھی مجھے تمہارے یہاں آنے کا بتا رہی تھیں۔ تم نے اسی وقت آ کر مجھے حیران کر ڈالا ہے۔ میرے اللہ! کہیں خوشی سے میرا دل نہ رک جائے۔ کتنے پیارے ہو گئے ہو تم۔ کتنے خوبصورت اور..... اور یہ یونیفارم؟“

وہ حیران تھی۔ ششدر تھی کہ خوش تھی۔ عبدالعلی کو قطعاً سمجھ نہ لگ سکی۔ وہ بس سرشار سا اس کی محبتوں کی بارشوں میں بھیکتا رہا۔ جو کبھی اس کی پیشانی چوم رہی تھیں۔ کبھی اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ پھیر کر فوجی یونیفارم پہ خوشگوار حیرت کا اظہار کر رہی تھیں۔



تھی۔ علیزے نے کئی بار اسے اس بات پر ڈانٹا تھا کہ وہ جلد بازی ہے۔ وہ کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکی تھی۔ مگر اب اسے لگا اس میں یہ خاکی ہے۔ یہاں آج وہ جلد بازی میں بہت کچھ بنا سوچے سمجھے بول کر غلط کر چکی ہے۔ عبدالعلی کا خود کو نظر انداز کرنا اتنا نہیں کھلا تھا اسے جتنا وہ اپنا قصور اپنی غلطی سوچ رہی تھی۔ اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنے بجائے کسی اور کو حق بجانب پائے۔

جو کچھ میں نے کہا اس کے بعد علی کو مجھے ایسے ہی نظر انداز کرنا چاہیے تھا۔ دل کے اس جانب اتنے جھکاؤ یہ ہی اس کے اندر ایسا سناٹا پھیلا تھا۔ جانے کتنی دیر تک وہ یونہی ساکن بیٹھی رہی تھی کہ دروازے پر ہونے والی دستک کی آواز یہ قدرے چونکی۔

”بے بی میم آپ کو کھانے پر بلا رہی ہیں۔ سر بھی موجود ہیں۔“

ملازمہ کاموڈب لہجہ اس کی سماعتوں میں اترا۔ اس نے سر تکیے پہنچ دیا۔

”رہنے دو منتظر..... مجھے کھانا نہیں کھانا.....“ وہ حلق کے بل چیختی تھی۔ باہر خاموشی چھا گئی۔

وہ پھر اونڈھی گر کر تکیوں میں منہ گھسا کر گھٹ گھٹ کر روئے گئی تھی۔ اب کی بار دستک ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ وہ جانتی تھی۔ ماما یا پھر پاپا میں سے کوئی ہوگا، اس کے باوجود پوزیشن نہیں بدلی۔ یہاں تک کہ علیزے نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔

”قدرے! بیٹا جانی!“

”نہیں ہوں میں آپ کی کچھ بھی..... وہ آ گیا ہے نا آپ کالا ڈلا، دلار.....“ وہ یونہی پڑے پڑے چیختی۔

”ایسا نہیں کہتے میری جان! اور مہمان کو کھانے پر انتظار کرانا تو اور بھی بُری بات ہے۔“

اس نے مسکراہٹ دبا کر گہرا سانس بھرا۔

”گھر جانے کی بجائے سیدھا آپ کے پاس آ گیا میں بوجانی! وہاں خطرہ زیادہ تھا جیسی!“

اس کا انداز، کسی حد تک شریر تھا۔ علیزے خاک بھی نہیں سمجھی۔

”کیا مطلب ہے بیٹے! ارے تم بیٹھو تو۔ یہ بیگ اتارو کاندھے سے۔ اتنا وزنی..... شہرو میں پہلے تمہارے لیے کچھ منگواؤں کھانے کو۔“

اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پہ بٹھاتے ان کا ہر انداز، ان کی خوشی آشکار کرنا بلکہ چھلکا تا محسوس کر رہا تھا۔ صحیح معنوں میں پیران کے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔

”میری جان پہلے بتاتے تو سہی مجھے۔ اپنے ہاتھ سے کھانے بنانی تمہارے لیے۔“ انھوں نے پھر اس کا لاڈ اٹھایا۔ وہ نرمی سے مسکرا رہا۔

”آپ بیٹھیں تو بوجانی! میں یہاں کھانے پینے تھوڑی آیا ہوں۔ آپ سے باتیں کرنے آیا ہوں۔ اُف..... کتنے عرصے بعد دیکھ رہا ہوں آپ کو۔ لیکن قسم سے ویسی کی ویسی ہیں آپ ماشاء اللہ! جیسے اماں اور بابا جان کو لوگ میرے پیرنٹس ماننے پر تیار نہیں ہوتے بالکل یہی صورت حال ادھر ہے۔“ اس کا انداز شرارتی تھا۔ علیزے ذرا سی جھینپ گئیں۔

”بہت شریر ہو تم۔“ انھوں نے اس کے بال بکھیرے۔ دونوں اک دو بچے میں گمن مسرور تھے۔

قدر کو اپنا آپ پہلی بار اتنا فالتو، اتنا بے کار اور حقیر لگا۔ وہ وہاں سے نکلی تو آنکھوں میں آنسو پھل رہے تھے۔ وماغ بالکل ماؤف تھا۔ کمرے میں آ کر وہ اپنے بستر پر گر کر کتنی دیر خاموش آنسو بہاتی رہی تھی۔ اپنی کیفیات اسے خویش طور سمجھ نہیں آرہی تھیں۔ آیا وہ کسی بات پہ اور کیونکر پریشان ہے۔ اس کے اندر اک سناٹا اتر رہا تھا۔ وہ خود سے خفا ہو رہی



”آؤ بیٹے! طبیعت ٹھیک ہے؟“

انہوں نے کرسی چھوڑ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ اس نے محض سزہلایا اور علیزے کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اب عبدالعلی بالکل اس کے مد مقابل آ گیا تھا۔ بلیک ٹراؤزر پہ وائٹ ٹی شرٹ، اس کے اوپر سے لیڈر کی براؤن جیکٹ جس کی زپ کھلی ہوئی تھی۔ وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ اسپر یسو اور شاندار لگا اور بے نیاز اور لا تعلق بھی تو آنکھوں میں جلن بڑھنے لگی۔

”قدر سے ملے آپ بیٹے؟“ عبدالہادی کے سوال پہ قدر کی جان جل کر خاک ہوئی تھی۔ ڈش سے بریانی نکالتے اس کے ہاتھ کی گرفت چیخ پہ سخت تر ہو گئی۔

”جی انکل! بہت اچھی طرح سے تعارف ہو چکا۔“

اس جواب پر قدر نے اب کی بار نیچی نظر سے نہیں نگاہ اٹھا کر براہ راست اسے دیکھا تھا۔ وہ کڑاہی کے ڈونگے سے بہت اختصار سے سالن اپنی پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ انداز اتنا گن تھا گویا اس پل یہی سب سے اہم، خاص اور ضروری کام ہے۔ قدر نے وائٹ بھیج لیے۔ علیزے کی ساری توجہ اسی پر مرکوز تھی۔ وہ جتنے خرے کر رہا تھا۔ وہ اس قدر اُسے مختلف ڈشیز پیش کر رہی تھیں۔ ساتھ میں یہ فقرہ جھار لگا کر ’خصوصاً تمہارے لیے بنائی ہے‘... مجھے پتا ہے تمہیں پسند ہے۔“

قدر کو پھر سے اپنا نظر انداز ہونا محسوس ہوا۔ علیزے تو اسے لا کر بھولی ہی تھیں۔ عبدالہادی بھی پہلی بار گھر آنے والے داماد کے چاؤ لاڈ کرنے میں مصروف تھے۔

”ارے عبدالعلی بیٹے! بھائی کو بتا تو دیا تھا کہ ادھر ہو آپ؟ انہیں تو یہی پتا تھا کہ آپ وہاں جاؤ گے۔ منتظر ہوں گے۔ سب آپ کے بلکہ

انہوں نے پھر پچکارا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے ریشمی تراشیدہ بالوں کو سہلایا تھا۔

”مہمان کیوں انتظار کر رہا ہے۔ اتنی اہم ہرگز نہیں ہوں میں۔“ شکوہ بالآ خرزبان برآ گیا۔

علیزے اس ایک بات پہ چونکی تھیں۔ جیسی مقصد سمجھتے اسے گلے سے لگایا تھا۔

”ایسی بات کیوں سوچی ماما کی جان! آپ کے بغیر کھانا حلق سے نہیں اترے گا۔ نہ ماما کے نہ بابا کے۔ چلو اٹھو۔“

انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بستر سے اتارنا چاہا مگر وہ پھر اینٹھ گئی۔

”ٹھیک ہے پھر۔ آپ یہاں بھجوادیں مجھے کھانا۔ وہاں نہیں جاؤں گی۔“ علیزے حیران نظر آنے لگیں۔ پھر سرد آہ بھری۔

”عبدالعلی کیا سوچیں گے بیٹے!“

”جو اس کا دل کرتا ہے سوچے۔ آئی ڈونٹ کیئر!“ اس نے تشفر سے کہا تھا۔ وہ آج تک خود اپنے آگے سب کو جھکاتی آئی تھی۔ عبدالعلی ہوتا کون تھا اس کے سامنے اکرٹنے والا۔

”ایسا نہیں کرتے بیٹے! ماما اور پاپا کی خاطر آ جاؤ ٹیبل پہ۔ پلیز!“ علیزے سچی ہوئیں۔ وہ نروٹھے پن سے انہیں دیکھتی، ان کی سچی نگاہوں پر بالآ خر پکھل گئی۔ کچھ کہے بغیر بستر سے اتر کر احسان کرنے والے انداز میں جوتے پہن کر دروازے کی جانب بڑھی تھی کہ علیزے گہرا مین۔

”دوپٹہ..... دوپٹہ بیٹے!“ انہوں نے خود اس کا بیڈ پر دھرا دوپٹہ اٹھا کر اسے تھمایا۔ جو اس نے نخوت زدہ انداز میں گلے میں لٹکانے کا تکلف برتا تھا۔ علیزے اسے ٹوک کر سر پر اوڑھانا چاہتی تھیں مگر اس کے موڈ کے پیش نظر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ دونوں اسی خاموشی سے چلتی ڈائننگ ہال میں آئی تھیں۔ جہاں عبدالہادی نے ہمیشہ کا سا اس کا خیر مقدم کیا تھا۔



پریشان..... اور میری عقل دیکھو..... تمہیں دیکھ کر باقی سب بھول گیا۔“ علیزے تیز تیز بولتیں سر سننے والی ہو گئی تھیں۔ عبدالعلی بے حد نرمی سے مسکرائے گا۔

”پریشان نہ ہوں۔ میں نے اس دوران فرصت نکال کر ایک ٹیکسٹ اتباع کو کر دیا تھا۔ وہ بہت ذمہ دار ہے بتا دے گی اماں کو بھی اور امی جان کو بھی۔“

”چلو پھر ٹھیک ہے۔ مگر تم انہیں کال بھی کر لینا۔ اور سنو میں بہت دنوں تک ہرگز نہیں بھیجنے والی ہوں تمہیں۔“ مطمئن ہوتے انہوں نے گویا اس پر حق جتلا یا۔ جواب میں اس کی مسکراہٹ گہری ہونے لگی تھی۔

”دیکھ لیں بوجانی! اگر آپ فون پر بابا جانی اور اماں کا غصہ کم کر سکتی ہیں تو مجھے اعتراض نہیں۔ ورنہ انہیں منانے اور قائل کرنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ وہاں چلنا پڑے گا۔“

اس کا انداز بلیک میلنگ والا تھا۔ علیزے نے گہرا سانس بھر لیا۔ جبکہ قدر بے طرح چونک کر پھر اسے تکنے لگی تھی۔ دل عجیب انداز میں دھڑکا۔

”آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عبدالعلی بیٹے! دکھ تو انہیں ہوگا۔ ہرٹ بھی لازماً ہوں گے۔ والدین کے نزدیک بچوں کی خوشی اہم ہوا کرتی ہے اور فیصلے بھی۔ وہ اجازت دے ہی دیا کرتے ہیں چاہے کتنی ہی ناگوار بات کیوں نہ ہوں۔ مگر لا علم رکھ کر اپنے طور پر لیا گیا فیصلہ ضرور انہیں خود اپنی نظروں سے بے مایا کر جاتا ہے۔ آپ تو بہت سمجھدار بچے رہے ہو ہمیشہ..... پھر ایسا قدم کیسے اٹھالیا۔“

علیزے کے کبھے میں ہلکا سا دکھ اور تاسف و ملال تھا۔ عبدالعلی بھی قدرے شرمسار نظر آنے لگا۔ قدر کا دل..... اسے لگا وہ پاتال میں گر رہا ہے۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں چھوڑ دیا۔ مہین سی آواز گونجی۔

انگلے لمحے وہ کرسی دکھیل کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ”کیا ہوا بیٹے!“ عبدالہادی نے حیرت سے استفسار کیا۔

”کچھ نہیں۔ کھا چکی ہوں میں۔“ اس نے غصے میں علیزے کو دیکھا۔ جواب بھی متوجہ نہیں تھیں۔ اور دھپ دھپ کر وہاں سے چلی گئی۔ عبدالہادی سرد آہ بھر کے رہ گئے۔

”قدر نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا ہے علیزے! آپ انہیں یاد سے دودھ کا گلاس بھجوا دینا پلیز!“

وہ نیکپن سے ہاتھ پونچھ کر اٹھے تو علیزے کو تاکید کی تھی۔ جو ہنوز عبدالعلی سے گفت و شنید میں مگن تھیں۔ دونوں کھا کم رہے تھے، باتیں زیادہ ہو رہی تھیں۔

”ڈونٹ وری! بھیج دوں گی۔“ علیزے لمحہ بھر کو متوجہ ہوئی تھیں۔

”عبدالعلی.....! معذرت بیٹے! مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ آپ سے کل فرصت میں میٹنگ ہوگی۔“ اب وہ عبدالعلی سے مخاطب تھے۔ انداز میں شفقت بھی تھی۔ محبت بھی۔ وہ جواباً خوشدلی سے مسکرا دیا۔

”ضرور انکل! انشاء اللہ!“ انہوں نے اس کا سر تھپکا اور باہر نکل گئے۔

”قدر کیسی لگی تمہیں عبدالعلی؟“ علیزے کے ہر انداز میں شوق اشتیاق تھا۔ خوشی تھی۔ عبدالعلی یکدم سنبھل کر بیٹھ گیا۔

”جیسی میرے بچپن میں آپ لگتی تھیں۔“ وہ بہت سوچ کر بولا تھا۔ علیزے اس جواب پر سر تاپا نہال ہو کر رہ گئیں۔ مسکراہٹ سورج کی پہلی نوخیز کرن کی مانند ان کے چہرے پر اتر کر اسے مزید روشن کرنے لگی۔

”اس کا مطلب اچھی لگی تھیں..... شکر ہے



خدا کا۔“ وہ سراپا عاجز ہوئیں۔ عبدالعلی محض مسکرا دیا۔ وہ جان نہیں سسکی تھیں۔ یہ مسکراہٹ دل رکھنے والی بھی ہو سکتی ہے۔

”تمہیں وہ سب یاد ہے میرے بچے! جب تمہارا نکاح ہوا تھا قدر کے ساتھ..... آٹھ سال کے تھے تم..... اور قدر محض چند دن کی۔ عبداللہ کے پاس تو تصویریں بھی تھیں اس موقع کی..... دکھائیں نہیں تمہیں کبھی اس نے.....؟“ ان کے انداز سے، آواز سے، آنکھوں سے اشتیاق اور خوشی پھوٹی تھی۔ وہ انہیں دیکھتا رہ گیا۔

”جی..... جی دیکھ رکھی ہیں۔“ وہ کوشش کے باوجود اب مسکرا نہیں سکا۔ پھر دانستہ موضوع بدلا۔

”بوجانی! آپ کا کیا خیال ہے بابا جانی یا والدہ ہرٹ ہوں گی؟“

”آپ کا فیصلہ غلط نہیں ہے میرے بیٹے! مجھے نہیں لگتا بھائی اختلاف کریں گے۔ ہاں لاریب ضرور رکاوٹ ڈالے گی۔ مجھے یقین ہے۔ اس کی وجہ بھی کوئی اور نہیں۔ تمہاری محبت ہے۔ مگر فکر نہ کرو۔ میں غیر اور بھائی کے علاوہ بچو بھی نا تمہاری طرف واری کو..... جیت ہماری ہی ہوگی۔“

انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے ساتھ ہی تسلی سے بھی نواز دیا تھا۔ اس سے قبل کہ عبدالعلی کچھ کہتا۔ اس کا سیل فون گنگنانے لگا تھا۔ جیکٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالتے ہی وہ ایک دم الارٹ نظر آنے لگا۔

”آفیشل کال ہے بوجانی! معذرت ڈراپ نہیں کر سکتا۔“ اس نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ علیزے مسکرا دیں۔

”تم بات کرو بیٹے! میں تب تک خود چائے بنا کر لاتی ہوں تمہارے لیے۔“

انہوں نے اس کا گال سہلایا اور کرسی چھوڑ کر اٹھ گئیں۔ ملازماؤں کو ٹیبل سے برتن اٹھانے کا کہتی

ہوئیں وہ خود کچن میں آگئیں۔ تب ہی قدر بھی وندنائی ہوئی ان کے سر پہ آ کر چڑھی تھی۔

”مجھے آپ سے بات کرنی ہے ماما!“

”بولو بیٹے.....؟“ علیزے نے کیبنٹ کھول کر بہت خوبصورت سگ نکالتے ہوئے جواب دیا۔

”بتانا پسند کریں گی آپ کے لاڈلے داماد صاحب ایسا کون سا کارنامہ انجام دے کر آئے ہیں۔ جس کے بعد گھر جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ اور سب کی ناراضگی کا خطرہ لاحق ہوا پڑا ہے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی سرگرمیاں مشکوک ہیں۔ یقیناً شادی کر لی ہوگی پسند سے اور اب آپ کی سفارش.....“

”قدر.....! آہستہ بولو..... عبدالعلی نے سن لیا تو کتنی غلط بات ہوگی۔“

علیزے نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑ کر تنبیہ کے انداز میں دبایا۔ مگر وہ بجائے شرمندہ ہونے کے اور بھراٹھی۔

”ہاں تو سن لیں..... میں کون سا ڈرتی ہوں۔“ اس نے نخوت سے ہونٹ سکوڑے۔

علیزے بے زار ہوئی تھیں۔

”حد ہوتی ہے قدر کسی بھی بدگمانی کی..... بھائی اور لاریب کو بتائے بغیر آرمی جوائن کی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے جس کا تم.....“ معاوہ ایک دم زبان دبا گئیں۔ ان کی نگاہیں ساکن ہو گئی تھیں۔ قدر نے الجھ کے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور جیسے لمحے کے ہزار ویں حصے میں زمین میں گر گئی۔ آج ہی کے دن وہ دو مرتبہ اس کے نادر خیالات سے آگاہ ہو چکا تھا۔ حد تھی یعنی..... اس کا بس نہیں چلا تھا خود کہیں غائب ہو جاتے یا عبدالعلی کا سر پھاڑ دے۔

”بوجانی آپ کا گھر تو بڑا بھول بھلیاں ہیں۔ اگر ایک مہربان خاتون گائیڈ نہ کرتیں تو میں لازماً کم ہو جاتا۔“ ایک بار پھر اسے نظر انداز کیے وہ اپنی



سنا رہا تھا۔ قدر کو اپنی غلطی بھی اس کا قصور لگنے لگی۔  
 ”اگر دوسروں کی ٹوہ لیتے پھر میں گے تو ایسے ہی  
 ہوگا۔“ وہ پھنکاری مٹی اور ایک دم ہی سارا غصہ نکالا۔  
 علیزے ارے ارے ہی کرتی رہ گئیں۔

”بی بی اگر آپ راہ چلتے اپنے انتہائی ذاتی  
 معاملے ڈسکس کرتی پھر میں گی تو کوئی اپنے کان  
 بند نہیں کر سکتا۔ اور ماسٹڈاٹ..... مجھے ہرگز کسی  
 کے معاملے میں اتنی دلچسپی نہیں ہے کہ ٹوہ لینے کی  
 ضرورت پیش آئے۔ الحمد للہ یہ میری فطرت ہے  
 نہ عادت۔“

اس کا انداز جتنا سنجیدہ تھا اس سے کہیں بڑھ کر  
 مضحکہ اڑاتا لہجہ قدر کو صحیح معنوں میں آگ لگ گئی۔  
 ”دیکھیں مسٹر! آپ حد سے تجاوز کر رہے  
 ہیں۔“ انگلی اٹھا کر وہ تنبیہ کے انداز میں غرا کر  
 بولی۔ علیزے کو دونوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ جو  
 شاک کے عالم میں سلیب کا سہارا لیے کھڑی ہر لمحہ  
 بے جان ہو رہی تھی۔

”اب آپ مجھے میری حدود بتائیں گی.....“  
 عبدالعلی نے اس سے بڑھ کر غصیلے اور طنزیہ انداز میں  
 استفسار کیا تھا۔ قدر کا رنگ پھیکا پڑا۔ وہ لاجواب بھی  
 ہوئی تھی مگر ہار تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔  
 ”آپ آخر ہوتے کون ہیں مجھے یہ بتانے  
 والے کہ مجھے کب کیا کرنا چاہیے۔ میت بھولیں یہ گھر  
 میرا ہے۔“ اب کے وہ جتلا کر بولی تھی۔ انداز میں  
 تقافر اور غرور بھرا ہوا تھا۔ عبدالعلی نے اب کے اسے  
 حیرانگی سے دیکھا۔ پھر سروتا اثرات کے ساتھ عجیب  
 انداز میں ہنسا۔

”آپ کو کس نے کہا میں اس گھریا پھر آپ پر  
 کسی استحقاق کا دعویٰ کرنے والا ہوں بی بی!“  
 اس کا لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ قدر سن پڑ گئی۔ انداز  
 میں اتنی تضحیک محسوس ہوئی تھی کہ اسے اپنا وجود  
 پر خوں کی صورت اڑتا بکھرتا ہوا لگنے لگا۔ اس نے

پھیکے پڑتے چہرے کے ساتھ علیزے کو شکی نظروں  
 سے دیکھنا چاہا تھا جو اپنے لاڈلے کی اتنی فضول  
 گفتگو کس درجہ تحمل سے سن رہی تھیں۔ مگر آنکھوں  
 میں اترتی دھند نے ہر منظر غیر واضح کر دیا تھا تو  
 کچھ کہے بغیر منہ پر ہاتھ رکھے پلٹ کر کچن سے  
 نکل کر بھاگ گئی۔ عبدالعلی سر جھٹک کر علیزے کی  
 جانب مڑا تو اسے فق چہرے کے ساتھ سرتا پالرز تا  
 پا کر بے ساختہ گھبرا گیا۔

”بوجانی!..... آریو او کے.....؟“ اس کے  
 لہجے میں کتنی محبت، کتنی تشویش تھی۔  
 علیزے کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ لگ کر  
 سسک پڑی۔ وہ اور بوکھلایا۔

”کیا ہو گیا بوجانی! خود کو سنبھالیں پلیز!“ وہ  
 انہیں بازو کے حلقے میں لے کر تھکنے لگا۔

”میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں عبدالعلی!  
 اور..... اور میری قدر..... میرا اثاثہ ہے..... یہ میری  
 ضد تھی کہ تم دونوں کو اس رشتے میں باندھ دیا تھا۔  
 حالانکہ سب سمجھتے تھے..... ایسا نہیں ہونا چاہیے۔  
 بڑے ہونے پر خیالات بدل سکتے ہیں.....  
 اور..... اور وہی ہوا۔“

وہ زار و قطار رو رہی تھیں۔ عبدالعلی کو انہیں  
 سنبھالنا چپ کرانا دشوار ہونے لگا۔ اس کے چہرے  
 پر بے حد گھبراہٹ تھی۔ وہ جیسے کسی کشن کشکش سے  
 دوچار تھا۔

”آئیے اندر چلتے ہیں بوجانی!“  
 وہ اسے یونہی سہارا دیے اس کے کمرے میں  
 لے آیا۔ علیزے کا کمزور دل خوف و خدشات لیے  
 لرزتا رہا۔ ہر لمحہ ڈوبتا رہا۔

”مجھے لٹا دو بیٹی!“ وہ بے حد نقاہت محسوس  
 کرنے لگی تھی۔ جیسے لمحوں میں عبدالعلی نے سنبھل کر  
 اسے بستر پر لٹایا پشت پر تکیے اور کیشن رکھے اور کمرے  
 پھیلا دیا۔ خود اس کا ہاتھ پکڑ کر پہلو میں ٹک گیا۔



”آپ یہ کبھی نہیں سوچے گا جو جانی کہ آپ کا یہ بیٹا آپ کو کبھی ہرٹ کرے گا یا مایوس کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ ایسا وقت آنے سے قبل مجھے موت سے ہمکنار کر دے۔“

وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ قدر نے تڑپ کے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔

”اللہ نہ کرے۔ اللہ نہ کرے میرے جگر گوشے! تمہیں خدا ہماری بھی عمر لگا دے۔ آمین۔“ وہ سکی۔ عبدالعلی نے اس کا ہاتھ لبوں سے چھولیا۔

”آپ کی محبت میرے لیے ہمیشہ فخر کا باعث رہی ہے جو جانی! جب میں چھوٹا تھا۔ اسکول میں کلاس فیلوز سے بابا جانی اور اماں کی نہیں آپ کی تعریفیں کیا کرتا تھا۔ میرے لیے یہ بات بے حد اعزاز کا باعث تھی کہ میری بو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں۔ میں آپ کے کسی فیصلے سے اختلاف کا تصور بھی نہیں رکھتا۔ ہاں قدر کے رویے نے مجھے ضرور اپ سیٹ کیا ہے۔ آپ کی محبتوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں محترمہ! جو جانی.....!“

میں نے اب ہی اسے دیکھا ہے۔ اللہ گواہ ہے۔ وہ مجھے بُری نہیں لگیں۔ مگر جو جانی.....! میں چاہتا ہوں وہ مجھے اچھی لگیں۔ صرف اچھی نہیں۔ میں ان سے محبت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تاکہ ہماری زندگی بہتر نہیں بہترین گزر سکے۔ آپ کا وہ فیصلہ آسودگی سے بھی ہمکنار کر سکتا ہے سب کو اگر جو قدر میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ آپ چاہیں گی تاکہ وہ اچھی والی بچی بن جائیں.....؟“

وہ رک کر انھیں تائیدی نظروں سے تکتے لگا۔ علیزے جو حیران گم صم اسے سن رہی تھیں۔ ٹھٹکیں اور اسی بے خودی میں سرکواثبات میں جنبش دی تھی۔ عبدالعلی ان کے انداز پر مسکرایا۔

”تو پھر مجھے وہ کرنے دیں جو میں کرتا ہوں۔ میرے کسی بھی عمل سے کبھی بھی آپ نے پریشان

نہیں ہونا۔ کریں پراس۔“ وہ اپنی شفاف چوڑی ہتھیلی پھیلا چکا تھا ان کے سامنے..... علیزے نے اس کا ہاتھ نہیں تھا ما کہدیوں کے بل اٹھتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔

”مجھے تم پہ بھروسہ ہی نہیں ہے میرے بچے! مجھے تم پہ فخر بھی ہے۔“

ان کے انداز میں، ان کی آنکھوں میں محبت کے سوئے پھوٹ رہے تھے۔ انھوں نے وفور جذبات سے معمور ہوتے اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ عبدالعلی ہلکا پھلکا ہو کر مسکرایا۔

☆☆.....☆☆

سامنے بل کھاتی سڑک تھی۔ دائیں جانب آسمان چھونے پہاڑ اور بائیں جانب گہری کھائیاں اور آڑی ترچھی ندی جو اتنی بلندی سے دیکھنے پہ ایک لکیر کی صورت نظر آتی تھیں۔ آسمان نیلا تھا۔ چمکیلا بلور جیسا مگر درخت جو بے حد گھنے تھے۔ اس کے اجالے کے راستے میں حائل تھے۔ کہ سورج اپنی روشنی زمین تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اس کے ارد گرد بادلوں جیسی تاریکی تھی۔ بس کہیں کوئی ڈھیٹ کرن پتوں پر ناچ اٹھتی تھی۔ وہ کل سے آیا ہوا تھا۔ آج گھر سے باہر نکلا تھا۔ تو بھی علیزے اس کے لیے پریشان تھی۔

”اکیلے مت جاؤ بیٹے! راستے بہت خراب ہیں اور تم عادی نہیں ہو۔ مجھے فکر رہے گی۔“ جو ابا وہ آہستگی سے مسکرا دیا تھا۔

”کم آن جو جانی! فوجی بندہ ہوں! ٹریننگ کے ایسے ایسے مراحل سے گزرا ہوں کہ آپ بس سوچ ہی سکتی ہیں۔ ہر طرح کے راستوں پہ چاہے کتنے ہی دشوار کیوں نہ ہوں بے خطر بھاگ سکتا ہوں۔ سوؤ ڈونٹ وری۔“

اس کی تسلی کے باوجود علیزے نے اس پر آیت



الکری پڑھ کر دم کیے بغیر اسے باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ وہ ان کی محبتوں کو سوچ کر مسکرایا۔ اور سبزے کی باس اور جنگلی پھولوں کی مہک جو شام جہاں کو منعطر کر رہی تھی لمبا سانس کھینچ کر پھیپھڑوں میں اتارنے لگا۔ یہاں سبزے کا رنگ اور ہی تھا۔ اور عجیب ہول جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بلکہ پھولوں کے رنگ بھی نئے تھے۔

سرخ اس قدر جو شیلا

پیلا اتنا امید بھرا..... سکون آمیز

گلابی خوشی کے احساس سے ہمکنار کرتا ہوا

اور سفید نور جیسا پاکیزہ

خوشی کا احساس اس کے رگ و پے میں سمارہا تھا۔ اسے یقین آنے لگا۔ مدھم اور ماحول کی خوبصورتی مزاج پر اثر انداز ہوتی ہے۔ معاوہ یکدم چونکا۔ خوفناک قسم کی پہاڑی کے سرے پر سے کسی آئیل کی جھلک نظر آتی تھی۔ وہ یکدم ٹھٹکا۔ وہ جو کوئی بھی تھی۔ اس کا انداز ہرگز بھی نارمل نہیں لگتا تھا۔ اس کے اندر جیسے کسی نے پارہ بھر دیا۔ ورے اور نالے پھلانگتا اگلے لمحے وہ اس سمت بھاگ رہا تھا۔ اس کے پیروں تلے آتے چھوٹے پتھر اور کنکر پھسل پھسل کر لڑھکتے ڈھلوان کی جانب تیزی سے گر رہے تھے۔ اپنے تئیں اس نے کوشش کی تھی۔ چپ چاپ جا کر اسے پکڑ لے وہ جو بھی تھی مگر اس کے قدموں کی آہٹ نے اس کی آمد کا بھید کھول دیا تھا۔ چونک کر تیزی سے گردان موڑنے والی لڑکی کا چہرہ دیکھ کر عبدالعلی کو شاک لگا تھا۔

”تم.....؟“ وہ کسی طرح بھی اپنی حیرت پر قابو نہیں رکھ سکا۔

”خبردار میرے قریب مت آنا تم..... سنا تم نے؟“ وہ بے ساختہ چیخی اور چٹان کے سرے کی جانب بھاگی۔ عبدالعلی چیتے کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اگلے لمحے جب وہ نیچے چھلانگ لگانے والی

تھی عبدالعلی نے جو ذقذق بھر کے اسے پشت سے اپنے بازوؤں کے سخت فولادی شکنجے میں کس لیا تھا۔ مگر دونوں اس طرح گرے تھے کہ ذرا سی بے احتیاطی دونوں کو ہی ہزاروں فٹ گہری خوفناک چوٹی میں گرا سکتی تھی۔ قدر کے دائیں جانب نگاہ ڈالتے ہی اوسان خطا ہو گئے تھے۔ خوف نے اس کی قوت گویائی بھی سلب کر ڈالی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عبدالعلی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ عبدالعلی کے اپنے حواس بھی ہرگز سلامت نہیں تھے۔ اس نے بازو کے حلقے میں اسے دبوچ کر خود کو بائیں جانب لڑھکا دیا۔ دونوں ہی پھسلتے ہوئے نیچے گرنے لگے۔ قدر کا سکتہ ٹوٹا تھا اور اگلے لمحے اس کی دہشت زدہ، خوفزدہ چیخوں سے ماحول لرز اٹھا تھا۔ عبدالعلی نے خود کو روکنے کی خاطر بازو پھیلا کر قدرے ابھری ہوئی چٹان کا سہارا لیا تھا۔ ورنہ اسی صورت پھسلتے رہنے سے ان کے جسم بہر حال ان سفاک چٹانوں کے نوکیلے سروں سے ٹکراتے بالآخر پاش پاش ہو جاتے۔ عبدالعلی کی کوشش کارگر ثابت ہوئی تھی۔ لڑھکنے کا یہ سلسلہ ختم گیا تھا۔ اب صورت حال یہ تھی کہ عبدالعلی اوپر اور وہ پوری اس کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ عبدالعلی حواس بحال ہوتے ہی سنبھل کر تیزی سے اٹھا۔ اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگا۔ قدر اس قابل بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ اس کے اعصاب اور حواسوں پہ ہنوز خوف و ہراس کا غلبہ تھا۔

”کیا میں پوچھ سکتا ہوں اس حماقت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ زندگی آپ کے نزدیک اتنی ہی حقیر اور بے مایا ہے کہ کسی بھی غیر مطلق شخص کی معمولی ڈانٹ ڈپٹ پر اسے یوں لٹانے پر تل جائیں۔“

عبدالعلی کا موڈ بے حد خراب ہو چکا تھا۔ دونوں کے حلیے بگڑ چکے تھے۔ لباس جگہ جگہ سے پھٹے اور جسم پر زخم اور لاتعداد خراشیں تھیں۔ قدر کی چادر اللہ



جانے کہاں رہ گئی تھیں۔ بھرے ہوئے بالوں اور پیشانی سے بہتے خون کے ساتھ وہ اسے ایک آنکھ نہیں بھائی۔ اس پر اس کا سسکنا رونا۔ وہ ناک تک بے زار ہو چکا تھا۔ اس کی چادر کی تلاش میں دور تک نگاہ دوڑانی مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کاندھوں پر ڈال دی۔

”اگر یہ جوش مدھم بڑ گیا ہے تو گھر چلیں؟“ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ صاف لگتا تھا اس کے اعصاب کس درجہ مضبوط ہیں۔ اتنے کڑے مرحلے سے گزر کر موت کو اتنے قریب سے دیکھ کر بھی وہ نارمل انداز میں بات چیت کر رہا تھا۔ قدر جو ابھی تک اس حادثے اور افسوس کی زد پر تھی اس کی جلی کٹی طنزیہ باتوں پر جھلس کر رہ گئی۔

”کیوں بچایا مجھے..... کیوں پکڑا.....“ وہ یونہی روتے ہوئے چیخی اور اس کی جیکٹ اس غصیلے انداز میں اتار کر پھینکی۔

”اپنی تصحیح کر لیں بی بی! بچایا آپ کو اللہ نے ہے۔ میں اتنی ہمت نہیں رکھتا۔ ہاں پکڑا ضرور ہے۔ تو اپنے لیے نہیں۔ جو جانی کا خیال آ گیا تھا۔ لیکن آپ اب یہ شوق پورا کر سکتی ہیں۔ میں ہرگز دوبارہ ایسا ارادہ نہیں رکھتا۔“

اس نے برہمی سے جتلا یا تھا۔ قدر نے غصے میں منہ پھیر لیا تھا۔ اور اپنے ہاتھوں، کلائیوں پر آنے والی خراشوں کو سہلانے لگی۔

”اٹھیے محترمہ! میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔“ وہ قدرے خفا ہوا۔ قدر خلاف توقع و امید اٹھ کھڑی ہوئی۔ عبدالعلی نے شکر کا سانس بھرا تھا۔ اور جھک کر اس کی پھینکی جیکٹ اٹھالی۔

”میں جانتا ہوں آپ مجھے پسند نہیں کرتیں۔ لیکن اس وقت یہ کڑوا گھونٹ بھر لیں۔ اس لیے بھی کہ آپ کا حلیہ اس قابل نہیں ہے۔“

اس نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہنے جیکٹ پھر

اس کو پہنادی۔ اور قدر جو ہمیشہ سے اس احساس سے بے نیاز تھی۔ اس کی بات پر سرتاپا جھلس کر رہ گئی۔ اس کی پلکیں اٹھ نہیں سکی تھیں۔

”دوپٹہ عورت کی عزت کی علامت ہوتا ہے۔“

اگر کوئی عورت خود اس عزت کو سر سے اتار دے تو پھر کوئی بھی مرد اسے عزت کی نگاہ سے نہیں نواز سکتا۔“

وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ مگر مخاطب وہی تھی۔

قدر کو زندگی میں کبھی اتنی خفت محسوس نہیں ہوئی جتنی

اس پل ہوئی تھی۔ بے بسی، شرمندگی اور دکھ کے

شدید احساس سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ سر

کچھ اور جھکا کر وہ تیز قدم اٹھانے لگی تھی۔

☆.....☆.....☆

وہ دن اور اگلا بھی پورا دن وہ اپنے کمرے سے

نہیں نکلی۔ یہ سچ تھا اس میں عبدالعلی کا سامنا کرنے

کی تاب نہیں تھی۔ وہ صرف اس لیے نہیں علیزے اور

عبدالہادی سے بھی چھپی پھرتی تھی۔ بھلا کیا جواز

دیتی وہ انھیں ان چوٹوں کا جو وہ اس حماقت کے نتیجے

میں لگوا چکی تھی۔ اس نے نم پلکیں جھپکیں اور کروٹ

بدل لی۔ مگر سکون نہیں تھا۔ ذہن ہزار کوشش کے

باوجود ان سحر آفرین لمحوں سے نکل نہیں پاتا تھا۔

جب عبدالعلی کے ابلتے ہوئے پُرتیش لمس سے زندگی

کی حرارت اس کے جسم و جان میں اتر کر ہلچل مچانے

لگی تھی اور زندگی کے سب سے خوبصورت احساس

سے ہمکنار کر گئی تھی۔ اس لمس نے ہی تو احساس

زندگی سے واقفیت دی تھی۔ ورنہ وہم و خیال تو سراسر

نا آسودگی کے سوا کچھ نہیں۔ ماؤی اور اسباب و علت

کی دنیا میں لمس کا احساس ہی زندگی کی موجودگی کا

یقین ہے۔ وہ جو اس کی شخصیت کے سحر سے خود کو

نکال لینے کی جدوجہد میں مشغول تھی۔ جیسے کسی ان

دیکھے جال میں پھنس گئی۔ یہ احساس کیسا تھا سرخروئی

و دلکشی لیے مگر صرف اس کے لیے۔ دوسری جانب

تو غفلت و بے نیازی کا وہی عالم تھا۔ اس کا دل سسکنے



لگا..... تڑپنے پھلنے لگا۔

محبت کینسر ہوتی ہے۔ جسم میں گھس جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے بے خبری میں جگہ بناتی ہے۔ تب پتا چلتا ہے۔ جب پورا وجود کینسر زدہ ہو جاتا ہے۔ لا علاج۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی، وہ کب اس کی اتنی اسپر ہوئی۔ اسے اپنے اندر پلتے ناسور کی خبر ہوئی تو جیسے بالکل لاچار تھی آگے۔ بس یہ معلوم تھا۔ اس ایک شخص کے قدموں کی چاپ وہ اتنے شور میں بھی سن سکتی ہے۔ یہ سب کیا ہوا تھا اور کیونکر..... اسے یہی خیال دکھ کے سمندروں میں غوطہ زن کیے جاتا تھا۔ کمرے کے باہر قدموں کی چاپ ابھری اور پھر کوئی دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ قدر نے چونک کر گردن اٹھائی تھی۔ اور اس دشمن جاں کور و پرو پا کے ششدر ہوتی بے اختیار اٹھ بیٹھی۔ جو یکدم ٹھٹکا تھا اور خود اس سے بڑھ کر حق وق نظر آنے لگا۔

”آآآ.....؟“ اس کی حیرت تمام نہ ہوتی تھی۔ یا خوشگواریت کا غلبہ چھا رہا تھا۔ عبدالعلی نے ان باریکیوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں سمجھی اور اٹنے قدموں پلٹتے ہوئے بے ساختہ قسم کی سنجیدگی سمیت وضاحت کر رہا تھا۔

”سوزی..... بائے مس ٹیک ہوا یہ۔ اچھولی آپ کے گھر کی لوکیشن ہی ایسی ہے کہ مجھے یاد نہیں رہ پاتی..... راہداریاں کمرے سب ہی ایک جیسے لگتے ہیں۔“

وہ دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ قدر کچھ نہیں بولی۔ بس اسے تکتی رہی۔ وہ ٹریک سوٹ میں تھا۔ بال پیشانی پہ بکھرے ہوئے اور پسینے سے تر تر۔

”اس وضاحت کی اتنی ضرورت نہیں تھی۔“

”اس اوکے“ قدر کی آہستگی سے کہنے پہ عبدالعلی جو دروازہ کھول چکا تھا۔ بے ساختہ قسم کی حیرانی سمیت پلٹا۔

وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مگر عبدالعلی کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ گلابی نائٹی میں بالوں کو دونوں ہاتھ اٹھا کر سمیٹ کر جوڑے کی شکل دیتی ہوئی وہ اس لباس کی بے باکی اور گہرے گلے کے گھاٹ سے بے نیاز دکھائی دیتی تھی۔ عبدالعلی کو ناگواری کسی برقی رو کی مانند اپنے وجود میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ نگاہ کا زاویہ وہ لمحے کے ہزاروں حصے میں بدل چکا تھا۔

”یہ معذرت اور وضاحت میری ذمہ داری تھی۔ بی کوز میں کبھی بھی نہیں پسند کرتا کہ کوئی میرے متعلق معمولی سا بھی بُرا گمان رکھے۔“

اس کے لہجے کی ناگواری اور سر و مہری بے حد واضح تھی۔ جسے قدر نے شاید محسوس نہیں کیا۔ اسے دروازے سے باہر قدم رکھتے پا کر وہ پھر تیزی سے گویا ہوئی تھی۔

”آپ کی ایک امانت تھی میرے پاس! وہ لیتے جائیے۔“ وہ وارڈروب کی جانب جاتے ہوئے بولی۔

”یہ بات اتنی اہم ہرگز نہیں محترمہ! آئی وٹس کہ آپ ان باتوں کی جانب توجہ دے سکیں جو زندگی میں لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ چلتا ہوں۔“

اس سے نگاہ چار کیے بنا وہ یونہی رخ موڑے، بے مہر سنجیدگی سے کہتا دہلیز پار کر گیا تھا۔ قدر اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر سر جھٹکا اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔

☆.....☆.....☆

فون کی بیل تسلسل سے بج رہی تھی۔ اتباع جو وارڈروب کی صفائی میں مصروف تھی۔ شرٹ ہاتھ میں لیے بیل فون تک آئی۔ اسکرین پر پررہ کا نمبر بلنک کرتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔

”اسلام علیکم بوجان!“

اس نے ول سے سلامتی بھیجی تھی۔ موڈ خود بخود

خوشگواریت سمیٹ لایا تھا۔

”وعلیکم سلام! مگر بوجان! صرف جان بہت



مناسب رہے گا۔“ بھاری بھر کم آواز..... شرارت پٹکا تا ہشاش بشاش لہجہ..... اتباع نے بوکھلا کر سیل فون کان سے ہٹا کر اسکرین کو گھورا۔ نمبر بہر حال بریرہ کا ہی تھا۔ وہ ہیکار کا سی کھڑی تھی۔ عبداللہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ جانتی تھی کئی برسوں سے بغرض تعلیم انگلینڈ میں مقیم تھا۔ کمپیوٹر کی دنیا میں جانے کون کون سے کارنامے انجام دے چکا تھا۔ اور کتنی ڈگریاں حاصل کر چکا تھا۔ اس نے متعدد بار اتباع سے رابطہ کرنا چاہا تھا۔ مگر اتباع کے گریز کی بدولت یہ کوشش کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی تھی۔

”اتباع..... اتباع پلیز کال ڈسکنکٹ نہ کیجیے گا۔ آپ سن رہی ہیں؟“ وہ پکار رہا تھا۔ اتباع نے چاروٹا چار فون پھر کان سے لگایا۔

”مم..... میں اماں سے بات کراتی ہوں آپ کی۔“ وہ گڑ بڑائی۔ رشتے کی نزاکت کا خیال تھا۔ جب ہی رابطہ کاٹ بھی نہیں سکی۔

”نہیں اتباع! مجھے جو سے نہیں آپ سے بات کرنی ہے۔“ اب اس کے اس لہجہ جتلاتا ہوا خفگی آمیز تھا۔ اتباع کا دل دھک سے رہ گیا۔

”ک..... کیا بات.....؟“ اس کا سانس اس کے سینے میں اٹک گیا گویا۔

”میں نے امن سے کہا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے..... مگر معلوم ہوا آپ بات نہیں کرنا چاہتیں..... وائے اتباع.....؟ اس کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ وہ حواس باختہ کھڑی رہ گئی۔

”بولو اتباع۔“ اب کے وہ اچھا خاصا خفا ہوا تھا۔ اتباع اس کی خفگی کے خیال سے ہراساں ہوئی۔

”آپ جانتی ہیں اتباع! آپ نے ہمیشہ سے مجھے اپنا اسیر کر رکھا ہے۔ میں آپ کے بغیر یہاں کیسے وقت گزار رہا ہوں آپ کبھی اندازہ نہیں کر سکتیں۔“

اس کا لہجہ گھمبیر تھا مگر بے باک بھی۔ وہ کتنی بے

نیازی سے اسے اتنی فضول بات بتا رہا تھا۔ اتباع سر تا پا کانپ اٹھی۔ فون کان سے ہٹا کر اس نے لرزتی انگلیوں سے رابطہ منقطع کیا اور موبائل بستر پہ پھینک کر خود باہر بھاگ گئی۔ اس کا دل اتنی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ گویا کسی بھی پل پسلیاں توڑ کر باہر آگرے گا۔ وہ کچن میں آئی تب بھی اس کا چہرہ متمتا رہا تھا۔ عمیر نے اسے حیرانی سے دیکھا تھا اور سلاڈ کا شاترک کر کے تشویش ظاہر کی۔

”خیریت بیٹے! طبیعت ٹھیک ہے؟“ اتباع نے چونک کر انھیں دیکھا۔ گھبراہٹ یکلخت کچھ اور بڑھ گئی۔ اس نے بے اختیار نظریں چرائیں۔

”کچھ نہیں امی جان! لائیں یہ میں کر رہی ہوں۔ روٹی بھی ڈال لوں گی۔ آپ ذرا آرام کر لیں۔“

”ارے نہیں بیٹے! یہ سب کام تو لا ریب نے ہی کیے ہیں۔ میں نماز پڑھ کر ابھی آئی ہوں کچن میں۔“

انھوں نے محبت سے جواب دیتے اس کا گال سہلایا۔ وہ سر ہلا کر فریج سے دہی کا باؤل نکال کر راستہ بنانے کی تیاری کرنے لگی۔

”یہ بھائی جان تو وہاں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ لگتا ہے دل لگ گیا ہے وہاں۔“

موضوع بدلنے کی غرض سے وہ دانستہ مسکرا کر بولی تھی۔ عمیر کے چہرے پر محبت کا نرم تاثر عبدالعلی کے تذکرے پہ گہرا ہونے لگا۔

”پہلی بار گیا ہے وہاں۔ قدر کو بھی اب ہی دیکھے گا بڑے ہونے پہ۔ اللہ کرے واقعی دل لگ جائے دونوں کا۔ ایک دوسرے سے۔“ ان کے انداز میں محبت تھی۔ اتباع شرارت بھرے انداز میں مسکرانے لگی۔

”فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے امی جان! نہ تو بھائی جان میں کوئی کمی ہے۔ نہ ہی قدر ایسی ہے کہ اسے ٹھکرایا جائے۔“ اس کا لہجہ پریقین تھا۔ عمیر نے



دل ہی دل میں 'آمین' کہا تھا۔

”بھائی جان.....! آپ وہیں کے ہو گئے ہیں

..... واپس کیوں نہیں آ جاتے؟“

وہ چھوٹے ہی شوخی سے بولی تھی۔ دوسری

جانب چند ثانیوں کو خاموشی چھا گئی۔

”یہ مختلف اور فضول رشتوں کی بیخ ضرور لگانی

ہوتی ہے آپ نے مزا کر کر کرنے کو..... صرف

جان کہیں گی تو ہم بھی تھوڑا سا خوش ہو جائیں گے۔

اور سنیں محترمہ ہم کہیں کے نہیں ہوئے مانسوائے آپ

کے اور واپس تو آ گئے ہیں۔ مگر آپ کا دیدار پھر بھی

نصیب نہیں ہو رہا۔“

دوسری جانب بلا کی شوخی اور شرارت، برجستگی

اور شکایت کا حسین امتزاج تھا۔ وہ دھک سے رہ

گئی۔ اس نے گھبرا کر اس قدر غیر یقینی سے

لا ریب کو دیکھا۔ جو مسکراتی نظروں سے اسے ہی

دیکھ رہی تھیں۔

”کرونا بات بیٹے!“ ان کی مسکان گہری ہوئی

اور اس کا رنگ فق۔

”اماں..... یہ..... یہ عبداللہ ہیں۔ بھائی

نہیں۔“ وہ بامشکل کہہ پائی تھی۔ لابی پلکیں دہکتے

گالوں پر لرزائی تھیں۔

”آئی نو بیٹا! جانتی ہوں..... آپ بات

کر..... وہ شکوہ کر رہا ہے۔ آپ اس سے بات

کر رہیں۔“ لا ریب کے لہجے میں اصرار بھی تھا۔

زری و محبت بھی۔ اتباع کا دل عجیب سے غبار سے

بھرنے لگا۔

”میں نہیں کر سکتی ہوں اماں! مجھے شرم آرہی

ہے۔ مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا۔“

اس نے فون اٹھیں واپس کیا اور خود باہر چلی

گئی تھی۔ اسے خبر نہیں تھی۔ انھوں نے عبداللہ کو

کیسے قائل کیا۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس

کروٹیں لے رہا تھا۔ ان کی تربیت جس انداز میں

ہوئی تھی۔ اس میں اس قسم کی باتوں کی نہ خواہش

”عبدالعلی بہت سوبر اور میچور ہیں نیچروائز اور

قدر تھوڑی امپچور ہے۔ مگر اللہ بہتر کرے گا انشاء

اللہ!“ وہ شفقت بھرے انداز میں دونوں کا تجزیہ

کر رہی تھیں۔

”بس ٹھیک ہے۔ پھر ذرا جلدی سے ان کی شادی

کر دیتے گا۔ تاکہ گھر میں کچھ تو خوشگوار تبدیلی آئے۔“

مسکرا مسکرا کر کہتی وہ ہزا دھنیا کاٹ رہی تھی۔ غیر

نے سراٹھا کر اسے قدرے شرارت سے دیکھا تھا۔

”عبدالعلی شاید اتنی جلدی شادی پر آمادہ نہ

ہوں۔ البتہ تمہاری کرنے میں حرج نہیں۔ عبداللہ

بھی آگئے ہیں اب تو پاکستان..... اتباع کے ہاتھ

سے چھری چھوٹ گئی۔ اس نے سٹپٹا کر غیر کو دیکھا

تھا۔ جو اسے کام میں مگن تھیں۔ اس نے ہونٹ

بھینچ کر اپنی کیفیت پہ قابو پانا چاہا مگر دل اپنی رفتار

بھول رہا تھا۔

”مم..... میں اماں سے پوچھتی ہوں..... وہ

جائے نہیں گی؟“ اسے اور کچھ نہ سوچا تو گھبرا کر

کہتی کچن سے نکل گئی۔ لا ریب ہال کمرے میں

تھیں۔ سیل فون کان سے لگا ہوا تھا۔ گفتگو کا جوش

و خروش دوسری جانب کسی خاص اور اہم شخصیت کی

گواہی دیتی تھی۔

”ارے میری جان! میرے بیٹے! ایسا کیوں

سوچتے ہو۔ میں نے کہا ناں..... تمہارا خیال بالکل

غلط ہے۔ ایسا بھلا ممکن ہے؟

”اماں.....“ وہ ان کے سامنے آگئی۔

”کون ہیں.....؟ بھائی جان.....؟“ اس نے

سرگوشی میں پوچھا۔

”نہیں..... نہیں بیٹے! یہ اتباع آگئی ہے۔ لو

اس سے خود بات کرو۔“ لا ریب نے مسکراتے

ہوئے فون اسے تھمایا۔ جسے اشتیاق آمیز انداز میں

لیتے ہی اس نے کان سے لگا لیا تھا۔



رہی تھی نہ ہی ضرورت عبداللہ اس کا منگینتر ہے۔ یہ بات وہ ایک عرصے سے جانتی تھی۔ ہر خاص و عام موقع پر بریرہ اور ہارون کا اسے اہمیت و فوقیت دینا، بیس قیمت تحائف سے نوازنا..... امن کا اور عبدالاحد کا با تہ بے بات عبداللہ کے حوالے سے اسے چھیڑنا اسے کبھی بھی برا نہیں لگتا تھا۔ اچھا لگتا تھا مگر جب امن نے اسے یکے بعد دیگرے عبداللہ کے بھیجے ہوئے تحائف یعنی سیل فون اور لیپ ٹاپ دینے چاہے تو اس نے لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔

”مگر کیوں اتباع! اس میں بھلا کیا حرج ہے؟“ امن نے بھرپور احتجاج کیا تھا۔ حالانکہ اتباع اور امن کی سوچوں میں معمولی سا بھی فرق نہیں تھا۔ اتباع اگر عبدالغنی کی بیٹی تھی۔ تو امن بریرہ کی آغوش میں پلی بڑھی اور جوان ہوئی تھی۔ اس کے خیالات سوچ اور عمل سے بریرہ کی بردباری اور اخلاص جھلکتا تھا۔ وہ بریرہ کا دوسرا عکس تھی۔ مگر شاید یہاں بھائی کی دل آزاری کے خیال سے اسے قائل کرنے میں لگ گئی تھی۔

”حرج ہے امن! بہت حرج ہے۔ انہیں قبول کرنے کا مطلب ہی یہی ہوگا کہ میں نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کو قبول کیا ہے۔ معذرت..... میں نہ تو ان سے فون پر لمبی لمبی گفتگو کر سکتی ہوں۔ نہ ہی اسکا پ پے آن لائن ہوں گی۔ وجہ تم جانتی ہو۔ سو مجھے سمجھانے کی بجائے یہ بات اپنے بھائی کو سمجھا دینا۔ اگر وہ اس رنگ میں نہ رنگ چکے ہوں گے تو یقیناً قائل ہو جائیں گے۔“

امن خاموش ہو گئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے عبداللہ کو کیسے اور کن لفظوں میں اس کی بات پہنچائی تھی کہ عبداللہ اس سے بات کرنے کو چل اٹھا تھا۔ مگر اتباع نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ اس کے بار بار نمبر ٹرائی کرنے پر اتباع نے اپنا فون بند کر دیا

تھا۔ اگلے دن اس نے موبائل آن کیا تو عبداللہ کا پیج اس کا منتظر تھا۔

”آپ صرف میری فیاسی نہیں ہیں اتباع! آپ میری کزن بھی ہیں۔ ہمارا ڈبل بھی نہیں ٹرپل رشتہ ہے۔ کیسے انور کر سکتی ہیں مجھے۔“

اتباع گہرا سانس بھر کے رہ گئی پھر کچھ سوچ کر اس نے ایک میسج اسے ٹاپ کر کے بھیج دیا تھا۔

”بات آپ ان رشتوں کی نہ کریں۔ میں اللہ کی مقررہ حدود کو نہیں پھلانگ سکتی۔ منع کرنے کا سبب اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ جائیں گے۔“

اسی لمحے اسکرین عبداللہ کے پیغام سے پھر روشن ہو گئی تھی۔ وہ حیران رہ گئی اتنی جلدی جواب یہ اس نے اسکرین پہ لہراتے خط کے لفافے کو کلک کیا۔ میسج اوپن ہو گیا تھا۔

”آپ بہت ظالم ہیں اتباع! خیر یہ حساب کتاب بعد کے لیے رکھ چھوڑتا ہوں۔ فی الحال آپ کی خواہش کا احترام کر رہا ہوں۔ خوش رہیے۔“

اتباع نے اگلے لمحے میسج ڈیلیٹ کر ڈالا۔ اس کے جسم کا سارا خون اچھل کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ جیسے اسے عبداللہ کی یہ بے باکی بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ اس کے بعد اس کی جانب سے خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ خود دوبارہ کبھی اس سے مخاطب نہیں ہوا۔ البتہ لاریب، بریرہ یا پھر امن کے ذریعے اپنی بے قراری یا کوئی بھی شوخ و شنگ فقرہ اس تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ جسے ایک بار امن نے اس سے ایک شرارت سے کہا تھا۔

”بھائی کہہ رہے ہیں اتباع! وہ تمہاری پابندیوں کی وجہ سے پردیس میں بے حد روکھی اور بے رونق زندگی گزار رہے ہیں۔ جس کا پورا پورا حساب تم سے آ کر ضرور کریں گے۔ اور تب تم



کچھ نہ کر سکو گی۔“ اور وہ اتنی شرمسار ہوئی تھی کہ کتنے دن اس سے امن سے بھی ڈھنگ سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ بلکہ وہ الٹا اسی سے الجھ گئی تھی۔

”تمہیں شرم نہیں آتی ہے امن! اتنی فضول باتیں مجھ سے کرتے ہوئے؟“

”بھئی مجھے شرم کیوں آئے گی۔ میں تو مسیح کنوے کرتی ہوں۔ سمجھ لو ایک مشین ہوں۔ ایک کنویر ہوں جس کا کام بس فرض نبھانا ہے۔ ہاں بھائی سے پوچھ لوں گی انھیں آتی ہے شرم۔“

اور اتباع اتنا جھلائی تھی کہ اسے مارنے کو دوڑ پڑی۔ اسی قسم کے اور لاتعداد مظاہرے اس کی بے صبر اور بے مہاری کے جن سے اتباع اب تک بس دانت کچکچاتی تھی۔ تلملاتی تھی۔

☆.....☆.....☆

عبدالعلی کے پہنچنے سے قبل اس کا کارنامہ علیزے کی زبانی ان تک پہنچ گیا تھا۔ ساتھ میں سفارش بھی۔ جس کا لب لباب یہ تھا کہ۔

”پلیز بھائی عبدالعلی کو ڈانٹے گا نہیں۔ اس کا جذبہ تو قابل قدر ہے۔ مجھے تو بہت اچھا لگا۔ ہمارے خاندان میں دور نزدیک کوئی فوج میں نہیں ہے۔ یقین کریں یونیفارم میں اتنا چچتا ہے کہ بتا نہیں سکتی۔“

اور لاریب گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔

”ساسو ماں کی سفارش نہ لاتے تو ہم نے جیسے فوج سے واپس کھینچ لانا تھا۔ حد ہے بیٹے تم سے بھی۔“

عبدالعلی پہنچا تو لاریب نے اسے کان سے پکڑ لیا تھا۔ وہ ہنستا ہوا ان کے گلے میں بائیں ڈال گیا۔

”سچی بات ہے ماں جی! اتنی آسانی سے چھوٹا بھی نہیں۔ بوجانی کو مان لیا ہے میں نے۔“ وہ بات بے بات چہک رہا تھا۔ لاریب اور عمیر کے ساتھ۔ اتباع نے بھی اسے معنی خیزیت سے دیکھا۔

”دکس کو مانا ہے یہ بھی صحیح اگلو۔ علیزے کو یا قدر

کو.....؟“ لاریب نے اس پہ گرفت کی تو وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑا تھا اس الزام تراشی پہ۔

”میں کیوں اسے مانوں گا۔ سڑے کر لیے جیسی لڑکی ہے۔“ اس نے ناک چڑھائی۔

”جی ہاں! اب تو بھائی جان ایسے ہی کہیں گے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں گئے تو واپس لوٹنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ یہ دل کس سے لگا تھا جیسے ہمیں تو خبر ہی نہیں ناں۔“

اتباع کو اسے چھیڑنے میں مزا آنے لگا۔ عبدالعلی نے کاندھے اچکا دیے۔

”لگاتی رہو الزام۔ جب اس میں کوئی صداقت نہیں تو مجھے دل پہ لینے کی کیا ضرورت۔ کیوں پارٹنر؟“ اس نے عبدالاحد کو ہمنوا کرنا چاہا۔ جو مشکوک انداز میں الٹا دانت نکالنے لگا۔

”اماں میں کہہ رہی ہوں ناں۔ دال میں کچھ کچھ کالا ہے۔ بس بھائی جان کا سہرا سجانے کی تیاری پکڑیں۔“ اتباع نے بات کو طول دیا تھا۔ عبدالعلی نے جواباً اسے شرارتی نظروں سے دیکھا۔

”سہرے کے پھول کس کے سجنے ہیں یہ تمہیں ابھی معلوم نہیں ہے۔ عبداللہ صاحب تشریف لے آئے ہیں پاکستان..... اور سنا ہے شادی کے لیے خاصے اتا والے ہیں۔ آج چائے پہ تشریف لانے والے ہیں کسی ایسے ہی ارادے سے..... تمہیں تو یہ بھی خبر نہیں ہوگی۔“

اس کا انداز تاؤ دلانے والا تھا۔ چھیڑتا ہوا شرارت کا رنگ لیے۔ اتباع نے بوکھلا کر، گھبرا کر پہلے اسے پھر باری باری سب کو دیکھا۔ سبھی چہروں کی بھرپور تائیدی مسکان اس کے اوسان خطا کرنے کو کافی تھی۔

(لفظ لفظ مہکتے اس خوبصورت ناول کی

اگلی قسط ماہ جولائی میں ملاحظہ فرمائیے)



## راہیں محبت کی

”میں پتھر نہیں ہوں ثناء! تمہاری طرح جیتی جاگتی انسان ہوں۔ میرے سینے میں بھی گوشت سے بنا دل دھڑکتا ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ میں اپنی نانی کے ساتھ رہتی ہوں اور اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی لاوارث ہوں ماما پاپا کو اپنی محبت.....“

### محبت کے رنگوں سے مزین ایک خوبصورت ناولٹ

بھولی بھالی کے دل موہ لیں چار موہیاں میں چھ سمیں ہیں اس کے پاس..... کل تم کو کیسے فخر سے اپنی چھٹی محبت کے قصے سن رہی تھی اور یہ بھی کہ اس نے کیمیسٹری ڈیپارٹمنٹ کے ہونہار طالب عظیم اور اس کے کزن کو بیک وقت اپنی محبتوں کے جال میں پھانس رکھا ہے اور ان سے جو تحائف سمیٹتی ہے وہ الگ..... اب بتاؤ تم اسے محبت کہتی ہو۔“ وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی یہ ایک واحد موضوع تھا جس پر دونوں کا اختلاف ہو جاتا تھا۔

”ایک بتول کے علاوہ اور بھی کتنی لڑکیاں ہیں۔ تم سب کے جذبات کو ایک ہی ترازو میں نہیں تول سکتی یہ تو آفاقی جذبہ ہے جو بن چاہے دل میں اتر جاتا ہے جن لوگوں کا تم ذکر کر رہی ہو وہ محبت نہیں فلرٹ کرتی ہیں۔ وہ بات کو خوشگوار بناتے ہوئے بولی۔

”معلوم نہیں ثناء فلرٹ کرتی لڑکیوں کو دیکھ کر

”لڑکیاں کتنی عجیب ہوتی ہیں؟ اور ان کے دل ان سے زیادہ عجیب و غریب ہوتے ہیں ماں باپ کی عزتوں کو سراسر عام پامال کرنے والی لڑکیاں محبت کے نام پر جو مشغلہ اپنائے ہوئے ہیں وہ خود ان کی زندگیوں میں کیسا وائرس پیدا کر رہے ہیں۔ وہ اس بات سے بے خبر ہیں۔“ وہ سختی سے ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولی۔

”اُف..... توبہ ہے تم پھر شروع ہو گئیں۔ کیسا وائرس..... تمہاری باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں تم ہمیشہ ایک ہی رُخ پر کیوں سوچتی ہو۔“ ثناء اپنے نوٹس ایک طرف رکھ کر ہاتھ میں پکڑے برگر کے ساتھ انصاف کرنے لگی۔

”وہ وائرس جو محبت کے نام پر آج نو جوانوں کی صلاحیتوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے..... خود کو ضائع کرنے کے لیے اس سے بہتر تفریح ان کے پاس کوئی اور نہیں اب بتول کو ہی دیکھ لو شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے باتیں بھی ایسی







میرے جسم میں آگ لگ جاتی ہے۔ پھر زبان انکارہ بن جاتی ہے، دل چاہتا ہے لائن میں کھڑا کر کے ایسے لوگوں کو کس کس کے کوڑے لگاؤں۔ جنہوں نے محبت کے نام پر اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر رکھا ہے..... ویسے تم ہمیشہ محبت کے حق میں دلائل اس لیے دیتی ہو کہ خود اس میں مبتلا ہو۔“ احساس محرومی بوند بوند بن کر اس کے لفظوں سے گزر رہا تھا۔ نجانے کیوں اس نے اپنی باتوں کا رخ بے خیالی میں ثناء کی طرف موڑ دیا۔

”ہاں میں تمہاری طرح کٹھور نہیں، تمہاری طرح میرے سینے میں دل کی جگہ پتھر فٹ نہیں ہے بھلا ان باتوں کا تم پر اثر کیوں ہونے لگا.....“ ثناء کو اس کی بات ناگوار لگی اور اُس نے رخ پھیر لیا۔

پھر وہ رخ پھیر کر بولی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد اسے اپنے کندھے پر ہلکا سا دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا ہالہ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبا لب بھری ہوئیں تھیں۔ ثناء نے اپنے کندھے پر سر رکھا اور اس کا ہاتھ جلدی سے تھام لیا۔

”کیا ہوا ہالہ! کیوں رو رہی ہو؟“

”میں پتھر نہیں ہوں ثناء! تمہاری طرح جیتی جاگتی انسان ہوں۔ میرے سینے میں بھی گوشت سے بنا دل دھڑکتا ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ میں اپنی ثانی کے ساتھ رہتی ہوں اور اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی لاوارث ہوں ماما پاپا کو اپنی محبت کی شادی کے چار سال بعد احساس ہوا کہ انہوں نے شادی کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے اور پھر دونوں کے متفقہ فیصلے کے بعد پاپا نے ماما کو طلاق دے دی۔ ان دونوں کو اس بات کا احساس نہ تھا کہ دو سال کی بچی پر

اس بات کا کیا اثر پڑے گا۔ میں تو بچپن سے ہی محبت کے سائے سے محروم کر دی گئی ہوں۔ ماما پاپا دونوں نے شادیاں کر لی ہیں ان کی اپنی اولادیں ہیں۔ ماما انگلینڈ میں اپنے شوہر اور تین بچوں کے ہمراہ نئی زندگی کا جشن مناتی ہیں۔ مجھے نانی کو سوپ کر ان کی اکیلی زندگی پر احسان جتاتی ہیں اور پاپا..... جنہوں نے پلٹ کر کبھی خبر نہیں لی اور ماما بس چھ ماہ میں ایک باز فون پر Contact کر لیتی ہیں لیکن پاپا..... وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی ثناء اس کی کئی دفعہ کی دہرائی گئی باتوں پر غمزہ ہو گی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا ڈپریشن میں کرتی ہے۔

”جب ہو جاؤ ہالہ! مجھے معاف کر دو مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔“

”ایسے مت کہو ثناء! تمہارا کیا قصور؟“ اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے۔

”اب اپنے اسائنمنٹ کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ ورنہ می کہیں گی ایک گھنٹے کی کمپائن اسٹڈی کا کہہ کر جاتی ہے اور دو تین گھنٹے بعد واپس آتی ہے۔“ وہ اس کا موڈ بدلنے کی غرض سے بولی۔

”نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، کل شروع کریں گے۔“ ہالہ سنجیدگی سے بولی۔

”اچھا چلو ایک ماہ بعد ہمارا فائنل سیمینٹر شروع ہونے والا ہے اور دو دن بعد اس اسائنمنٹ کو جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے۔ یاد ہے نہ چلو اب میں چلتی ہوں اپنا خیال رکھنا۔“ وہ اسے تاکید کرتے ہوئے دروازے تک پہنچی تھی۔ ثناء کا گھر ہالہ کے گھر سے قریب تھا۔ ثناء کے جانے کے بعد وہ بجھے دل سے کتابیں سمیٹنے لگی۔

☆.....☆.....☆.....



”کیا... تم جاب کرو گی۔“ ثناء چیخی۔

”ہاں... میں MBA کر کے گھر میں بیٹھ کر جھک نہیں مارنا چاہتی۔ وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے اپنی صلاحیتیں استعمال کی جائیں۔“  
ہالہ اپنے چہرے پر بکھری مخصوص سنجیدگی سے بولی۔ ساتھ ہی ٹالی میں رکھی کافی اور دیگر لوازمات اس کی طرف بڑھانے لگی۔

”مگر ہالہ تمہیں جاب کی کیا ضرورت ہے۔ دستا بڑا گھر، بنک پنشنس، جائیداد سب ہی کچھ نانی نے تمہارے نام کر رکھا ہے۔ پھر جاب کرنے کا کیا جواز بنتا ہے۔ وقت پاس کرنے کے لیے کئی مشاغل پڑے ہیں بلاوجہ جاب کی خواری سر لے رہی ہو۔“ ثناء نے الجھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔

”میں جاب پیسوں کے لیے نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے اپنی صلاحیتیں آزما کر اپنی پہچان بنانی ہے میں ہالہ علی ربانی... علی ربانی جیسے بڑے تاجر کی بیٹی۔“

یا ایک بڑی ویلفیئر چلانے والی ماہ نور کی بیٹی...

”میں ان ناموں سے الگ رہ کر اپنی شناخت بنانا چاہتی ہوں... بہت زہلی اپنی نانی جان کے شفقت کے سائے میں۔ اب زندگی کی کڑی دھوپ کا مزہ لینا چاہتی ہوں...“ ثناء نے دیکھا وہ پھر ڈپریشن کی طرف جا رہی تھی۔

”یار فکر کیوں کرتی ہو میں ہوں نا تمہارے ساتھ تمہارا ہاڈی گارڈ مس ثناء۔ یہ ہاڈی گارڈ زندگی کی آخری سانس تک تمہیں الوداع نہیں کہے گا۔ وہ سینہ ٹھوکتے ماحول خوشگوار بنانے لگی کہ ہالہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔

”تو پھر اپنی مٹی سے اجازت لے لینا میں نے

آج اخبار میں کچھ Vacancies دیکھی ہیں کل انہیں جگہوں پر قسمت آزمانے چلیں گے۔ صبح آٹھ بجے تیار رہنا ورنہ یہ تم اچھی طرح جانتی ہو میں وقت کی کتنی پابند ہوں۔ جس حلیے میں موجود ہو گی اسی میں اٹھا کر لے جاؤں گی۔ اس نے دھمکی دی۔

”کل... وہ بھی آٹھ بجے... کچھ تو مجھ غریب پر رحم کرو رزلٹ آئے دو دن تو ہوئے ہیں۔ کم از کم مہنہ بھر آرام تو کر لینے دو۔“ ثناء نے مسکین شکل بنائی۔

”میں تمہاری کوئی فضول بات نہیں سنوں گی۔ بس کل چلنا ہے تو یہ بات ڈن اینڈ فائنل ہے۔ Understand اس نے گویا بات ہی ختم کر دی۔

☆.....☆.....☆

”کیا چیز ہو تم ہالہ! انہوں نے تو تمہیں ساری Qualification دیکھے بغیر رکھ لینا ہے۔ سارا حسن اللہ نے تمہیں سونپ رکھا ہے۔ ہم غریب ذرا لیٹ ہو گئے اس لیے رہ گئے۔ اوپر سے نہ تم نے مجھے ناشتہ کرنے دیا نہ بال بنانے دیے۔ منہ پر ایسی پھٹکار برس رہی ہے کہ الامان!“ ثناء چیخی۔

وہ ثناء کی باتوں کی پروا کیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر تھپتھپاتے ہوئے تیز تیز قدم پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا رہی تھی۔

”میں نے تمہیں آٹھ بجے تیار رہنے کا کہا تھا یا نہیں۔“ وہ گاڑی اشارت کرتے ہوئے سکون سے بولی۔

”دوپہر کے ایک بجے اٹھنے والی لڑکی سے محترمہ فرما رہی ہیں کہ آٹھ بجے تیار ہو جانا وہ تو شکر ہے کپڑے بدل لیے تھے۔ ورنہ نائٹ سوٹ



میں انٹرویو دیتی ہوئی حور پری ہی لگتی۔ ”وہ اس کی طرف دیکھ کر جل کر بولی جو اس کی طرف نگاہ ڈالے بغیر اطمینان سے گاڑی چلانے میں مصروف تھی، پھر اس نے اپنا پرس کھولا اور ہلکا پھلکا میک اپ کرنے میں مصروف ہو گئی۔

”نماز پڑھی تھی آج تم نے۔“ ہالہ اسے ترچھی نظروں سے دیکھ کر تفتیشی انداز میں بولی۔

”کون..... سی..... نماز وہ ہٹلائی۔“

”فجر کی نماز۔“ ہالہ نے اپنا ہمیشہ کیا جانے والا سوال دہرایا۔

”کیا کروں یا رآنکھ نہیں کھلتی میری۔ وہ لا پر واہی سے بولی۔

”شاء نماز پڑھنے سے انسان کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نہ صرف خوبیاں بلکہ انسان کی زندگی میں آسانیاں بھی پیدا ہونے لگتی ہیں۔ جیسے وقت کی پابندی۔

آج اگر تم نے فجر کی نماز ادا کی ہوتی تو آج ہونے والی خواری سے بچ جاتی۔ آئی کیا سوچتی ہوں گی۔ میں تمہیں یوں ناشتہ کیے بغیر اٹھالائی ہوں۔

”تمہاری آئی میری ہٹلر نما دوست سے اچھی طرح واقف ہیں اور یہ بھی کہ تم وقت کی کتنی پابند ہو۔ وہ تو مجھے خود تمہاری مثالیں دے دے کر ڈسپلن کی تلقین کرتی ہیں۔ مگر میں کیا کروں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیشہ ایک افراتفری کا شکار رہتی ہوں۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں قصور میرا ہی ہے۔ بے شک نماز انسان میں بے شمار مثبت تبدیلیاں پیدا کرتی ہے۔ میں کوشش کروں گی تمہاری طرح نماز کی پابند بن جاؤں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ گاڑی ایک وسیع بلڈنگ کی پارکنگ میں جا پہنچی تھی۔

”یہاں انٹرویو سے فارغ ہونے کے بعد قریبی کسی ریسٹورینٹ میں لنچ کو چلیں گے۔“ ہالہ بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بولی اسے اس کی حالت پر رحم آ رہا تھا۔

”آف خدایا کتنی بڑی تعداد انٹرویو کے لیے آئی ہے۔“

شاء ہالہ نما کمرے میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک کھچا کھچ لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے بولی ان دونوں نے اپنی درخواست کے ساتھ منسلک دیگر لوازمات کا وائٹرز پر موجود شخص کے حوالے کیے اور وہ لوگ کارر پر جگہ تلاش کر کے بیٹھ گئیں۔

”ہالہ مجھے تو ابھی سے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ جانے اپنی باری کب آئے۔ بھوک کے مارے میرا برا حال ہو رہا ہے۔“

”نی الحال خاموشی سے بیٹھی رہو اور یہ لو۔“ ہالہ نے پرس سے سکٹ کا پیکٹ نکال کر اس کے حوالے کرتے ہوئے بولی۔

شاء کہاں چپ رہنے والی تھی۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی سے گپیں لگانا شروع کر دی۔ ساتھ ہی برے برے منہ بنا کر سکٹ کھائے جا رہی تھی۔ ساتھ والی لڑکی نے اسے جوس کی آفر کی جسے اس نے بخوشی قبول کر لیا۔

تین گھنٹے بعد ہالہ کا نام پکارا گیا۔

”مے آئی کم ان سر؟“

یس..... پلیز سٹ ڈاؤن! ہالہ دھیرے سے قدم اٹھاتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ سات افراد کو اپنے سامنے موجود پا کر وہ لمحے بھر گھبرا سی گئی تھی۔ سات افراد کے درمیان بیٹھے ایک نہایت پروقار اور معزز شخص نے اسے بیٹھے کے لیے کہا تھا۔



گیا پھر وہ پندرہ منٹ میں اس کے روبرو تھی۔ وہ دونوں باہر نکل کر ایک قریبی ریستورینٹ پہنچ گئیں۔

”اب کہاں چلنا ہے، ایمان سے میرا دل مزید کسی انٹرویو جیسے جن کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔“ شاہرگر کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے بولی۔

”ٹھیک ہے پھر گھر ہی چلتے ہیں۔ ہالہ نے ہاتھ میں پکڑی نیوز پیپر کی کٹنگ واپس پرس میں رکھتے ہوئے بولی، جس کا وہ مطالعہ کر رہی تھی۔

”ویسے بائے داوے کیا خیال ہے۔ اتنی بڑی کمپنی میں ہماری دال گلے گی۔“

چانس ہے پھر وہی پک جائے۔ اصل میں اس کمپنی کی دو تین فیکٹریاں ہیں اور وہ اپنی گارمنٹ کی نیو برانچ یہاں کھولنا چاہ رہے ہیں۔ ان کی برانچ فیصل آباد میں بھی ہے یہ لوگ اپنا مال ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اپنی اس نئی برانچ کے لیے انہیں ایک نئی فریش ٹیم درکار ہے۔ اس لیے چانس ہے..... بہر حال کل ایک دو جگہ اور انٹرویو کے لیے چلنا ہے کہیں نہ کہیں قسمت کھل ہی جائے گی۔ تم ٹائم پر ریڈی رہنا اوکے۔“ ہالہ کو لڈرنگ ختم کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی معلومات پر شاء کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی ہالہ کے جنون سے..... وہ جس کام کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔

☆.....☆.....☆

شام کو ہالہ گھر پہنچی تو دیکھا شاء کو بہت تیز بخار چڑھا ہوا ہے۔ ایک ہفتہ اسی میں نکل گیا شاء کے بغیر ہالہ کا بھی کہیں جانے کو دل نہ مانا..... ہالہ کی طرح شاء بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔

”بس ہالہ! آپ ایک آفیسر سیٹ کے لیے خود کو کیسے اہل سمجھتی ہیں۔ جبکہ آپ کا تجربہ زیرو ہے اور آپ نے صرف آفیسر سیٹ کے لیے ہی اپلائی کیا ہے۔ آپ فریش MBA ہیں لیکن نا تجربہ کار ہیں آپ نے آزمائشی طور پر کسی اور سیٹ کے لیے اپلائی کیوں نہیں کیا؟

وہی آدمی دوبارہ بولا تھا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد ہالہ نے جواب دیا۔

”سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا تجربہ زیرو ہے لیکن میری صلاحیتیں زیرو نہیں ہیں۔ چونکہ مجھے اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے۔ اس لیے میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میں اس سیٹ کے لیے موزوں ہوں۔“

”اتنی کم عمری میں خود پر اتنا بھروسہ۔“ ایک شخص اور بولا۔

”آزمائش شرط ہے سر۔“ وہ خود اعتمادی سے بولی۔

”یہ بتائیں ایک آفیسر ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے ماتحتوں میں سب سے اہم اور پہلی خوبی کون سی دیکھنا چاہیں گی اور کیوں؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا۔

”سر! وقت کا احساس..... اس لیے جو وقت کی قدر کرتے ہیں۔ ان کے تمام کاموں میں ڈسپلین آجاتا ہے۔ یہی احساس انسان کو مہنتی اور ایکٹیو بنا دیتا ہے۔ اسی شخص نے ہالہ سے مزید چند سوال کیے اور پھر بولا۔

”ٹھیک ہے مس ہالہ! ہم آپ کو دس پندرہ دن میں انفارم کر دیں گے کہ آپ کا سلیکشن ہوا یا نہیں۔ تھینک یوفار کمنگ!“

وہ بھی تھینک یو کہہ کر باہر آ گئی۔ باہر آ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا تھوڑی دیر میں شاء کو بلایا



نازوں سے پٹی لڑکی ثناء کو ہالہ کا ساتھ اس قدر بھاتا تھا کہ کسی اور کی طرف دوستی کی نگاہ تک نہ ڈالی۔ دونوں کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس میں رہائش پذیر تھے۔ نانی کی محبت کے علاوہ ہالہ نے ثناء کی دوستی کو بھی بہت اپنائیت سے اپنایا تھا۔ چند سال پہلے وہ لوگ یہاں شفٹ ہوئے تو چلبلی سی ثناء نے ہالہ کی ویران سی زندگی میں سارے رنگ بھر دیے۔ ثناء کے والدین کویت سے یہاں سیٹل ہوئے تھے۔ ثناء اور ہالہ کی پہلی اتفاقہ ملاقات نے جلد ہی دوستی کا روپ دھار لیا تھا۔ کراچی اس کے لیے انجان شہر تھا۔ ہالہ ڈرائیونگ جانتی تھی۔ وہ اکثر گھنٹوں اسے شہر کے مختلف مقامات پر اسے گھوماتی پھراتی رہتی۔ نانی امی بھی ثناء سے بہت خوش تھیں کہ جس کے آنے سے ان کی نواسی کی زندگی میں کچھ خوشیاں در آئی تھیں۔ وہ ہونٹ جو دھیمی مسکراہٹ سے بھی نا آشنا تھے۔ اب کھلکھلانے لگے تھے۔ ثناء کی شوخی، شرارتیں ہالہ کی خزاں آلود زندگی میں بہار لے آئے تھے۔ وہ دونوں کالج کے بعد یونیورسٹی میں بھی ایک ساتھ تھے۔ اب دونوں MBA شاندار نمبروں سے پاس کر چکی تھیں۔ ہالہ ابھی کسی اور جگہ اپلائی کا سوچ رہی تھی کہ ان دونوں کا ہی اپائنٹمنٹ لیٹر آ گیا۔ ایک ہفتہ بعد ان کو آفس جوائن کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔

”مجھے لگتا ہے ان لوگوں کی آنکھوں میں Defect..... سے ویسے بھینگی آنکھوں والا آدمی کوئی نظر تو آیا نہیں لیکن آئی ایم شیور میرے لئے سیدھے دیے گئے جوابات ہرگز اس قابل نہیں تھے کہ جاب..... او مائی گاڈ..... اور ہاں یاد آیا ہے تو اپنی درخواست میں کسی بھی سیٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا بلکہ لکھا تھا ”جہاں دل

چاہے وہاں رکھ لیں“ اور ان صاحبان نے سیکریٹری کی سیٹ ایسے تھالی میں سجا کر دی ہے جیسے میرے علاوہ اس کرہ ارض پر کوئی اور مخلوق اس سیٹ کے لیے موزوں ہی نہیں تھی۔“ ثناء ہاتھ میں لیٹر تھامے شادی مرگ کی کیفیت میں تھی۔

”ہو گئی تمہاری نان اسٹاپ تقریر ختم۔“ ہالہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اس کی بے تکی باتیں سنتے ہوئے بولی۔ پھر کچھ لمحے بعد اسے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

”اب تمہیں کیا معلوم انہیں تمہاری کون سی ادا بھاگتی ہو..... ویسے بڑے جہاندیدہ لوگ ہوتے ہیں یہ پہلی نظر میں بھی بھانپ لیتے ہیں کہ سامنے والا کتنا صلاحیت مند ہے۔ اب کیوں کفران نعمت کر رہی ہو؟“

”او مائی گاڈ! میرے تمہارے ڈیمیاٹمنٹ تو بالکل الگ ہیں۔ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی۔ نہ بابا نہ اگر تم ساتھ نہ ہوگی تو مجھے جاب گوارہ نہیں دیے بھی اس دن انٹرویو نے ایک ہفتہ کے لیے بخار میں مبتلا کر دیا تھا۔ نہ جانے روز روز یہ جاب کی خواری کیا رنگ دکھلائے گی۔ اس نے اپنا لیٹر دیکھ کر کہا۔

”تم پھر شروع ہو گئیں اب حکومت..... بی بریو! دیکھو وقت کا خاص خیال رکھنا۔ انہوں نے ہمیں لیٹر میں نوبے سے پہلے آنے کی سخت تاکید کی ہے۔“ ہالہ نے اس کی ہمت بڑھانے کی سعی کی اور ساتھ ہی وقت پر تیار رہنے کی تنبیہ سن کر ثناء اپنا سر ہلا کر رہ گئی۔

☆.....☆.....☆

”کیسا رہا آج کا دن..... لگتا ہے میری رانی بہت تھک گئی ہے“ نانی امی اس کے تھکن سے چور چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ پھر پیار سے اس کے



بھرے بھورے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔  
ہالہ آفس سے فریش ہو کر سیدھا نانی امی کے  
کمرے میں آگئی گئی۔ پھر ان کی گود میں گھس کر  
آنکھیں موند لیں تو نانی امی کو اس کی معصومیت پر  
بے حد پیار آ گیا۔ وہ آج بھی نانی کی گود میں  
سکون پاتی تھی۔ دو سال کی ہالہ جب نانی کی گود  
میں آئی تھی تو وہ اسی طرح گود میں آنکھیں  
موندے سو جایا کرتی تھی۔ ہر شے سے بے  
نیاز..... ہر پل سے بے خبر..... آج بھی وہ ایسے  
ہی نانی کی گود میں آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔  
نانی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہیں اور  
وہ کچھ ہی لمحوں میں سکون کی دادی میں اتر گئی۔

”کتنی معصوم ہے میری رانی۔“ سوئی ہوئی  
ہالہ پر نانی کو بے حد پیار آیا وہ اس کا ماتھا چومتے  
ہوئے سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ انہوں نے اسے  
ماں بن کر پالا تھا۔ ان کی ممتا کے حصار میں ہالہ کو  
ایک عجیب سی اطمینانیت کا احساس ہوتا تھا۔ تب  
ہی نانی کو اچانک ہی خیال آیا کہ ہالہ کچھ کھائے  
پے بغیر ہی سو گئی ہے۔

”میری رانی اٹھو کچھ کھالی لو، پھر سو جانا آج  
آفس کا پہلا دن تھا نہ تو تھکن سے کیسے بے  
حال..... بے سدھ بڑی ہے میری بچی۔“ نانی  
ای پیار سے پکار رہی تھیں۔ اس نے کسمسا کر بغیر  
آنکھیں کھولے نانی امی کے گرد اپنے بازوؤں کا  
حلقہ مزید تنگ کر دیا۔

☆.....☆.....☆

”آج تمہاری ماما کا انگلینڈ سے فون آیا  
تھا۔“

فریش پائن اپیل کے ایک کانگرا منہ میں  
رکتے ہوئے اس کا ہاتھ لمبے بھر کے لیے رُکا تھا۔  
اس کا وجود سماعت بن کر نانی کا اگلا جملہ سننے کے

لیے بے قرار تھا۔ لیکن وہ بظاہر نے نیاز بنی کیک  
کے باقی بچے ٹکڑے کو مزید انہماک سے کھانے  
میں مصروف تھی۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر  
خاموشی رہی اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز اور تیز  
تر۔

”آج آفس کا پہلا دن تھا نہ..... سارا دن  
تعارف اور کام کی نوعیت سمجھنے میں لگ گیا۔ اس  
نے کیک کا آخری پیس حلق میں اتارتے ہوئے  
ہاتھ جھاڑے اب وہ کافی اپنے کپ میں انڈیل  
رہی تھی۔ بھاپ اڑاتی کافی کا ایک کپ اس نے  
نانی امی کے سامنے رکھ دیا تھا۔

”وہ تمہارے متعلق کچھ بات کرنا چاہ رہی  
تھیں انہوں نے تمہاری زندگی کے متعلق کچھ فیصلے  
کیے ہیں۔“ نانی امی اس کا سرد رویہ نظر انداز  
کرتے ہوئے دوبارہ بولی۔

”میں فیصلہ کر چکی ہوں نانی امی۔“ گرم گرم  
کافی کے پہلے گھونٹ نے اس کے حلق تک  
کڑواہٹ بھردی۔

”کیسا فیصلہ.....؟“

”میں جا ب کر دوں گی“

”جانتی ہو تمہاری ماما نے کیا فیصلہ کیا ہے؟“  
وہ تمہاری شادی کرنا چاہتی ہیں۔“

”کیوں اچانک ان کو میری شادی کی فکر  
ستانے لگی۔ پلیز آپ ان سے آئندہ اس  
موضوع پر بات مت کیجیے گا۔ مجھے شادی نہیں  
کرنی۔ نانی امی آپ میرے لیے وہ شجر ہیں جس  
کے سائے میں اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی  
ہوں۔“ اب وہ نانی امی کے سامنے پنچوں کے بل  
بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ اپنے گود میں رکھ کر  
سہلانے لگی۔

بیٹا یہ شجر اب بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس کی تنیں



لیپ ٹاپ میں فیڈ کر رہا تھا۔

”آف کورس سر!“

”آپ کی کارکردگی دیکھ کر بابا جان نے آپ کی تنخواہ میں اضافہ کیا ہے۔ ویسے بابا جان نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کا تجربہ نہ ہونے کے باوجود آپ کا اعتماد انہیں بے حد پسند آیا۔ جس کی وجہ سے بورڈ نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔“

”حالانکہ اتنی کم عمری میں بغیر کسی تجربے اور مچپورٹی کے اتنے احسن طریقے سے کام کو سنبھالنا یہ بظاہر آپ کو دیکھ کر ایسا ممکن نہیں لگتا۔“ کا شان اب اس کے نازک وجود کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ ہلکے گرین کلر کے پرنٹڈ سوٹ میں اس کی رنگت میک اپ سے بے نیاز دمک رہی تھی اور آنکھوں میں ذہانت اور خود اعتمادی کی وہی جھلک جو وہ پہلے دن سے محسوس کر رہا تھا۔

”سر! اس دنیا میں ناممکن کچھ بھی نہیں، مجھے چیلینجنگ کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔“ اس کو وہاں خود پر ہونے والی گفتگو اچھی نہیں لگ رہی تھی وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی اس وقت وہ چند فائلز پر کا شان احمد کے سائن لینے آئی تھی۔

”گڈ۔“ اس نے فائل بند کر کے اس کی جانب بڑھا دی۔

”سر! کیا میں اب جا سکتی ہوں۔“ کا شان کو دوبارہ کسی فائل پر جھکا دیکھ کر وہ بولی۔

”شیورس ہالہ! کل کی میٹنگ یاد رکھیے گا۔ صبح کمپنی کے تمام آفیسرز کی میٹنگ ہے۔ جس میں آپ بھی شامل ہیں۔“ وہ بغیر نظریں اٹھائے بول رہا تھا۔

”یس سر مجھے یاد ہے۔“ وہ کہہ کر اپنے کیبن میں آگئی۔ آج اسے جلدی گھر پہنچنا تھا۔ شام نے جا ب چھوڑ دی تھی۔ بقول اس کے وہ اتنا بھاری

بھی کمزور ہو چکی ہیں۔ اب مزید تمہیں یہ سایہ دینے سے قاصر ہے۔ اچھا ہے میری زندگی میں ہی تم اپنے لیے کوئی مضبوط سہارا چن لو، جو تمہیں محبت دے سکے۔“

”مجھے ڈر لگتا ہے محبت سے.....“ اس نے جلدی سے نانی امی کی بات کاٹ دی پھر روتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔

”مجھے خود سے الگ نہ کریں می پاپا کی شادی بھی تو محبت کی تھی نہ..... پھر محبت کا کیسا انجام تھا۔ جس کی سز مجھے بھگتنی پڑی۔“

”بیٹا ہر شخص کو ایک ہی کسوٹی پر پرکھنا دانشمندی نہیں۔ کچھ باتیں نصیب کی ہوتی ہیں بس اللہ سے ہر نماز میں اپنی بہتری کے لیے دعا مانگو وہ جو تمہارے حق میں بہتر ہو۔“

مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ نانی امی لو نظریں کھڑی سے باہر آسمان پر پھیلے سفید بادلوں پر پڑیں۔ ان کا دل ڈھیروں اطمینان سے بھر گیا۔ ایسے جیسے ان کی جھولی میں اللہ تعالیٰ نے ہالہ کے لیے ڈھیروں خوشیاں ڈال دی ہیں۔

☆.....☆.....☆

مس ہالہ! ویل ڈن! ان تین مہینوں میں جس طرح آپ نے محنت اور لگن سے خود کو منوایا ہے وہی آرپراؤڈ آف یور پرفارمنس کا شان احمد اس کی کارکردگی کے متعلق سینئر آفیسرز کے اچھے ریمارکس دیکھ کر خوش دلی سے بولا تھا۔ تمام سینیئرز نے اس کی کارکردگی کو سراہا تھا۔

”تھینک یو سر! ہالہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔“

”ہمیں امید ہے آپ اپنی کارکردگی سے کمپنی کو ترقی کی سمت لے جائیں گی۔“ اس کا انداز بالکل آفیشل تھا۔ وہ ایک فائل پر سر جھکا کر سائن کر رہا تھا۔ اساتھ ہی ضروری Data اپنے



آزر کیوان، پارسیوں کا ایک پیشوا گزرا ہے۔ اس نے ایک عجیب و غریب کتاب تصنیف کی تھی جس میں کمال یہ تھا کہ اصل نسخے کی زبان خالص فارسی تھی لیکن نقطوں کے رد و بدل سے عربی بن جاتی تھی اور اگر الفاظ کو الٹ کر پڑھتے تو ترکی اور مصحف کرنے سے ہندی بن جاتی تھی۔ ایک اردو مصنف نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس کتاب کو محسن فانی کشمیری کی تصنیف، اور بعض دارالشکوہ کی تصنیف بتاتے ہیں۔ لیکن دراصل یہ ذوالفقار اردستانی کی تصنیف ہے۔ حسن انتخاب: اشعر عشیق۔ کراچی۔

”اچھا زیاوہ مکھن مت لگاؤ۔ منہ ہاتھ و حولو میں کھانا لگوانی ہوں۔ ڈرائینگ روم میں آ جاؤ، ہم وہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔“ وہ سنجیدگی سے کہہ کر اسے ایسا حیران و پریشان چھوڑ کر چلی گئیں اور یہ سوچنے لگی کہ ان تیس سالوں میں کبھی نانی کا رویہ اتنا عجیب نہیں رہا، جتنا آج لگ رہا ہے۔ یہ بات نانی اچھی طرح جانتی تھیں کہ وہ ہرگز اتنی غیر ذمہ دار لا پرواہ نہیں ہے۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس کی غیر ذمہ دارانہ رویے کی بناء نانی امی کو یقیناً اپنے مہمان کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ جب ہی ان کا رویہ عجیب تھا۔

وہ فریش ہو کر ڈرائینگ روم میں جب داخل ہوئی تو وہاں نانی امی پہلے سے ہی موجود تھیں اور نہ جانے کن سوچوں میں گم تھیں کہ اس کے بیٹھنے کا احساس بھی انہیں نہ ہوسکا۔ جب اس نے نانی کو پکارا تو وہ چونکیں۔

”کیا ہوا آپ مجھ سے خفا ہیں۔ آپ جو چاہے سزا دے لیکن خفا مت ہوں۔ میں سب کچھ

کام اپنے نازک سے کندھوں پر برداشت نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی وہ کسی پابندی میں رہ کر کام کرنے والوں میں نہیں تھی۔

اسے اپنی بے فکری کی زندگی سے بڑا پیار تھا۔ آج بالہ کو نانی امی نے جلدی گھر آنے کی ہدایت کر رکھی تھی۔ ان کا کوئی مہمان آنے والا تھا۔ جسے ریسیو کرنے ان دونوں کا ایئر پورٹ جانا تھا۔ وہ اپنے کام پٹانے میں مشغول ہو گئی۔ کام کے دوران اسے وقت بیت جانے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ نانی امی نے اسے چار بجے تک گھر پہنچنے کا کہا تھا جبکہ اس کی گھڑی میں ساڑھے پانچ بج رہے تھے۔ وہ اپنی گھڑی دیکھ کر سٹپٹا گئی آفس بھی خالی ہو رہا تھا۔

”اومائی گاڈ! نانی امی تو میری اس غیر ذمہ داری پر سخت خفا ہوں گی۔“ وہ بڑبڑائی اسے شدت سے نانی امی کی خفگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آگے بکھری فائلوں کو سمیٹنے لگی۔ آصف صاحب کو کچھ ضروری ہدایت دیں، پھر اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی لے کر پارکنگ کی جانب دوڑ لگا دی۔ گھر کے پورچ میں گاڑی سے اترتے ہوئے ہاتھ باندھے سامنے کھڑی نانی امی نے اس کے وجود میں سنسناہٹ دوڑا دی۔

”سوری نانو جانی! نہ جانے آج کیوں میں نے اتنی غیر ذمہ داری دکھائی۔ آئندہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پلیز آپ خفا مت ہوں۔ آئی پر اس آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ٹائم اتنا ہو گیا تھا کہ میں آپ کو کال تک نہیں کر سکی۔“ وہ وضاحتیں دے رہی تھیں۔ ساتھ ہی نانی امی کے گلے میں بانہیں ڈال دیں تو نانی اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولیں۔



مکھڑا دیکھنے میں خود ہی چلی آئی، تمہیں تو فرصت نہیں۔“

برداشت کر سکتی ہوں، آپ کی خفگی نہیں۔“ وہ رو دینے کو تھی۔

”جی ابھی بہت کام ہیں مجھے۔“  
 ”اچھا..... محترمہ کو ایسا کون سا اہم کام ہے۔ جو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو۔“ وہ مصنوعی خفگی دکھاتے ہوئے بولی۔

”پھر وعدہ کرو کبھی مجھے خفا نہیں ہونے دو گی۔“ وہ مسکراتے ہوئے بولیں۔  
 ”وعدہ۔“

”آج ہمارے ہاں ایک عدد مہمان تشریف فرما ہیں۔ انہی کے کھانے کی خاص تیاریاں ڈنر پر ہو رہی ہیں۔ بس اسی سلسلے میں مصروف تھی۔ آفس کے آنے کے بعد ایک لمحے کو آرام نہیں کیا۔ بس کچھ اس کی تھکن بھی ہو رہی ہے۔“ وہ اپنی تھکن زدہ گردن دائیں بائیں کرتے بول رہی تھی۔ اس وقت اسے شدید آرام کی طلب ہو رہی تھی، لیکن نانی کی مزید خفگی مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے ان کی تمام ہدایات پر عمل کر رہی تھی۔

ہالہ ان قطروں کو ہاتھوں سے رگڑنے لگی جو پلکوں کی چلمن میں قید تھے۔ پھر نانی اور ہالہ نے مل کر کھانا کھایا۔ اس دوران نانی نے بتایا کہ وہ مہمان کو لینے کسی کو بھیجنے والی تھیں کہ وہ خود ہی گھر پہنچ گیا۔ ابھی وہ آرام کر رہا تھا۔

گھر کا ایڈریس اسے معلوم تھا۔ وہ نانی کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ نانی نے اس کا خیال رکھنے کی خاص تاکید کی۔ وہ عرصے بعد نانی سے ملنے یہاں آیا تھا۔ اور پھر وہ اسے رات کے کھانے کے متعلق خاص ہدایت دیتے ہوئے آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔

”مہمان!..... یہ اچانک کون سا مہمان تمہارے گھر آ چکا ہے۔ جب سے میں تمہیں جانتی ہوں تب سے اس عرصے میں اس گھر میں اس قسم کی مخلوق کبھی نہیں دیکھی۔ میں تو خود تمہیں کہتی رہی کہیں آ جایا کرو۔ کہیں جاؤ گی تو تمہارے گھر بھی لوگ آئیں گے۔ خود تمہارا دل لگے گا گھر کی رونق بڑھ جائے گی مگر مجال ہے تم کہیں جاؤ۔ فقط بے چاری میری واحد ہستی تمہارے دولت خانہ پر قدم انجا فرمانے آ جاتی ہے۔ رشتہ دار تمہارا کوئی ہے نہیں..... اب مجھے یہ بتاؤ یہ مہمان کون ہے؟ کس صنف سے تعلق ہے؟ نام کیا ہے؟“ ثناء حسب عادت نان اسٹاپ بے تکے جملے بولے چلے گئی۔  
 ”میں نہیں جانتی کیا نام ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں تو ابھی تک ملی بھی نہیں بس اتنا معلوم ہے کہ نانی امی کے دور کے رشتہ دار ہے اور پہلی دفعہ

”سب چیزیں تیار ہیں نہ!“ ہالہ نے فوراً کا مسالہ چمکتے ہوئے خانساں سے پوچھا ساتھ ہی دوسری ڈشز کا بھی جائزہ لے رہی تھی۔  
 ”ہالہ بی بی آپ کی دوست ثناء آئی ہیں۔“  
 چوکیدار کے اطلاع دینے پر وہ مڑی۔  
 ”ٹھیک ہے میں آئی ہوں۔ تم بٹھاؤ انہیں۔“  
 ثناء کا اس وقت آنا اس کے لیے تعجب کی بات نہ تھی۔ وہ اکثر یونہی آ جایا کرتی تھی۔ دونوں کی آپس بے تکلفی کا علم گھر کے تمام ملازموں کو تھا۔ وہ ڈرائینگ روم میں داخل ہوئی، تو حسب توقع قالین پر آڑی ترچھی لیٹی وہ ایک میگزین کے مطالعہ میں مصروف تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور میگزین ایک طرف رکھ کر بولی۔  
 ”کہاں غائب ہو! پورے دو ماہ بعد تمہارا



اپنے کسی کام سے یہاں آیا ہے۔“ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔

”انسان ہی ہے نہ..... ویسے کافی مشکوک مہمان لگ رہا ہے۔“

کیا پتا..... گھر کا مہمان بنتے بنتے دل کا مہمان بن جائے.....“ اس کا لہجہ شرارتی تھا۔ وہ کن اکھیوں سے پالہ کو دیکھ رہی تھی جو اسے مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ میری طرف سے تمہاری معلومات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے دل میں کسی مہمان کے رہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ یہ تم اچھی طرح جانتی ہو اب مزید معلومات لینا چاہتی ہو تو مہمان سے خود مل کر حاصل کر لو۔“

”نہ بابا نہ محترم مہمان کے متعلق معلومات حاصل کرنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کمال ہے۔ اس کے لیے بالمشافہ ملاقات کی ضرورت نہیں۔ میں تم سے کچھ شیئر کرنے آئی تھی ویسے بھی کافی دن ہو گئے تھے، تم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ یہ جاب نما عفریت جب سے تم نے پال رکھی ہے۔ ملاقات تو دور کی بات ہے تم تو میری کال اٹینڈ نہیں کرتی ہو..... خیر کل حالہ آرہی ہیں انگلینڈ سے۔“ بات کرتے کرتے حالہ کے ذکر پر اس کا لہجہ محبت سے بھر گیا۔

”او..... اچھا یعنی تمہاری محبت کی تکمیل ہونے والی ہے یہی بات ہے نہ۔“ وہ اس کا محبت بھرا معنی خیز لہجہ سمجھ چکی تھی۔

”ہاں میرا باقاعدہ عدنان کے لیے پوزل لے کر آرہی ہیں۔ منگنی کر کے ہی جائیں گی اور اگلے سال شادی۔“

”اچھا تو بیگم صاحبہ نے سارے پروگرام سیٹ کر لیے۔ یہ تو واقعی گزنیوز ہے چلو تمہاری چار

سالہ محبت اپنے خوبصورت انجام کو پہنچ رہی ہے۔ ہالہ اس کی بات پر خوش ہوتے ہوئے بولی۔ اس کو اپنی یہ واحد دوست عزیز تھی، وہ جانتی تھی کہ عدنان اور وہ چار سال سے ایک دوسرے کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ عدنان تین بھائیوں میں چھوٹا اور اس کا خالہ زاد کزن تھا، اسے اپنی Study اور Job کے سیٹ ہونے کا انتظار تھا۔ یقیناً دونوں کام مکمل کرنے کے بعد اب وہ باقاعدہ اس کی فیملی کو پوزل بھیج رہا تھا۔ ثناء بہت خوش تھی عدنان کے ذکر پر اس کے چہرے پر بکھرے حیا کے خوبصورت رنگوں کے ہالے کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی بولڈ لڑکی محبت کے شکنجے میں جکڑی بے بس تھی اور اب پالینے کے انوکھے رنگ..... اس کے چہرے پر بکھری دھنک..... واہ رے مولا..... محبت ہو تو ایسی..... اللہ اس کی محبتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے آمین وہ دل سے دعا کر رہی تھی۔

”ایک بات کہوں ہالہ!“ وہ اس کے یونہی مسلسل دیکھے جانے پر جھینپ گئی۔ پھر کچھ سوچ کر بولی۔

”ہاں بولو۔“

”کبھی کبھی زندگی میں مخلص ساتھی ملے تو اسے اپنانے میں وقت ضائع مت کرنا۔ کبھی کبھی میرے دل میں بھی شکی اور باغی سوچیں ابھرنے لگتی ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس لمحے سے، میں نے عدنان کو بے حد چاہا ہے..... دل سے محبت کی ہے۔ اس کا انجام کبھی برا ہوا تو میں بکھر جاؤں گی..... کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ عدنان مجھے زندگی کے بیچ رستوں پر تو نہیں چھوڑ دے گا۔ میں تو اس کا ہاتھ تھامے بہت آگے جا چکی ہوں۔ اب مجھے اس کے علاوہ کوئی دوسرا چہرہ نظر نہیں آتا۔“



”کیا کرتی ہیں آپ..... آئی مین پڑھتی ہیں۔“

”جی نہیں جا ب کرتی ہوں۔“ وہ مختصر بولی۔  
”کہاں؟“

”کمپنی میں۔“ وہ جھنجھلاتے لگی۔

”کون سی کمپنی میں؟“ وہ اس کی جھنجھلاہٹ سے محفوظ ہو رہا تھا۔

”آپ کھانا کھائیں پلیز!“ وہ اکتانے لگی۔ بے تکے سوالات پر اسے شدید غصہ آنے لگا۔

”کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے چلو بیٹا باتیں تو پھر ہوتی رہیں گی کھانا شروع کرو۔“

نانی امی ہالہ کے مزاج سے واقف تھیں۔ وہ اجنبیوں سے گھلتی ملتی نہیں تھی، وہ بات کو مزید طول دینے سے بچاتے ہوئے کھانا سرو کرنے لگیں۔

اشعر بریانی میں چمچہ چلاتے ہوئے کن آنکھوں سے ہالہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بظاہر اس لڑکی کے چہرے پر اعتماد تھا۔ لیکن وہ اعتماد اسے مصنوعی لگا کیوں کہ وہ اس کے کانپتے ہاتھ اور جھکی کانپتی پلکیں دیکھ چکا تھا وہ مسکرانے لگا۔ اور اپنی پلیٹ پر جھک کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ساتھ ہی نانی کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ لیکن اب باتوں کا رخ ہالہ کے بجائے Currant Affair پر تھا۔

☆.....☆.....☆

آفس ٹائم پانچ بجے ختم ہو جاتا تھا۔ پانچ بجے وہ اپنے تمام کام سمیٹنے لگی۔ آصف صاحب کو کل کے لیے کچھ ضروری ہدایات دیں اور اپنی گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھا کر نکلنے ہی والی تھی کہ پیون نے بتایا۔

”آپ کو صاحب اندر بلا رہے ہیں۔“

شاید یہ میری محبت کی انتہاء ہے یہ باتیں عدنان سے کرنی ہوں تو وہ میرے ہاتھوں میں اعتماد کے اتنے خوش رنگ پھول تھما دیتا ہے کہ میں ان کی خوشبو دل میں اتارتے ہوئے مطمئن ہو جاتی ہوں۔ اب کل ماما سے خالہ نے اس رشتے پر بات کی تو میرے گھر والے بھی بہت خوش ہوئے اور میں خود بھی اپنی محبت کی تکمیل ہونے پر جیسے ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں نم تھیں ”ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو سوچا جاتا ہے۔ کبھی جب چاہا جاتا ہے تو ضروری نہیں چاہت بھی مل جائے۔ بارش تو ہر طرف ہی برسی ہے لیکن زمین کے ہر ٹکڑے کو ہریالی نصیب نہیں ہوتی۔ خود زمین کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ بس ثناء یہی بات انسانوں پر منحصر ہوتی ہے۔ تم تو ہو ہی اچھی یقیناً تمہارے دل کی زمین پر پھیلی یہ کونپلیں تناور درخت ضرور بنیں گی اور اچھا پھل دیں گے۔ یہ میری دعا ہے۔“ وہ دونوں باتیں کر رہی تھیں کہ خانسماں نے کھانے کے تیار ہو جانے کی اطلاع دی۔ ثناء نے اس سے معذرت کر کے گھر واپس جانے کی اجازت لی۔ وہ اسے الوداع کہہ کر نانی امی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔

☆.....☆.....☆

کھانا ٹیبل پر چن دیا گیا تھا۔ نانی اور وہ ”مہمان“ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں بلیو جینز پر بلیک ٹی شرٹ پہنے ایک بلند قامت شخص۔ السلام علیکم کہتا ہوا اس کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔

”سلام! جیتے رہو بیٹا! اشعر یہ میری نواسی ہے ہالہ۔ نانی نے دونوں کا تعارف کروایا۔“  
”ٹائٹ ٹومیٹ یو۔“ وہ سرخم کرتے ہوئے بولا جو اب اس نے بھی سر ہلا دیا۔



وہ اوکے کہتی سرکاشان کے کمرے کی طرف  
بڑھی۔

”پلیز سٹ ڈاؤن مس ہالہ!“ کاشان اپنی  
فائل پر تیزی سے اپنا قلم چلاتے ہوتے اس کی  
طرف دیکھے بغیر بولا تھا۔ چند لمحے یونہی گزر گئے  
وہ فائل بند کر کے اب اس کی طرف متوجہ ہو کر  
بولا۔

”مس ہالہ آپ سے ایک اپورٹمنٹ پر اہلم پر  
ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ If you dont  
mind میں کہیں چل کر اس سلسلے میں ایک میٹنگ  
کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔

”کیسی پر اہلم ہے سر؟“  
”آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟“ وہ اس  
کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔  
”یس سر!“ اس نے گھبراہٹ میں جلدی  
سے کہا۔

کاشان کی گاڑی میں وہ دونوں PC ہوٹل  
میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ یہاں کئی بار کمپنی کے  
دیگر آفیسرز کے ساتھ میٹنگ اینڈ کرتی تھی۔  
اسے پریشانی اس بات کی تھی کہ اس آرچنٹ  
میٹنگ کی وجہ سے اسے آج خاصی دیر ہو سکتی تھی۔  
اگر اسے کاشان پہلے بتا دیتے تو وہ نانی کو اطلاع  
کر دیتی لیکن سر کی سنجیدگی اور رعب کہ زیر اثر وہ  
کچھ کہنے سے معذوری ہو گئی تھی۔ کسی روبروٹ کی  
مانند وہ ان کے حکم کی تکمیل کر رہی تھی۔ وہ لوگ  
اب پہلے سے ایک ریزوٹیل کے سامنے رُک  
گئے۔ سرکاشان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور  
اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ بیٹھتے ہوئے سوچنے لگی  
کہ پہلے سے اس میٹنگ کے لیے ٹیبل ریزوٹ گرائی  
گئی تھی تو اسے پہلے مطلع کیوں نہیں کیا گیا۔ آفس  
کے بعد وہ کہیں شادو نادر ہی جاتی تھی۔ اس کے

چہرے کا زاویہ بگڑنے لگا لیکن سرکاشان کسی بات  
کی پرواہ کیے بغیر ہلکے پھلکے کھانے کا آڈر دے  
رہے تھے۔

دونوں کے درمیان طویل خاموشی تھی۔ آس  
پاس آنے والے لوگوں کی تعداد معمول سے کم  
تھی۔ اکثر فیملیز آئی ہوئی تھیں۔ ایک نوبیا ہتا جوڑا  
خوش گپیوں میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ ہلکی موسیقی  
نے ماحول کو رومانٹک بنا رکھا تھا۔

”مس ہالہ! کیا آپ بتا سکتی ہیں میری عمر کیا  
ہوگی؟“

وہ خاموشی توڑتا ہوا بولا جو کچھ دیر سے ان  
کے درمیان حائل تھی۔ ہالہ سرکاشان کی طرف  
سے بات شروع کرنے کے انتظار میں بیٹھی تھک  
ہار کر اپنے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی کہ ان کی  
کہلی اچانک اس بات سے وہ انہیں عجیب نظروں  
سے دیکھتے ہوئے بولی۔

”سر! اس میٹنگ کی یہی اہم بات مجھے  
ڈسکس کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔“ وہ کچھ الجھ  
سی گئی۔

”آپ میری بات کا صحیح جواب دیں۔“ وہ  
اس کی بدلتی کیفیت کو دیکھ کر زری سے بولا۔

”سریہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ معاف  
کیجیے گا میں اس اٹھمانہ سوال کا جواب نہیں دے  
سکتی پلیز وہ بات کریں جس کے لیے میٹنگ رکھی  
گئی ہے۔“

”میں وہ بھی کر لوں گا۔ ابھی میں آپ سے  
جو اٹھمانہ سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے۔ وہ  
ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ عجیب  
پاگل شخص ہے بلا وجہ رعب ڈالنے کی کوشش کر رہا  
ہے کہہ جو دیا پھر بھی احمقوں کی طرح اپنی عمر  
گنوانے بیٹھا ہے وہ دل ہی دل میں خود سے سوال



جواب کرتی رہی۔ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔  
دل تو چاہ رہا تھا کہ اسی وقت ریزائن دے دے  
اور خوب سنائے۔ لیکن سامنے بیٹھے رعب دار  
شخصیت سے وہ دل سے مرعوب تھی چاہتے ہوئے  
بھی کہہ نہیں پا رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا یہاں سے  
خوب تیز دوڑ لگائے لیکن جانے کیوں بیٹھی رہی۔  
پھر اس نے جیسے خود ہار مان لی وہ کسی احتجاج کی  
ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر وہ بہ غور سامنے بیٹھے  
شخص کی طرف دیکھنے لگی تاکہ اس کے کئے گئے  
بے تکے سوال کا جواب دے سکے۔

بلیو جینز پر بلیو دھاری شرٹ پر سفید رنگت  
نمایاں ہو رہی تھی۔ گھنے بالوں کو جیل سے سنوارا  
گیا تھا۔ بلند قد و قامت کے مالک ان کی پرسنالٹی  
شاندار تھی گھنی مونچھوں تلے مسکراہٹ کا شان کے  
لبوں پر دوڑ رہی تھی۔ وہ اس کا ایسے جائزہ لے  
رہی تھی جیسے سامنے رکھے بے جان مجھے کو اپنی  
نظروں سے پرکھ رہی ہو۔

”سر! 30 سال سے زیادہ عمر نہیں ہوگی۔“ وہ  
ٹپٹا کر بولی تب کا شان نے مسکرا کر بولا۔

”.....نومس! آپ کا اندازہ غلط ہے۔ آئی  
ایم 38 ایئر اولڈ!“

کا شان کی بات پر وہ حیرت زدہ ضرور ہوئی  
کیونکہ کا شان کی پرسنالٹی اتنی شاندار تھی کہ وہ تیس  
برس سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ وہ بظاہر ایسے بیٹھی  
رہی جیسے اسے اس بات کی پروا نہیں کہ وہ عمر کی  
حصے میں ہیں۔ اس کے چہرے سے بے زاری  
فیک رہی تھی۔ اسے یہ باتیں زیر بحث لانا اچھا  
نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سر کا شان کی طرف ایسے ہی  
دیکھنے لگی جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ اب وہ مزید کیا  
بات کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا یہاں بیٹھنے کا کیا  
مقصد ہے؟ وہ اپنے ذہن میں کئی سوالات لیے

کبھی ان کی طرف اور کبھی اپنی بند مٹھیوں کی طرف  
دیکھ رہی تھی جو پسینے سے شرابور تھی۔ اس سے پہلے  
کہ وہ کچھ کہتی سر کا شان اس کی جھنجھلاہٹ کا  
جائزہ لے چکے تھے۔ بولے۔

”میں چاہتا ہوں آپ یہ جاب چھوڑ دیں۔  
میں آپ کو دوسری جاب آفر کرنا چاہتا ہوں۔  
”مگر کیوں سر؟ کیا میری کارکردگی میں کوئی  
کمی رہ گئی ہے اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھے بتا  
سکتے ہیں۔“

”یہی تو مسئلہ ہے آپ میں کوئی کمی نہیں۔“  
”آپ مجھے کون سی دوسری جاب آفر کرنا  
چاہتے ہیں سر!“ وہ ضبط کر کے بولی۔

”ہاؤس جاب۔“ اس نے اطمینان سے کہا۔  
”کیا مطلب آپ کا؟“ وہ کھڑی ہو گئی۔

”پہلے میری بات کول ڈاؤن ہو کر سنیے پھر جو  
مرضی فیصلہ کیجیے گا۔“ اس نے اشارے سے ہالہ کو  
بیٹھنے کا حکم دیا جب وہ بیٹھ گئی تو دوبارہ بولا۔

”میں کا شان حمد اے گھر کا اکلوتا چشم  
و چراغ ہوں۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے  
بعد صرف اور صرف کئی سال اپنے والد کے بزنس

سنہالنے اور اسے ترقی دینے کے لیے گزار  
دیے۔ می کی خواہش تھی کہ جلد از جلد شادی کر  
لوں۔ لیکن میں خاصا پریکٹیکل بندہ ہوں۔ زندگی  
پریکٹیکل گزاری اور اپنا لائف پارٹنر بھی ایسا چاہتا  
ہوں۔ جیسا میں خود ہوں جبکہ می میرے لیے

خاندان سے جوڑکیاں دیکھ رہی ہیں ان کا مزاج  
الٹرا ماڈرن ہے۔ اور مجھے خود کو شو آف کرنے والی  
لڑکیوں سے سخت چڑ ہے۔ جو خوبیاں اور جیسا

مزاج میں اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ  
سب آپ میں موجود ہیں۔ آپ کو اس طریقے

اپنی عمر بتانے کا یہی مقصد تھا کہ میں جاننا چاہتا



میں آفس سے ہالہ نے گاڑی منگوائی تھی۔

☆.....☆.....☆

”بہسی زندگی میں مخلص ساتھی ملے تو اسے اپنانے میں وقت ضائع مت کرنا۔“

اس کے کانوں میں ثناء کی بات گونجنے لگی۔

پھر اس نے نانی امی کو ساری بات بتادی۔

لیکن بیٹا! جانتی ہو یہ مہمان کون ہے؟ اشعر کو

تمہاری ممانے بھیجا ہے یہ ان کی خواہش ہے کہ تم

ایک دوسرے سے ملو اور یقینی بندھن میں بندھ

جاؤ۔“

”نہیں نانی امی! میں اس ماں کی خواہش کا

کیسے احترام کر لوں جس نے کبھی ماں ہونے کا

فرض ادا ہی نہیں کیا۔ آپ نے خود ہی ایک بار کہا

تھا کہ ماما صرف اور صرف اپنی ضد میں منوانا جانتی

ہیں۔ دوسروں کی رائے کو اہمیت نہیں دیتیں پھر

میں بھی ان ہی کی بیٹی ہوں محض ان کی انا کی تسکین

کی خاطر میں خود کو قربان نہیں کر سکتی۔ اشعر لاکھ

اچھا سہی لیکن میری پسند نہیں۔ پھر بھی آپ جو کہیں

گی میں وہی کروں گی کیوں کہ آپ ہی میری ماں

ہیں اور آپ ہی باپ۔“ وہ رونے لگی۔

”نہیں..... اب نہیں..... اب ویسا ہوگا جیسا

تم کہو گی..... جیسا تم چاہو گی۔“

نانی امی کچھ سوچ کر مضبوط لہجے میں بولیں

اور ہالہ کسی معصوم بچے کی طرح ان کی گود میں

سمٹ گئی۔ اس نے اب تک کی زندگی احساس

کمتری کی کھٹن میں رہ کر گزاری تھی۔ اب اسے

لگا اس کے آس پاس تازہ ہوا جلنے لگی ہے۔

جس میں رہ کر وہ آزادی سے سانس لے سکتی

ہے۔ محبت کی شاہراہ پر اس کا یہ پہلا قدم بے

حد مضبوط تھا۔

☆☆.....☆☆

تھا۔ آپ مجھے کیا سمجھتی ہیں اور باقی لڑکیوں کی طرح آپ میری توجہ پا کر کیسا ری ایکٹ کرتی ہیں۔ آپ کی سنجیدگی مجھے اپنے متعلق پوچھنے پر آمادہ نہیں کر سکی، ورنہ میں خود طے کر کے آیا تھا آپ سے اپنے متعلق ضرور رائے لوں گا۔ بہر حال اس نشست کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں آپ کے گھر اپنے والدین کو بھیجنے سے پہلے آپ کی رائے جاننا چاہتا تھا۔ ہمارے درمیان خاصا اتج ڈیفرنس ہے لیکن میرے نزدیک یہ بات غیر اہم ہے۔ اصل بات ذہنی ہم آہنگی کی ہوتی ہے۔ دل خود بخود مل ہی جاتے ہیں۔ باقی آپ کی مرضی ہے۔

جو آپ کہیں گی، ویسا ہوگا۔ کل آپ آفس نہ آئیں تو شام کو میرے والدین آپ کے گھر آ جائیں گے۔

کاشان احمد کی یہ طویل گفتگو وہ سر جھکائے سنتی رہی کچھ بول نہ پائی۔

اس دوران آرڈر سرو ہونے لگا۔  
”سر! آپ میرے متعلق کچھ نہیں جانتے۔“  
وہ ہمت کر کے بولی۔

”میں سب جانتا ہوں مس ہالہ! میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ آپ سے جوڑنے کا ایسے ہی تو طے نہیں کر لیا بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ آپ کے

والدین میں طلاق سے لے کر آپ کی نانی کے ساتھ گزارنے والی زندگی..... یہ سب جانتا ہوں۔“

ہالہ اس کی بات سن کر حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ اس

دوران ان کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ کاشان احمد اسے خود گھر چھوڑنے گیا بعد



## مرے نصیب کی بارشیں

”لوگ.....؟ کون لوگ؟ کن لوگوں کی بات کر رہی ہو آپ حرمت۔ یہ راہ چلتے لوگ ہمارے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یہ اجنبی لوگ ہمیں جانتے ہی کتنا ہیں اور جب وہ ہمیں جانتے ہی نہیں۔ جب وہ ہمارے لیے اور ہم ان کے لیے سراسر اجنبی ہی.....“

زندگی کے اندھیروں میں آس کے دیپ جلاتا ایک خاص ناولٹ

عمر کی ہوں اور تم مجھے ایسے گالیاں دے رہی ہو، جیسے میں نادان بچی ہوں۔ اور یہ..... یہ میرا بیٹا۔ یہ بھی چپ چاپ.....؟ کیا.....؟ کیا کہا آپ نے میری ماں؟ اور آپ جیسی؟ ہمت کیسے ہوئی آپ کی میری ماں کا نام اپنے ساتھ لینے کی۔ ارے میری ماں صوم صلوة کی پابند، نیک پرہیزگار، تہجد گزار، شریف خاتون ہیں۔ ”آپ جیسی“ نہیں۔ خبردار! جو آج کے بعد میری ماں کا نام بھی لیا آپ نے اپنی زبان سے تو، حشر خراب کر دوں گی۔ مجھی آئیں بڑی اور ہاں نادان بچی نہیں آپ۔ لیکن بہت تیز خاتون ہیں۔ ایک بار پھر ان کی بات کاٹ کر فارحہ نئے سرے سے ان پر الٹ پڑی تھی اور منٹوں سیکنڈوں میں انہیں بے بھاؤ کی سنا کر اب روئے سخن اپنے شوہر نامدار کی جانب گھما چکی تھی۔ ”سنو جی! میں کہے دے رہی ہوں آپ کو۔ میرا گزارا اس عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بس

کچھ شرم ہے کہ نہیں آپ کو۔ ارے اور کچھ نہیں تو اپنے نام کا ہی پاس رکھ لیا ہوتا۔ اگر اس کا بھی خیال نہیں تھا تو اس غریب کی عزت کا ہی سوچ لیا ہوتا جو آپ کو ماں کہتا ہے۔ آپ کی ہر ضرورت بنا کہے پوری کرتا ہے آپ کے ناز نخرے اٹھاتا ہے۔ ارے کچھ تو سوچا ہوتا۔ کچھ تو۔!“ یوں تو پچھلے کئی گھنٹوں سے فارحہ وقفے وقفے سے ان پر برس رہی تھی۔ اس کے بولنے وادیلہ کرنے اور مغلطات بکنے کی رفتار پہلے سے کچھ کم تو نہ تھی مگر جیسے ہی ان کے بیٹے نے گھر میں قدم رکھا، اس کے بولنے کی رفتار گولی جیسی تیز اور زبان کی دھار تلوار سے بھی زیادہ تیکھی ہو گئی تھی۔

”فارحہ بیٹا! میں نے ایسا کیا گناہ کر ڈال ہے۔ جس کی سزا ختم ہونے میں نہیں آ رہی ہے۔ ارے بیٹی! کچھ تو لحاظ کرو۔ ماں نہیں ہوں تمہاری، مگر ماں جیسی تو ہوں۔ تمہاری ماں ہی کی





WWW.PAKSOCIETY.COM



روتے۔ اگر جو بے زبان زمین و آسمان کو دل و زبان عطا کر دی جاتی تو شاید زمین چیخ مار کر پھٹ جاتی اور آسمان دو لخت ہو جاتا۔ مگر نہیں جب جیتے جاگتے انسانوں کے دل پتھر اور زبانیں ڈنک بن جائیں تو پھر شاید درود یوار زمین آسمان کا ساکن رہنا ہی ٹھیک رہتا ہے۔

اس خوبصورت کوٹھی کے پورچ میں گاڑی روک کر اس نے ان کی طرف دیکھے بغیر آٹو میٹک لاک کھول دیے۔ جس کا مطلب تھا۔ انہیں اب اس گاڑی سے نکل جانا چاہیے اور باقی کا وقت لان میں بیٹھ کر اس مکان کے ٹیکنوں کا انتظار کرنا چاہیے کہ دونوں ابھی آفس سے نہیں آئے تھے۔

”بیٹا! وہ میں..... میں کیسے کہوں تم سے بیٹا۔ میرا قصور تو بتا دو مجھے بیٹا..... وہ.....!“ انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے بجائے روتے ہوئے اپنے بیٹے کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہنا چاہا مگر۔

”گلناز! اٹھاؤ ان کا سامان اور اندر لاؤ نج میں رکھ دو جا کر۔ میری بات ہو گئی ہے آرہے ہیں۔ وہ لوگ تھوڑی دیر میں اور بٹھاؤ انہیں اندر لے جا کر۔ صغریٰ دیکھ لے گی انہیں جلدی کرو۔ میرا منہ کیا تک رہی ہو۔ اور سنیں آپ بھی چلیں اب جلدی واپس۔ بھائی سے پھر کبھی مل لیجیے گا آکر۔ فی الحال ہمیں جلد از جلد واپس جانا ہے بچوں کو اکیڈمی سے چھٹی ہونے والی ہے، اور ہمیں انہیں پک بھی کرنا ہے راستے سے۔ بس کریں اب یہ میلو فیملی ڈرامہ اور چلیں اب واپس!“ ان کی بات ایک بار پھر سختی سے کاٹتے ہوئے فارحہ نے اپنی ہڑبونگ جمائی، انہیں چارونادار گاڑی سے نکلنا پڑا۔

بہت رولی، ان کے ساتھ بڑی سنواری اپنی عاقبت میں نے۔ اور بڑا نام کر لیا دنیا میں۔ خوب واہ، واہ بھی کر والی شریکوں میں۔ بس اب میں بھر پانی۔ اب کچھ دنیا اور آخرت سنوارنے کا موقع اپنے بھائی بہن کو بھی دے دیں۔ میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ ساری زندگی ”ایسے ایسوں“ کو پالنے پوسنے کا۔ اٹھاؤ ان کا بوریا بستر اور پھنک کر آؤ اپنے لاڈلے بھائی کی طرف۔ مجھے نہیں چاہیے اس بھیک کے چند اوپلی۔ ہونہہ! کتنی آسانی سے وہ دونوں چند روپوں کے عوض اپنی جان چھڑا کر چلتے بنے ہیں اور یہاں ہر طرح کی ہزیرت ہمیں اٹھانا پڑتی ہے۔ بس کہہ دیا میں نے، اب نہیں رکھنے والی میں آپ کی اماں کو..... جہاں مرضی چھوڑ کر آؤ انہیں میری بلا سے۔!“ اپنے شوہر نامدار کو منہ کھولتے دیکھ کر اس نے بے حد غصے سے اسے بھی لتاڑ دیا تو وہ بے بسی سے کبھی اماں اور کبھی بیوی کو دیکھ کر رہ گیا۔

”گلناز! او گلناز! فارحہ کی تیز پکار پر گلناز پھولی سانسوں سے بھاگتی ہوئی وہاں آئی تھی اور اب حیران حیران سی روتی ہوئی اماں سر جھکائے بیٹھے بھائی اور غصے میں بھری باجی کو دیکھ رہی تھی۔“

”چل ری گلناز جلدی کر اور اماں کا سامان اٹھا کے لا یہاں۔ دیکھ سب کچھ لے آئیں کچھ باقی نہ رہے۔ کپڑے جوتے سب لے آ۔“ فارحہ باجی کا نیا حکم سن کر گلناز چونکی تھی مگر کچھ بھی کہہ کر طوفان کا رخ اپنی طرف موڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ لہذا چپ چاپ اندر چلی گئی۔ اور پھر اگلے چند گھنٹوں میں وہ اپنے ہی گھر سے کچھ بے سرو سامانی اور بے عزتی کے ساتھ نکالی جا رہی تھی کہ ارد گرد یوار کو رونے کا اختیار ہوتا تو اس کی حالت دیکھ کر شاید وہ بھی دھاڑیں مار مار کر





لاؤنج میں لگے خوبصورت آرائشی آئینے پر جیسے ہی ان کی نظر پڑی وہ پتھرا سی گئیں۔ سامنے سجے دیوار گیر شیشے میں نظر آنے والا عکس ان کا تو ہرگز نہیں تھا۔ یہ کون سی حرمت النساء تھی جو ان کے سامنے کھڑی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے انہیں یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اس نظر آنے والی شبیہ میں انہیں ڈھونڈنے سے بھی اس پرانی حرمت النساء کا نام و نشان بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جسے وہ جانتی تھی، جو انکا اپنا وجود تھیں جو وہ خود تھیں کہاں گئیں تھیں۔ وہ حرمت النساء اور یہ سامنے نظر آنے والی اجنبی عورت کون تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یا سمجھنا نہیں چاہ رہی تھیں۔

ان کے والدین نے بڑے چاڑ سے ان کا نام رکھا تھا۔ ان کے ابامیاں گورنمنٹ ہائی اسکول فار بوائز کے ہیڈ ماسٹر تھے اور بے حد علم دوست انسان تھے۔ حرمت النساء نے علم سے دوستی اپنے ابامیاں سے لی تھی اور سکھڑا پا، ہنرمندی اماں بی سے چرائی تھی۔ ہمت ابامیاں کی طرف سے ملی تھی تو معاملہ فہمی اور خوش اخلاقی اماں بی نے سکھائی تھی۔ غرض یہ کہ وہ اپنے والدین کی اُمیدوں اور تمناؤں کا واحد مرکز تھی۔ حرمت النساء کی زندگی کی گاڑی اپنے محبت کرنے والے والدین کے زیر سایہ بڑی سبک رفتاری سے رواں دواں تھی۔ حصول علم اور امور خانہ داری کے گرد گھومتے گھومتے کب ان کا بچپن اور لڑکپن چپکے سے الوداع کہہ گیا اور کب شباب نے ان کے آنگن میں ڈیرے ڈال لیے۔ انہیں خبر ہی نہ ہوئی مگر ان کے والدین تو ان کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ اماں بی نے تو کب سے چپکے چپکے ان کے جہیز کی تیاریاں کرنا شروع کر دی تھیں۔ سوان

کے بی اے کرتے ہی ان کے ابامیاں نے ان کا رشتہ اپنے دور پرے کی کزن کے بیٹے حسن ضیاء کے ساتھ طے کر دیا۔ جو ان کا بھتیجا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ہونہار اور فرمانبردار شاگرد بھی تھا۔ حسن ضیاء کے ساتھ ان کا نیا رشتہ کیا جڑا، آنکھوں نے نیندوں سے ناطہ توڑ، خوابوں کے سنگ رشتہ جوڑ لیا۔ اور پھر جلد ہی یہ سب خواب پورے ہو گئے۔ دونوں خاندانوں کو باہمی رضامندی کے ساتھ دھوم دھام سے ان کی شادی ہو گئی۔ اور حرمت النساء اپنا بچپن، اپنا لڑکپن، اپنی گڑیاں اپنے کھلونے، کتابیں سب بابل کے آنگن میں چھوڑ کر پیادیں سدھاریں۔ حسن ضیاء کا آبائی گھر ظفر وال کے قریبی گاؤں میں تھا جبکہ وہ خود نوکری کے سلسلے میں لاہور میں ہی رہتے تھے۔ شادی سے پہلے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایاز ٹمنٹ شیئر کرتے تھے مگر اب چونکہ ان کی خود کی فیملی تھی لہذا انہیں رہائش کا بندوبست کرنا تھا۔ وہ CA کرنے کے بعد ایک ویل نون کمپنی میں بڑی اچھی پوسٹ پر تھے اور ابھی ترقی کرنے کے بھی چانسز تھے۔

حرمت النساء شادی کے چند ماہ اپنے سرال میں ہی رہیں۔ انہیں مجبوری کے عالم میں لاہور منتقل طور پر آنا پڑ گیا۔ ایک تو حسن کی جاب دوسرے اماں بی کی وجہ کہ وہ بیڑھیوں سے گر کر اپنے سٹخنے کی ہڈی توڑوا بیٹھی تھیں گو کہ حسن ضیاء کو سرال شفٹ ہونے میں جھجک محسوس ہو رہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے داماد کا سرال میں رہنا معاشرے میں ہمیشہ ناپسندیدہ ہی عمل سمجھا جاتا ہے۔ چاہے بوڑھے بیمار تنہائی کے مارے ساس سردیوروں سے ٹکرا کر مرجائیں یا اندھیری رات کو ڈاکو لٹیروں کے ہاتھ زنج ہو جائیں۔ مگر



# پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

## یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو م ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ سیریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on  
Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1



بٹی کے والدین ہونے کے ناطے وہ اکلوتی بیٹی، اکلوتے داماد کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ کیوں کہ لوگ کیا کہیں گے۔

اور شاید اپنی جھجک کی وجہ سے حسن ضیاء کوئی گھر وغیرہ لے ہی لیتے، مگر اس سے پہلے ہی اماں بی نے اپنا پیر تڑوا کر ان کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ پھر سب کے سمجھانے پر وہ لوگ ابامیاں کی طرف اٹھ آئے۔ اماں بی جو کبھی معمولی نزلے کبھی بخار میں مبتلا ہو ہوئیں تھیں۔ اب جو بستر پر پڑیں تھیں دیکھتے ہی دیکھتے چٹ پٹ ہو گئیں۔ قدرت نے ان کی حساس طبیعت کا خوب بھرم رکھا اور وہ کسی سے بھی زیادہ خدمت کروائے بغیر اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو گئیں۔ حرمت النساء کے لیے یہ سانحہ بہت بڑا تھا۔ اماں بی کی نرم نرم آغوش ان سے ہمیشہ کے لیے چھن گئی تھی۔ وہ جانے کب تک اس صدمے کے زیر اثر بولائی بولائی پھرتیں کہ قدرت کو ان پر رحم آیا اور ان کی دل بستگی کا سامان زید کی صورت میں ان کی گود میں اتار دیا۔ وہ تو ان ننھے کھلونے کو پا کر بہلی تھی۔ ابامیاں کے بے رونق چہرے پر بھی جیسے رونق دوڑ گئی۔ زید ان کا سب سے زیادہ لاڈلا شہزادہ تھا۔ اور حسن کی تو اس میں جان تھی۔ پھر جلد ہی جلد زید کی محبتوں میں حصہ بٹانے، ان کے گلشن کو مہکانے کے لیے انعم بھی چلی آئی۔ اب اور انہیں زندگی سے کیا چاہیے تھا۔ حسن ضیاء کی پرورش بھی ہو گئی تھی۔ ان کی سیکری میں ہینڈ سم اماؤنٹ کا اضافہ ہوا تھا۔ ادھر انعم کی پیدائش کے فوراً بعد حسن کے اباجی نے اپنی ساری جائیداد اپنی زندگی میں ہی اپنے یتیم بچوں کے میں تقسیم کر دی تھی۔ جس کی وجہ سے انہیں بھی خاصی رقم ملی، جس سے انہوں نے جوہر ٹاؤن میں پلاٹ لے لیا۔ زندگی بڑی پرسکون گزر

رہی تھی نہ کوئی جھنجھٹ نہ کوئی فکر۔

”حرمت! ہم اپنے بچوں کو شہر کے بہترین اسکول میں داخل کروائیں گے۔ ہم اپنے بچوں کے فیوچر کو سیکور کرنے کے لیے ان کے نام سے پراپرٹی بھی لیں گے، میں چاہتا ہوں حرمت کہ بچوں کو کوئی کمی، کوئی احساس کمتری کبھی نہ ہو انہیں سوسائٹی میں موؤ کرنے کے لیے ان کی تنگ و دو نہ کرنی پڑے جتنی کہ مجھے کرنی پڑی ہے۔!“ حسن ضیاء نے کچھ اس طرح کہا کہ وہ چونکتے ہوئے بولی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں اور کس طرح کی تنگ و دو کرنی پڑی آپ کو؟ آپ نے مجھے بتایا نہیں کبھی؟!“

ہاں نہیں بتایا کسی کو بھی نہیں بتایا۔ حتیٰ کہ بہت پیار کرنے والے اپنے والدین کو بھی نہیں بتایا۔ بہت سال پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک جوشیلا اور باہمت جوان حصول علم کے لیے اپنا آپ منوانے کے لیے اپنا نام خود پیدا کرنے کے لیے اس بڑے شہر میں آیا تو، وہ باہر سے جتنا مرضی بہادر، اسٹرائنگ اور جوشیلا لگ رہا تھا، مگر اندر سے بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں خوف کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ ہار جانے کا خوف پیچھے رہ جانے کا خوف اپنے باپ کا اونچا شملہ اور کسی غلطی، کسی نادانی کے سبب مٹی میں رول دینے کا خوف، وہ نو جوان سارا دن تھپتھپے لگاتا۔ اونچا اونچا بولتا، خوب جم کر بڑھتا، اور شہری لڑکوں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے مسلسل جہد و جہد کرتا۔ مگر جیسے ہی رات اپنے پنکھ پھیلاتی وہ اپنے خوف سے لپٹ کر روتار اتوں کو جاگ جاگ کر اپنے آپ کو ہمت دلاتا اور ہر صبح اٹھ کر سب سے پہلے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو ایک سیڑھی اور اوپر



چڑھنے کے لیے تیار کرتا۔ تم نہیں جانتیں  
 حرمت! یہ سب کس قدر مشکل تھا۔ وہ دور وہ جہد و  
 جہد وہ کامیابیوں کی راہ میں اندھا دھند دوڑنا اور  
 راستے میں ہی کھو جانا۔ مگر شکر ہے کہ مجھے ابامیاں  
 کا سارہ شفقت میسر آ گیا اور میں بلا خراپنی منزل  
 کو باقی گیا۔ مگر حرمت! میں نہیں چاہتا کہ زید کو کسی  
 بھی قسم کی کوئی پرالہم ہو اس لیے انہیں ہم فلک  
 سپورٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے ناں!“ انہوں نے  
 حرمت النساء کے ہاتھ تھامتے ہوئے مضبوطی سے  
 کہا تو وہ بھیگی پلکوں سے مسکرا دیں۔

☆.....☆.....☆

ابامیاں کی دعاؤں کے سائے تلے وہ اپنے  
 بچوں کی بہترین پرورش کرتے انہیں ہر سرد و گرم  
 سے بچائے ہوئے تھے۔ ان کے بچے، ان کے  
 خوابوں کی حسین تعبیر ان کی آرزوں میں رنگ  
 بھرنے کے لیے پڑھائی اور غیر نصابی سرگرمیوں  
 میں ہمیشہ اول نمبر پر رہے تھے۔ زندگی اگر اسی  
 طرح چلتی رہتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ نہ کوئی اتار  
 چڑھاؤ، بس ہموار راہیں اور سبک رفتار سفر.....  
 مگر نہیں! یہ زندگی ہے۔ پوری کی پوری زندگی۔  
 کوئی دو گھنٹے کا سفر نہیں کہ اس میں ہموار چلتا چلا  
 جائے اور کوئی اسٹریٹ بریکر نہ آئے اور ان کی  
 زندگی کی سیدھی رداں سڑک پر بھی بریکر آ گیا۔ ابامیاں  
 کی وفات کا زبردست جھٹکا لگا انہیں۔ اس  
 دنیا میں ہر آنے والے کو جانا بھی پڑتا ہے۔ ”قل  
 نفس ذائقۃ الموت۔“ اور ابامیاں بھی انہیں چھوڑ  
 اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ جھٹکا ان سب  
 کے لیے بہت بڑا تھا۔ اماں بی کی طرح ابامیاں  
 بھی بہت کم بیمار پڑے تھے۔ بہت فٹ اور فعال  
 زندگی گزار کر بڑے سکون سے اپنے سفر آخرت پر  
 روانہ ہوئے تھے۔ اس جھٹکے سے سنبھلنے میں انہیں

وقت بھی لگا اور دقت بھی ہوئی مگر بہر حال وہ اس  
 فیز سے بھی نکل آئے کہ عم کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو  
 آہستہ آہستہ اس کا اثر زائل ہو ہی جاتا ہے۔ سو وہ  
 لوگ بھی آہستہ آہستہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ  
 آئے اور یہ تو ہے جہاں غم ہوتے ہیں، وہیں  
 خوشیوں کا پھیرا بھی پڑتا ہے۔ ان کے در پر بھی  
 خوشیوں نے ایک بار دستک دی۔ انعم کے کلاس  
 فیلو حمزہ کے والدین اس کے سوالی بن کر چلے آئے  
 اور حمزہ کا فیملی بیک گراؤ نڈ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس  
 کے والد کا اپنا بزنس ایماڑ تھا اور حمزہ سمیت اس  
 کے دونوں بھائی بھی اپنے فیملی بزنس میں الوالو  
 تھے اور جلد ہی حمزہ کا MBA کی ہائر اسٹڈی کے  
 لیے USA جانے کا ارادہ تھا اور اس کے  
 والدین چاہتے تھے کہ وہ جانے سے پہلے اس کی  
 شادی کر دیں۔ اب یہ الگ بات تھی کہ وہ خود  
 چاہتا تھا کہ وہ انعم کو بھی اپنے ساتھ امریکہ لے  
 جائے۔ اور اس کے لیے تو ظاہر ہے شادی ہونا  
 لازمی تھی۔

آپ کیا کہتے ہیں، کیا آپ کا خیال ہے اس  
 رشتے کے بارے میں سوچ پوچھیں تو مجھے ڈر لگ رہا  
 ہے۔ ان کے اور ہمارے ماحول میں بہت فرق  
 ہے ان کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے۔ کہیں کل کو ہماری  
 بچی کو کوئی مشکل نہ ہو۔ آپ اچھی طرح سوچ سمجھ  
 کر فیصلہ کیجیے گا۔“

”ہوں!“ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں مگر یہ  
 بھی تو دیکھیے ناں! کہ انعم اس رشتے سے کتنی خوش  
 ہے اور بیگم صاحبہ اگر حمزہ کے گھر والوں کا اسٹیٹس  
 ہائی ہے تو ہم بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ماشاء اللہ  
 زید بھی کتنی اچھی جاب پر لگ گیا ہے۔ بہت اچھی  
 پوسٹ پر اور زین کالاء بھی مکمل ہونے والا ہے۔  
 جلد ہی انشاء اللہ وہ بھی بہترین وکیل کے روپ



”امی! کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ۔“ اور خدا نخواستہ کیوں نکالیں گے۔ مجھے بتائیں کیا فارحہ بھابی نے..... آپ کے بیٹے آپ کو گھر سے۔ یہ آپ کا گھر ہے امی جان! آپ کا اپنا گھر ہے۔ مالک ہیں آپ یہاں کی ہر شے کی۔ کیا ہم بھول گئے کہ آپ نے اور ابا جان مرحوم نے کس محبت سے محنت سے اس مکان کو گھر بنایا تھا۔ کیا ہم بھول گئے کہ کس قدر عزت اور مان کے ساتھ آپ نے ہمیں یہاں بسایا تھا۔ نہیں امی جان! ہم کچھ نہیں بھولے نہ بھول سکتے ہیں۔ کیسے بھول جائیں آپ کی محبت، شفقتوں کو کیوں اتنا ڈی گریڈ کیا آپ نے خود کو..... مجھے بتائیں..... ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ.....؟ مگر کیوں.....! سونیا کو حیرت کے ساتھ ساتھ شدید غصہ بھی آرہا تھا۔ ان کی باتیں جیسے اس کا کلیجہ چیر گئیں تھیں۔

”میں کیا کہہ سکتی ہوں ہوں بیٹا! آج کل تو فارحہ کا مزاج ہر وقت سوانیزے پر رہتا ہے۔ مجھے خود سمجھنے میں بے حد دقت ہو رہی ہے کہ وہ کیوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ ٹھیک ہے ساس بہو کا جھگڑا ہر گھر میں ہو جاتا ہے اور یہ رشتہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں کبھی کبھار لپٹی آ جاتی ہے مگر اس طرح کا سلوک میری تو عقل نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ پہلے تو چلو پھر بھی کوئی لحاظ مروت کر لیتی تھی، مگر اب پچھلے چند ہفتوں سے تو اس سے بھی گئی۔ جانے کیوں اتنی بدتمیزی کے ساتھ مجھ سے بات کرتی ہے۔ میں اپنی نگاہوں میں خود گر جاتی ہوں یہاں تک کہ نوکروں کے سامنے بھی مجھے ذلیل کرنے میں اسے کوئی لحاظ نہیں ہوتا بچے تو پھر بچے ہیں۔ ایسی صورت حال کے بعد تو میرا حوصلہ بالکل ڈھے گیا ہے اور آج تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ

میں نظر آئے گا اور پھر میں کون سا ابھی رہتا رہو گیا ہوں جو آپ فکر مند ہو رہی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں انشاء اللہ سب ٹھیک ہی ہوگا۔! حرمت کی فکر بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی ماں ہونے کے ناتے اپنے اکلوتی بیٹی کا اپنے سے اتنی دور چلے جانا انہیں ڈر رہا تھا۔ مگر حسن ضیاء نے انہیں کچھ اس طرح مطمئن کیا کہ ان کے ساتھ ساتھ دروازے کے باہر کھڑی انعم کو بھی اپنی اور حمزہ کی آنے والی خوشگوار زندگی کی پوری امید بندھ گئی۔

☆.....☆.....☆

”امی جان آپ اس طرح کیوں کھڑی ہیں؟ کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے ناں آپ کی طبیعت تو.....؟ وہ ابھی جانے کتنی دیر آسنے کے سامنے کھڑی اپنے ماضی کی چلتی فلم کو دیکھے چلی جاتیں کہ سونیا نے آکر انہیں ان کے کندھوں سے تھاما اور اپنی طرف ان کا رخ کرتے ہوئے چونک گئی۔

کیا ہوا امی جان؟ آپ رو رہی ہیں کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے یا صغریٰ۔ صغریٰ..... صغریٰ!“ اس نے اپنی بات درمیان میں چھوڑ کر صغریٰ کو پکارا۔

”ارے نہیں بیٹا! صغریٰ نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ اس غریب کو مت ڈانٹو تم۔ میں خود ہی ادھر کھڑی ہوں وہ تو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ گیسٹ روم میں جا کر آرام کرو مگر میرا دل نہیں مانا بیٹا! میں تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ اگر کل کو تم بھی فارحہ کی طرح مجھ سے تنگ آ گئیں تو میرا اگلا ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ کہاں جاؤں گی ایدھی ہوم..... کسی اولڈ ہوم یا پھر کسی شیلٹر ہوم میں۔“ جو مجھ جیسی عورت کو کون پناہ دے سکے گا۔ بھلا جس کے بیٹے گھر بدر کر دیں!“ کیا تھا ان کے دلچے میں، کینا ٹوٹا بکھرا انداز تھا ان کا سونیا کی روح تک کانپ گئی۔



مجھ جیسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے میرا بیٹا مجھے یہاں چھوڑ گیا۔ اب اس نے ایسا کیوں کہا یہ وہ زیادہ بہتر جانتی ہے میں نہیں۔“

”ہوں آپ فکر مت کریں ہم خود پوچھ لیں گے ان سے۔ ان کی جرأت کیسے ہوئی آپ پر شک کرنے کی، ماں ہیں آپ ہماری۔ کوئی اٹھارہ سال کی ٹین ایجر لڑکی نہیں۔ اور آج کل تو اتنی پابندیاں ٹین ایجر بھی برداشت نہیں کرتے۔ بہر حال آپ بے فکر رہیں آرام کریں ہم آج ڈنر باہر کریں گے اور وہ بھی آپ کے فیورٹ ریستورنٹ میں!“ سونیا نے انہیں ساتھ لگا کر تسلی دی اور پھر انہیں ان کے کمرے میں چھوڑ کر باہر چلی گئی۔

☆.....☆.....☆

گھر میں شادی کی تیاریاں زور شور سے ہو چکی تھیں۔ اور انہیں مصروف ترین اور ہنگامہ پرور دنوں میں ایک خوشگوار واقعہ پیش آیا۔ ایک شام زید کے ساتھ ایک خوبصورت اور معصوم سی لڑکی ان سے ملنے چلی آئی۔

”ابا جان! یہ فری ہے۔ میرے دوست فرحان کی کزن۔ اور فری یہ ہیں میرے ای ابو۔ ای ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور آج میں ملوانے آپ سے اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ ایک دوسرے سے مل لیں۔ ابا جان آپ انعم کے ساتھ ہی ہماری شادی کروا دیں کیوں کہ آج کل فری کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ.....“ حسن ضیاء نے بغور ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کے ہر انداز سے لگ رہا تھا کہ یہ شادی تو وہ کر کے رہیں گے اور اگر اس وقت ان کی بات نہ مانی تو وہ کسی بھی حد تک جاسکتے ہیں شاید کورٹ

میرج تک۔ مگر حسن ضیاء اتنے نادان نہیں تھے کہ جوان بیٹے سے اختلاف کر کے اسے ہاتھوں سے نکال دیتے۔

”ٹھیک ہے بیٹا! زندگی آپ کی ہے اور اس کے لیے ساتھی منتخب کرنے کا اختیار بھی آپ کو ہونا چاہیے۔ اور آپ نے اپنے لیے فری بیٹی کو چنا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض کیوں ہونے لگا۔ اور پھر آپ لوگ سمجھدار بھی ہیں باشعور بھی ہیں اپنا برا بھلا سب جانتے ہیں آپ بس ہمیں یہ بتادیں کہ ان کے والدین سے ان کا ہاتھ مانگنے کب جانا ہے۔ ہم خوشی خوشی جائیں گے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے۔“ زید کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ حسن نے بہت خوش دلی سے فری کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو اور کیا! آپ کے ابا جان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا۔ آپ کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ اللہ آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ اور ہمارے بچوں کے سارے دلی ارمان پورے کرے آمین۔ حرمت نے اپنی کلائی سے کنگن اتار کر فری کی کلائی میں پہناتے ہوئے بہت محبت اور مان سے کہا تو وہ پہلی بار مسکرا دی۔ شاید اسے اب تک یقین نہیں آیا تھا بغیر کسی رکاوٹ کے اس نے اپنی محبت کی جنگ جیت لی۔ مگر اب زین کے نام کے کنگن اپنی کلائی میں سجے دیکھ کر اسے اطمینان ہوا تھا۔

اور پھر پروگرام میں تھوڑی تبدیلی سے دونوں شادیاں بخیر خوبی انجام پائیں۔ ایک بیٹی کو انہوں نے دعاؤں کے ساتھ گھر سے رخصت کیا تو دوسری کو محبتوں کی چھاؤں میں گھر لے آئے۔ زین کی پڑھائی بھی زور شور سے چل رہی تھی۔ اس نے ایک مشہور معروف وکیل کے ساتھ جو نیئر کے طور پر کام کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ ادھر انعم



اور حمزہ کے کاغذات بھی مکمل ہوئے ادھر حسن ضیاء نے اپنے والد محترم کے نقش و قدم پر بھی چلتے ہوئے، اپنی زندگی میں ہی اپنی ساری جائیداد اپنے بچوں کے نام کر دی تھی۔ انعم کے حصے کے پلاٹ اور کاغذات اس کے حوالے کر دیے اور باقی دونوں بیٹوں اور بیوی کے نام کر کے ایک طرح سے فارغ ہوئے۔

انعم اور حمزہ کے امریکہ چلے جانے کے بعد ان کی زندگی واپس روٹین کی طرف لوٹ آئی اور پھر جیسے ہی وہ ریٹائر ہوئے انہیں زین کے لیے خریدے گئے پلاٹ پر کنسٹرکشن کا شوق چرایا۔ انہوں نے بڑے شوق سے محبت سے زین اور اس کی منگیتر جو کہ انکی بیٹی تھی کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید انداز کا خوبصورت بنگلہ تعمیر کروایا۔

ان کا زیادہ تر وقت کنسٹرکشن سائٹ پر گزرتا اور حرمت النساء گھر سنبھالنے اور سنوارنے میں مصروف رہتی کہ فری کے اور تلے کے دو بچوں نے تو اس کی خاصی مت مار دی تھی۔ ایسے وہ اس پر گھرداری کا نذید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھیں۔ لیکن ان کے اس قدر ہمدرد رویے اور خیال رکھنے کے باوجود فری جانے کیوں اکٹری اکٹری خاموش رہا کرتی بظاہر تو اسے کوئی تکلیف نہ تھی۔ نہ کوئی ظالم سماج، نہ روک ٹوک..... مگر پھر بھی ان دیکھا کچھ ضرور تھا۔ جو اسے گھر والوں سے گھلنے ملنے نہ دیتا تھا۔

جلد ہی زین کا گھر مکمل ہو گیا اور ساتھ ہی انہوں نے اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی بڑے دونوں بچوں کی طرح اپنے سب سے چھوٹے لاڈلے بیٹے کی شادی بھی انہوں نے خود دھوم دھام سے کروائی انعم اور حمزہ بھی ان کی شادی میں بڑے جوش و خروش سے شریک ہوئے تھے۔ اور

پھر اسی محبت کے ساتھ نئے جوڑے کو نئے گھر میں شفٹ کر دیا گیا۔

یہ بھی دستور زندگی ہے۔ جہاں نئے جوڑے بنتے ہیں وہیں پرانی جوڑیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں۔ کوئی آ رہا یہ کوئی جا رہا ہے ہر کوئی یہ ریت نبھائے جا رہا ہے۔ حسن ضیاء بھی اس روز اچھے بھلے صبح اپنے پوتوں کو روز کی طرح پیار کر کے، حرمت اور فری کو اللہ حافظ کہہ کر اپنے شاپنگ پلازہ کا چکر لگانے گئے تھے۔ جہاں ان کی دوکانیں تھیں۔ مگر شام کو واپس اپنے پیروں پر چل کر نہ آسکے۔ وہ تو اپنے دھیان اپنی لین میں مناسب رفتار پر بائیک پر چلے جا رہے تھے۔ مگر موت جوان کے تعاقب میں تھی اس کی رفتار بڑی تیز تھی گولی سے بھی زیادہ تیز۔ اور کیوں نہ ہوتی انہیں لے جانے ہی تو آئی تھی۔ سو انہیں لے جائے بغیر کیسے واپس جاتی سو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اور درمیانی رفتار سے چلنے والی بائیک صرف ایک خالی جوس کاشن پیسے کے نیچے آنے سے لہرائی اور سیدھی اپنی سوار سمیت نہر میں جا گری۔ بس لمحوں کا کھیل تھا۔ اور بازی ٹھپ۔ سب ٹھاٹھ دھرا کا دھرا رہ گیا اور بخارہ چلتا بھی بنا۔

☆.....☆.....☆

”یہ کیا کہہ رہی ہیں بھالی آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟“ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہو گی۔..... ایسے کیسے..... کس طرح.....!؟“

نا بھابھی ناں! کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہمیں۔ وہ لوگ خود آئے۔ عثمانی صاحب اور ان کا بیٹا اور بہو۔ اور وہ لوگ کیوں آئے کیسے آئے؟ کس کے کہنے پر آئے۔ اتنی نادان تو تم بھی نہیں ہو ناں۔ آخر کو اتنی بڑی وکیل ہو کچھ تو اندازہ ہو گا ہی



تمہیں بھی ناں؟“ سونیا کی بات برے غصے سے کاٹتے ہوئے فارحہ نے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ سلگ کر رہ گئی۔

”بھابی پلیز! اول تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ ایسا ویسا کچھ ہے اور اگر ہے تو کیا برا ہے۔ آپ خود ہی بتائیں وہ عثمانی انکل کی بہو بھی تو بہو ہی ہے ناں۔ وہ اگر ایسا سوچ سکتی ہیں تو آپ اور میں کیوں نہیں؟“

”ارے ہٹاؤ! تو بہ ہے تمہیں میں ہی نظر آئی ہوں ان خرافات کے لیے جاؤ بی بی بخشو مجھے۔ میں بھر پائی۔ تم بھی تو بہو ہونا تم سوچ لو تمہارا تو رشتہ ویسے بھی بڑا مضبوط ہے ان کے ساتھ آخر کو ان کی چہیتی بیٹی بھی تو ہوا ان کے مرحوم شوہر کی۔ سو، جو کروگی بہتر کروگی مجھ سے کوئی توقع نہ رکھنا تم بالکل بھی.....!“ فارحہ نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹتے ہوئے لٹھ مار انداز میں کہا تو سونیا کھڑی ہو گئی۔

ٹھیک یہ بھابی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جو میں آپ سے اکیلے بات کرنے کے لیے آ گئی اور وہ بھی اس وقت جب آپ اکیلے تھیں۔ مجھے آپ کے دیور کے ساتھ ہی آنا چاہیے تھا۔ اور بھیا کی موجودگی میں ہی بات کرنی چاہیے تھی۔ غلطی ہو گئی اب چلتی ہوں۔ مگر آپ سے اب ان دونوں کے سامنے ہی بات ہوگی۔ اور اگر کسی انتہائی فیصلے تک ہمیں پہنچنا پڑا، جس میں امی کی بہتری ہوئی تو ہم آپ کے کسی اعتراض کو ذرہ برابر خاطر میں نہیں لائیں گے یاد رکھیے گا آپ۔ ا“ بیک کندھے پر ڈالتی گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کر رہی تھی۔ اور وہ بھی فارحہ ہی کیا جو کسی کی وارننگ برداشت کر لے۔ اور وہ بھی سونیا کی۔

”اگر یہ بات ہے تو تم کان کھول کر سن لو اگر تم لوگوں نے کوئی ایسا ویسا کارنامہ سرانجام دیا تو یاد رکھنا تم لوگوں سے ناٹھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں جینا مرنا ختم کر دوں گی تم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے، اسی کے انداز میں اسے وارن کرتی فارحہ بھی فلک جارحانہ موڈ میں تھی۔

معاف کیجیے گا بھابی! ناتے تو آپ نے پہلے بھی کچھ خاص نہیں چھوڑے اور رہی بات مرنے جینے کی تو، وہ سب نے اپنے لیے ہی جینا اور اپنی ہی موت مرنا ہوتا ہے۔ اس کی آپ ٹینشن نہ لیں چلتی ہوں۔ اللہ حافظ۔

بڑے سکون سے کہتی سونیا باہر نکل گئی اور فارحہ کو مزید پتنگے لگا گئی۔ وہاں سے آنے کے بعد سونیا نے اپنے طور پر تحقیق کی تو بہت کچھ اس کے سامنے آیا اس نے اپنی تحقیق کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ ساس اور نند کو بھی شامل کر لیا۔ اور پھر کافی روز کی جستجو اور سوچ بچار کے بعد وہ لوگ بلا آخر ایک منطقی نتیجے پر پہنچ ہی گئے۔

☆.....☆.....☆

جوہر ٹاؤن بی بلاک کے اس خوبصورت بنگلے میں اس وقت بڑی خوشگوار اسی رونق تھی۔ زمین اور سونیا کے ساتھ انم اور حزرہ بہت خوشگوار انداز میں مہمانوں سے مل رہے تھے۔ ان کے بہت قریبی عزیزوں کے ساتھ ان کے دوست احباب بھی موجود تھے۔ اور جن دو لوگوں کے اعزاز میں یہ محفل سجائی گئی تھی۔ وہ بہت پروقار انداز میں سامنے سجے ہوئے صوفے پر بیٹھے مہمانوں سے مبارک باد وصول کر رہے تھے۔ سب کے چہرے بے حد کھلے کھلے اور اندرونی خوشی سے جگمگا رہے تھے اور یہ علیحدہ بات تھی کہ اس خوشی کو حاصل



کرنے اور اس تقریب باسعید کو منعقد کرنے کے سلسلے میں ان لوگوں کو کتنے پاڑ بیلنے پڑے تھے۔

زین اور سونیا نے سارے حالات کا بڑی گہری نظر اور ٹھنڈے ول و دماغ سے جائزہ لیا تھا۔ فارحہ کی طرح جذباتی اور زید کی طرح بے حس ہوئے بغیر..... اور یہ تو الگ داستان تھی کہ وہ کیسے کیسے مرحلوں سے گزرے تھے، پھر جیسے ہی انہوں نے انعم اور حمزہ سے بات کی تو خلاف توقع وہ ان کے ہم خیال ہی نکلے اور ان کی مدد کرنے کے لیے وہ فوراً چھٹی لے کر پاکستان آگئے جس سے انہیں کافی سہارا ملا، لیکن اس کا کیا علاج کے جس مقصد کے لیے یہ سب اکٹھے ہوئے تھے اور جس فرض اور جس سنت کو دل سے ادا کرنا چاہتے تھے اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تو وہ خود ہی تھیں جن کے لیے فکر مند ہوتے ہوئے وہ اتنے ہفتوں سے خوار ہو رہے تھے سب کے، سمجھانے، زور دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ”ان کی“ طرف سے ان سب کو ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے جانے کا اعلان صادر ہو گیا تھا۔ اب ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ فریق ثانی کو فریق اول کے مقابل لاکھڑا کیا جاتا۔ اور باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا جاتا۔ سو انہوں نے باہمی رضامندی سے ایسا ہی کیا۔

”آپ مجھے بتانا پسند کریں گی حرمت النساء کہ آپ کو کوئی اعتراض کس بات پر ہے۔ بچوں کی خواہش پر، یا میری ذات پر آخر آپ بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہیں۔ یہ بچے آپ کا فائدہ ہی تو سوچ رہے ہیں آخر کیا برائی ہے اس میں؟“ وہ جانے کن سوچوں میں کم بیٹھی تھی کہ ان کے قریب سے آواز ابھری جس پر انہوں نے چونک کر سگی بیچوں پر اپنے سے

قدرے فاصلے پر بیٹھے شخص کی طرف دیکھا تھا۔  
 ”عثمانی صاحب! آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ میں تو سب کچھ سمجھ رہی ہوں۔ مگر آپ بھی ان بچوں کے ساتھ مل کر بچہ بن گئے ہیں۔ بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ پھل موسم کا بات وقت پر اچھی لگتی ہے اور ہر کام کے لیے ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر رہے اور جیسی خواہش آپ لوگ کر رہے ہیں وہ اب..... اس عمر میں..... ناممکن ہے..... بھلا لوگ کیا کہیں گے۔ زمانہ تھو تھو کرے گا وہ تو سب نا سمجھ، نادان ہیں مگر میں اور آپ تو دانا و بینا ہیں نا..... تو پھر کیسے.....!“

”لوگ.....؟ کون لوگ؟ کن لوگوں کی بات کر رہی ہو آپ حرمت۔ یہ راہ چلتے لوگ ہمارے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یہ اجنبی لوگ ہمیں جانتے ہی کتنا ہیں اور جب وہ ہمیں جانتے ہی نہیں۔ جب وہ ہمارے لیے اور ہم ان کے لیے سراسر اجنبی ہی ہیں۔ تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے ہمارے بارے میں باتیں بنانے کی۔ اور اگر آپ کا اشارہ اپنے رشتہ داروں، اپنے بچوں کی طرف ہے تو وہ باتیں کیوں بنانے لگے۔ وہ تھو تھو کیوں کریں گے۔ جب کہ وہ تو خود دل سے ہی ایسا چاہتے ہیں۔ آپ کی بیٹی داماد جو امریکہ سے صرف آپ کی خوشی اور آپ کو خوش دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اپنا سب کام دھندا چھوڑ کر۔ اور آپ کا بیٹا بہو کتنے دنوں سے اپنی ساری مصروفیات چھوڑے صرف اور صرف آپ کے پیچھے خوار ہو رہے ہیں اور میرا بیٹا اور بہو، جو ہر دن رات آپ سے التجائیں کر رہے ہیں۔ آخر کس لیے۔ مجھے بتائیں نا حرمت..... آخر کس لیے۔ صرف اور صرف آپ کو اس عذاب سے بچانے



کے لیے ہی ناں، جو حسن کی جدائی کے بعد آپ کا مقدر ہو گیا ہے بتائیں ناں حرمت۔ جب وہ لوگ اتنے فکر مند ہیں آپ کے لیے تو وہ کیوں باتیں بنا میں گے آخر کیوں.....؟“ عثمانی صاحب نے ان کی بات کاٹ کر کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل ہی دل میں قائل ہو چکی تھیں۔

”وہ تو ٹھیک ہے عثمانی صاحب! مگر میرے لیے حسن ہی سب کچھ تھے۔ کل بھی اور آج بھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی ان کے نام کر دی تھی، ان کے علاوہ کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تب بھی نہیں جب پانچ سال پہلے وہ مجھے اچانک چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اور مجھے خود کو یقین دلانے میں اتنے برس گزر گئے کہ اب میں اکیلی رہ گئی ہوں تو اب تو میں تسلیم کر چکی۔ اور خود کو ان کی یادوں کے سہارے جینے کی عادی بھی بنا چکی تو اب یہ کیسے ممکن ہے میں ان کی جگہ کسی اور کو دے دوں ناممکن..... یہ مجھ سے نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں۔“

”تو آپ کو کون کہہ رہا ہے۔ آپ حسن کی جگہ کسی اور کو دیتے کوئی کسی کی جگہ کیسے لے سکتا ہے حرمت۔ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ہماری زندگی سے جڑے ہر شخص کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ ہر رشتہ، ہر ناٹھ اپنے مقام پر ہی اچھا لگتا ہے۔ آپ نے تو حسن کی بھرپور اور خوشگوار رفاقت میں زندگی گزار دی مگر میں..... میں اپنی ادھوری رفاقت دینے والی ادھوری رفیق حیات کی یادوں سے اب تک خود کو بہلاتا رہتا ہوں۔ میرا بیٹا شائق صرف پندرہ سال کا تھا، میٹرک کا اسٹوڈنٹ جب میری محبوب بیوی شائقہ دس سالہ طویل بیماری سے جنگ کرتے کرتے آخر کار ہار گئی۔ موت

جیت گئی اور میری شائق کی محبت روتی سر پٹختی رہ گئی شائقہ نے اپنی زندگی کے آخری سال بیماری میں بستر کی ہی ہو کر گزارے۔ اس کے باوجود میری اس سے محبت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی بلکہ روز بروز اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ گھر کا سارا انتظام میری دور کی بیوہ اور بے اولاد چچی بی دیکھتی تھیں۔ شائقہ کی دیکھ بھال کے لیے کل وقتی نرس ہونے کے باوجود میں بھی اپنا سارا فارغ وقت اس کے ساتھ اور شائق کے ساتھ گزارتا۔ ہمیں علم تھا کہ وہ ہمیں کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ کینسر نے اس کے سارے جسم میں اپنے زہریلے اور نوکیلے پنچے بڑی مضبوطی سے گاڑ رکھے تھے۔ مگر پھر بھی جانے وہ کون سی کوشش میں تھی کہ وہ ایک طویل عرصے تک اپنی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہماری محبت میں اسے پچھاڑے چلی جا رہی تھی مگر پھر مہلت ختم ہوئی جتنا وقت اسے دیا گیا پورا ہوا..... جتنا عرصہ ہم نے مل بیٹھنا تھا، ہنسنا بولنا تھا تمام ہوا اور وہ باتیں کرتی کرتی اچانک خاموش ہو گئی۔ ہمیشہ کے لیے سیکھی جانتے ہوئے کہ ایسا ہونا ہی تھا۔ یہ تو طے تھا۔ ہم باپ بیٹا بے یقینی کی سولی پر لٹک گئے۔ چچی بی ہماری حالت دیکھتی روز روز روتیں..... اور پھر اس بوڑھی نمگسار خاتون اور معصوم سہے ہوئے بچے کے لیے مجھے چھوڑ کر خود کو سنبھالنا پڑا۔ واپس زندگی کی طرف آنا ہی پڑا۔

حرمت! آپ جانتی ہیں جب شائقہ کا انتقال ہوا میں جوان تھا اور شائق کی عمر کم تھی میں چاہتا تو دوسری شادی کر سکتا تھا۔ اپنی زندگی کی ویرانیاں اور اپنے خاموش گھر کی خاموشیاں بڑی آسانی سے ختم کر سکتا تھا۔ کسی بھی رنگین آپٹل کے خوبصورت رنگوں سے اپنی ظاہر ویران اور اجاز



زندگی کو رنگ سکتا تھا۔ کہ میرے مالی حالات بھی شاندار تھے اور مجھے قائل کرنے اور فورس کرنے والے بھی بہت تھے۔ مگر حرمت! میری زندگی اجاڑ اور ویران کہاں تھی۔ میرے گھر میں اگرچہ خاموشی اور سناٹا وقتی طور پر چھا گیا تھا۔ میرے اندر بڑی رونق تھی۔ شائقہ دنیا کے لیے جا چکی تھی۔ مگر میرے لیے تو آس پاس ہی موجود تھی۔ اس کے ہونے کے احساس ہر وقت میرے ساتھ رہا پھر میں اکیلے کیسے ہو سکتا تھا۔ اس لیے جب چچی کے پر زور اصرار پر بھی میں نہ مانا تو وہ خاموش ہو گئیں میں نے اپنی پوری توجہ اپنے بیٹے پر مرکوز کر دی اور الحمد للہ آج میرا بیٹا ایک مکمل اور بھرپور زندگی گزار رہا ہے۔

اریبہ! میرے بچپن کے دوست کی اکلوتی بیٹی تھی اور میں نے ان دونوں کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیا۔ مگر ایک فضائی حادثے میں اریبہ کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اس دوستی، اس رشتہ داری کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا اریبہ بری طرح سے بکھر گئی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے والدین کی بہت لاڈلی تھی۔ ان کی اچانک وفات نے اسے عظیم ترین نقصان سے دوچار کیا۔ پھر ہم سب کی محبتوں نے اسے واپس زندگی کی آنے میں مدد کی۔ پھر ننھے عیان، شایان اور ریان کی آمد نے بھی ہماری زندگیوں میں کئی نئے اور خوبصورت رنگ بھر دیے۔ مگر حرمت النساء ایک بیٹی اور ایک بہن کی کمی مجھے اور شائق کو ہمیشہ محسوس ہوتی رہی اور میں اب یہ کمی اپنے پوتوں کی آنکھ میں بھی ضرور دیکھتا ہوں وہ ہم سے اپنے دوستوں کی باربی ڈولز جیسی بہنوں کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں کا ذکر اس قدر اشتیاق بھرے انداز میں کرتے ہیں کہ ان

کے دل میں پلنے والی خواہش صاف نظر آتی ہے مگر اب شاید ایسا ممکن نہیں رہا، کیونکہ ریان کی ولادت کے دوران اریبہ کو ایسی مپلیکیشنز کا شکار ہوئی کہ پھر وہ ہارہ ماں بننے کا چانس ہی نہیں رہا۔ لیکن تب سے وہ بہ اور مثل سے ملے ہیں لگتا ہے جیسے انہیں بہن مل گئی ہیں۔ اور صرف انہیں ہی کیوں شائق اور اریبہ کو بھی تو بہن اور بھائی جیسے پیارے رشتے مل گئے ہیں۔ مجھے ان تمام بچوں کی آنکھوں میں سچی خوشیوں کا سمندر ٹھانیں مارتا نظر آ رہا ہے۔

کیا آپ انہیں دیکھ پارہی ہیں یا دیکھ کر بھی ان دیکھا کر رہی ہیں! "عثمانی صاحب کے اس طرح اچانک پوچھنے پر وہ کڑ بڑا سی گئی۔

حرمت النساء! کیا آپ میری درخواست قبول کریں گی.....؟ پلیز حرمت ان بچوں کی خوشیاں ان سے مت چھینیں۔ ایک فارحہ جیسی خود غرض بہو اور زید جیسے بے حس بیٹے کو خوش کرنے کے لیے آپ اتنے سارے دلوں میں بسی اتنی ساری خوشیاں اور ان آنکھوں میں سجائے سپنوں کو کیسے توڑ سکتی ہیں۔

آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں حرمت؟ بتائیں مجھے پلیز کچھ تو بولیں آپ.....؟ عثمانی صاحب نے کچھ اس انداز میں کہا کہ ان کی کہی ہر بات حرمت النساء کے دل میں اترتی چلی گئی۔ انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرنے لگیں۔

حرمت النساء! میں پھر پوچھ رہا ہوں۔ کیا آپ اپنی زندگی کا باقی ماندہ سفر میں مجھے ہمراہی کا شرف بخشنا پسند کریں گی۔

یقین مانیں! میں آپ کو بالکل بھی اُداس نہیں ہونے دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ حسن کو بھلانا آپ کے لیے اور شائقہ کو بھلانا میرے لیے کچھ



صاحب کے اس بیان نے دور کر دی۔

ہوں..... ٹھیک ہے عثمانی صاحب! اگر آپ سب کی یہ ہی خوشی ہے اور اللہ کی اسی میں رضا ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں سوائے اس کے کہ میں بھی راضی ہوں۔ مگر میری بھی ایک شرط ہے! انہوں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تو عثمانی صاحب کھل کر مسکرائے۔

”آپ کی جو بھی شرائط ہیں ہمیں سنے بغیر منظور ہیں۔“

تھینک یو ای..... شکریہ ای.....!“ ان کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی جانے وہ کہاں سے وہ سب نکل کر یک زبان کہتے ان سے لپٹ گئے۔

☆.....☆.....☆

اتوار کا دن تھا اور چھٹی ہونے کی وجہ سے ناشتا بھی دیر سے ہوا تھا اور پھر سارے کام خواہ مخواہ تاخیر کا شکار ہوتے چلے گئے تھے۔ اس وقت سہ پہر کے چار بج رہے تھے۔ وہ چاروں حسب معمول لان میں موجود تھے۔ بظاہر سب کچھ ویسا ہی تھا روزمرہ جیسا..... مگر کچھ بھی پہلے جیسا نہ تھا۔ زید صبح کا پڑھا ہوا اخبار ایک بار پھر سے کھولے اس میں سر دیے بیٹھا تھا۔ جبکہ فارحہ اس کے سامنے بیٹھی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ کبھی ہلکی تو کبھی تیز آواز میں اپنی قسمت کو رونے کے ساتھ ساتھ زید کے پچھلوں کو بھی کوسے جا رہی تھی۔ سنی اور شیری ان سے کچھ فاصلے پر بیڈ منٹن کھیلتے ہوئے خود کو اس ساری بک بک سے لاتعلقی ظاہر کرنے کی کوشش میں بلکان ہو رہے تھے اور رہی گلنا زوہ تو بیچاری پچھلے کچھ دو دنوں سے ویسے ہی فارحہ کے زیر عتاب آئی ہوئی تھی اور اس وقت بھی وہ گیراج اور پورٹیکو کو پائپ لگائے دھونے میں مصروف تھی۔ فارحہ باری باری سب کو دیکھتی اور

ایسا آسان بھی نہیں..... اور سچ پوچھیں تو میں ایسا چاہتا ہی نہیں اب اس عمر میں ”جیون ساتھی“ کا مطلب سچے اور اچھے دوست کا ہوتا ہے جس سے ہم اپنے دل کی باتیں کر سکیں۔ جس کے دل کی باتیں بن کے جان سکیں۔ جو ہمارا خیال رکھے ہم اس کا خیال رکھیں اور آنے والے دائمی وقت کے لیے خود کو بہتر طور پر تیار کر سکیں۔ ساری زندگی جو کھیتی ہوئی، اس کی فصل کاٹیں اور اپنے لگائے ہوئے پھلدار درختوں کی چھاؤں میں آرام سے بیٹھ کر ان بیٹھے ریلے پھلوں کا مزہ لیں۔ تو حرمت! کیا آپ میرے ساتھ ان گھنے درختوں کی چھایا میں بیٹھنا پسند کریں گی وہ اپنی چوڑی ہتھیلی ان کے سامنے پھیلاتے ہوئے سوالیہ انداز میں انہیں دیکھ رہے تھے۔

”وہ تو ٹھیک ہے عثمانی صاحب مگر.....!“ وہ ابھی بھی تذبذب کا شکار نظر آ رہی تھیں۔

”دیکھیں حرمت! آپ کی جھجک اور تذبذب کو میں سمجھ رہا ہوں۔ آپ کے دل میں بھی ابھی بھی لوگوں کا خوف ہے، دنیا کا ڈر ہے۔ تو آپ اسے نکال پھینکیں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان یاد کریں آپ، کیا ہمارے نبی ﷺ دو جہاں کی ہدایت نہیں کہ بیوہ کا نکاح ثانی کرنے میں جلدی کرو۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے جن کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے کیا ان میں بیوہ عورت کی دوسری شادی کا حکم نہیں؟ جب یہ حکم ہے اور اللہ پاک کو یہ عمل پسند ہے، تو پھر آپ دنیا کے ڈر سے اسے کیوں کرنے سے روکنا چاہتی ہیں۔ دنیا کا، فارحہ کا، زید کا خوف اللہ کے حکم سے اہو گیا ہے کیا؟“ اور اب حرمت النساء کے انکار کا جواز ہی کہاں بچا تھا کہ قائل تو شاید وہ لے ہی ہو گئی تھی۔ بس ذرا جھجک سی تھی جو عثمانی



ایک لفظ اور نہیں..... سمجھی!، حرمت النساء نے فارحہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بے حد سرد اور کٹیلے لہجے میں کہا تو وہ ان کے اس دنگ انداز پر، منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔

”مجھے کل بھی تم لوگوں سے کوئی غرض، کوئی مطلب نہ تھا اور آج بھی تم جیسے بے حس خود غرض لوگوں کے سامنے آنا پسند نہ کرتی مگر کیا کروں تم لوگوں کا کچھ قرض تھا مجھ پر، جو مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ آج وہ قرض اتارنے آئی ہوں ورنہ تم جیسی نافرمان، منہ پھٹ اور حاسدی عورت کے منہ لگنا بھی پسند نہ کروں!“ ایک ایک لفظ برف میں ڈھلا نیزے کی آنی جیسا نوکیلا تھا۔ ول کو چھیدتا ہوا، روح میں خراشیں ڈالتا ہوا مگر تھا تو سچ ہی۔ اور سچ سے نظریں ملانا ہر کسی کے بس کی بات کہاں۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں جھوٹ، عناد اور بغض کی مکمل اجارہ داری ہو۔ اس لیے فارحہ اور زید بھی نظریں چرائے کھڑے تھے، کیوں کہ اس وقت ان کے سامنے حرمت النساء حسن نہیں، حرمت النساء عثمانی کھڑی تھیں۔ بے حد نفیس اور قیمتی لباس میں ملبوس، بہت پر وقار اور ڈیشینگ پرسنالٹی والے عثمانی انکل کے پہلو میں۔ پر وقار اور رعب دار جوڑا، جن کے رعب کی وجہ سے ہی فارحہ کی بولتی بند ہو گئی تھی اور زید کی نگاہیں زمین میں گڑی جا رہی تھیں۔

حرمت النساء! ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ آپ وہ کام پورا کریں ہمیں واپس بھی جانا ہے، بچے ہمارا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ عثمانی صاحب نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ان کی توجہ اپنے ہاتھ میں پکڑی فائلز کی طرف

پھر کوئی نئی بات یاد آنے پر پھر سے شروع ہو جاتی۔ اور اس وقت بھی اس کا پارہ جانے اور کتنا چڑھتا کہ اچانک کال بیل چیخ اٹھی۔

”میں دیکھتا ہوں.....؟“ کہتا ہوا سنی دروازے کی سمت بھاگا۔ اور ایک جھٹکے سے آہنی گیٹ وا کر دیا۔ لیکن اگلے ہی لمبے اندر آنے والی شخصیات کو دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا اور آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئی۔ یہی حال گلناز کا بھی ہوا اس کے ہاتھ سے پائپ اور جھاڑو ایک ساتھ گرے، جس کی وجہ سے فارحہ کے ساتھ ساتھ زید اور شیریں بھی چونک گئے تھے۔

”کون ہے سنی باہر، ایسے کیوں کھڑے ہو تم؟“ سنی کو بت بنا دیکھ کر فارحہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی، مگر اندر آتے ہستی کو دیکھ کر اس کا غصہ ایک دم غو کر آیا۔

”تم.....؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اتنا سب کچھ کر گزرنے کے بعد..... اتنے ”گل کھلا“ چکنے کے بعد بھی اتنی اہمیت ہے کہ تم اپنا مکروہ وجود لے کر ہمارے سامنے آ کھڑی ہو۔ کون ہے اب تمہارا یہاں.....؟ کس کے لیے آئی ہو اب ادھر۔ نکل جاؤ۔ ابھی اسی وقت نکل جاؤ میرے گھر سے باہر۔

میں تمہارا نا پاک وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی!“ چٹاخ سے زور وار آواز کے ساتھ پڑنے والے تمپٹر نے نہ صرف فارحہ کی قینچی کی طرح چلتی زبان روک دی بلکہ اس کا منہ بھی پھیر کے رکھ دیا۔

”بس! بہت سن لی تمہاری بکو اس، بس اب اس سے زیادہ ایک بھی لفظ تمہارے منہ سے نکلا تو زبان مگدی سے کھینچ کر تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گی۔ جتنا سہنا تھا سہہ چکی۔ اب نہیں اب



دلانی تو وہ بھی جیسے کہیں دور سے واپس آئیں۔

”تم اس قابل ہو تو نہیں مگر کیا کروں میری  
مجبوری ہے کہ زید ہمارے گلشن میں کھلنے والا پہلا  
پھول میرا اور حسن کا بے حد لاڈلا بچہ..... اور تم اس  
کی پسند، اس کی چاہت اور محبت اور پھر سب سے  
بڑھ کر ہمارے پوتوں سنی اور شیری کی ماں ہو۔ اور  
ماں تو جیسی بھی ہو ماں ہی ہوتی ہے اس لیے اپنے  
پوتوں کے صدقے تمہاری ازلی خواہش پوری کر  
دی ہے میں نے۔ جو تم چاہتی تھی وہ تمہیں مل گیا۔

حالانکہ یہ سب تمہارا ہی تھا اگر تم صبر اور حوصلے  
سے کام لیتی تو اس گھر کے ساتھ ساتھ اس خاندان  
سے بھی بہت عزت پاتیں۔ کہ بڑی بہو کا رتبہ اور  
مقام تو ہمیشہ سے بہت اعلیٰ رہا ہے۔ مگر یہ سب تم  
جیسی کم حوصلہ اور بے صبری کے نصیب میں ہی نہ

تھا۔ اس لیے عزت و زت کو مارو گولی۔ اور جس  
کارے مٹی کی عمارت کی چاہ میں اپنا اعمال نامہ  
سیاہ کرتی رہی ہو..... لو اس کی ملکیت کے کاغذات  
بھی آج میں نے تم دونوں کے نام کر دیے۔ یہ جو  
ابھی ابھی تم بڑے کروفر سے میرا گھر کہہ رہی تھیں  
ناں تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا یہ گھر میرے جہیز میں  
مجھے میرے ابا میاں نے دیا تھا۔ جو آج میں اپنی  
خوشی سے اپنے پوتوں کی خاطر تمہیں دان کر رہی  
ہوں۔ لو سنبھالو۔ اب کہتی پھرنا زمانے بھر میں  
میرا، میرا گھر،!“ سبز رنگ کی فائل حرمت  
النساء نے فارحہ کا ہاتھ تھام کر، اس کے ہاتھ پر  
رکھتے ہوئے کہا تو وہ جیسے کھڑے کھڑے اسی  
جگہ دفن ہو گئی۔ مگر نہیں، ابھی تو اسے اور جھٹکے  
لگنے باقی تھے۔

”سنی، شیری ادھر آؤ بیٹا!“ انہوں نے اپنے  
پوتوں کو بلایا تو وہ ایک ٹرانس میں چلتے ان کے  
پاس آ کھڑے ہوئے۔ حرمت نے دونوں کو ایک

ساتھ بانہوں میں بھر کر سینے سے لگا لیا اور باری

باری ان کی کشادہ پیشانیاں چوم لیں۔

”یہ لو بیٹا سنی، میں نے شاپنگ پلازہ والی  
گارمنٹ شاپ تمہارے نام کر دی ہے اور شیری  
بیٹا سپر اسٹور تمہارے نام بیٹا، یہ تمہاری دادو کا تم  
لوگوں کے لیے تحفہ ہے۔ میں تم لوگوں کی ترقی اور  
خوشحالی کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہوں گی۔ انہوں  
نے دونوں کو ہلکی گلابی اور نیلی فائلز پکڑاتے  
ہوئے ایک بار پھر سے گلے لگا کر پیار کیا۔

”او کے یگ مین! دروازہ بند کر لو۔ چلتے  
ہیں ہم اب، اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ! عثمانی  
صاحب نے بھی آگے بڑھ کر ان دونوں بھائیوں  
کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اور واپسی کے  
لیے مڑ گئے۔

گلناز! ادھر آؤ! جاتے جاتے حرمت النساء  
کی نظر پتھر بنی گلناز پر پڑی تو انہوں نے اسے  
آواز دے کر پاس بلایا اور پھر ہاتھ میں پکڑے  
خوبصورت اور نفیس سے کچھ میں سے کئی ہرنے اور  
نیلے نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔

تم نے میری بڑی خدمت کی ہے گلناز۔ اللہ  
تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ یہ میں تمہیں اپنی  
خوشی سے تحفہ دے رہی ہوں تمہارے خدمت کا  
اجر نہیں۔ اپنے بچوں کے لیے سردیوں کے  
کپڑے بنا لینا۔ گلناز کے تشکر سے بندھے ہاتھ  
کھولتے ہی اور اس کے بہتے آنسو پونچھتے ہوئے  
انہوں نے پیار سے کہا اور زید کی طرف ایک نظر  
بھی ڈالے بغیر واپس مڑ گئیں۔

☆.....☆.....☆

انعم اور حمزہ کی سیٹیں کنفرم ہو چکی تھیں۔ اور  
انہیں کل شام کی فلائٹ سے واپس چلے جانا تھا۔  
اسی وجہ سے عثمانی ہاؤس میں صبح سے بڑی رونق لگی



ہوئی تھی۔ شائق اریبہ، زین اور سونیا، حمزہ اور انعم اور ان کے بچے، سب مل کر انجوائے کر رہے تھے چچی بی نے جو بہت صعیف ہو چکی تھیں، مگر اس کے باوجود بے حد خوش قہقہے لگا رہی تھیں۔ شائق اور اریبہ کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا، ایک دم سے جیسے زندگی مکمل اور پر رونق لگنے لگی تھی۔ اس وقت بھی وہ سب وسیع و عریض لاؤنج میں بیٹھے مسلسل باتوں کے ساتھ ساتھ کشمیری چائے سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سب باری باری اپنی زندگی میں پیش آنے والے عجیب و غریب اور مزے دار واقعات سن رہے تھے۔ سب کتنا مکمل لگ رہا تھا خوبصورت، مکمل اور مطمئن۔

لاؤنج کی بڑی سی وکٹورین طرز کی گلاس ونڈو کے پارٹس گرین گھاس اور خوش رنگ پھولوں سے سجا لان۔ اور اس خوبصورت لان کے پار، خوبصورت براسا آہنی گیٹ نظر آ رہا تھا۔ حرمت النساء کھڑکی کے پاس رکھی ایزی چیئر پر بیٹھی سب کی باتیں مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ عثمانی صاحب کے چٹکے بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ سب کتنا مکمل، کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ مگر اندر کہیں کمی سی تھی۔ اور یہ کمی صرف انہیں ہی نہیں، لاؤنج میں بیٹھے ہر فرد کے اندر دور کہیں، بہت دور کھل رہی تھی۔ اور اس کمی کے احساس کو چھپانے کے لیے ہی شاید وہ سب اتنا ہنس بول رہے تھے۔ ان سب کی باتوں پر ہنستے، ان کی شرارتوں پر مسکراتے ہوئے بھی ان کی نگاہیں بار بار جانے کیوں گیٹ کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ جیسے کوئی نا محسوس ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے جھجکتا ہوا چلا آ رہا ہو۔ وہ بے چینی سے داخلی دروازے کو دیکھنے لگیں۔ ان کے آس پاس پھیلا شور گہرے سناٹے میں بدل گیا ہو۔ چہار اطراف خاموشی

چھا گئی۔ سب کے ہلتے ہاتھ اور بولتے لب دکھائی تو دے رہے تھے۔ مگر سماعتیں شاید سن ہو گئی تھیں اور پھر اس خاموشی اس ساکن سناٹے کو ایک معصوم سہمی ہوئی آواز نے توڑ ڈالا۔

داود جان! کیا ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں! دروازے میں کھڑے سنی، شیری اندر افراد کی موجودگی سے گھبرا کر وہیں کھڑے کھڑے اجازت طلب کر رہے تھے۔

میرے بچے! میرا سنی، میرا شیری آ جاؤ! میری جان میرے پاس آؤ۔ وہاں کیوں کھڑے ہو اندر آؤ اپنی داؤد کے پاس۔ وہ ایک دم بے تابی سے کھڑی ہو گئیں اور بانہیں پھیلا دی وہ دونوں تو دوڑتے ہوئے ان کی کھلی بانہوں میں سما گئے۔

”امی جان! مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کا نانا فرمان بیٹا! آپ کی معافی کا حقدار تو نہیں، مگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گی، تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا۔ جہنم کی آگ میں جلایا جاؤں گا۔ امی کیا چاہتی ہیں کہ۔“

”نہیں! نہیں بیٹا! کوئی ماں کس طرح برداشت کر سکتی ہے اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بچے جھلسائے جائیں سنی اور شیری کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے، روتے بلکتے زید کی بات پوری ہونے سے پہلے کی حرمت النساء نے اسے بھی پیچ کر سینے سے لگا لیا۔

”امی! آپ نے مجھے معاف کر دیا نا! وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ان سے لپٹا بچوں کی طرح منہ اٹھائے ان سے پوچھ رہا تھا۔

ہاں بیٹا! میں نے تمہیں معاف کیا۔ میرا اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے اور تم پر اپنی رحمت



اللہ میرا آپ سے بھی وعدہ ہے آپ کی جگہ اور آپ کا مقام ہمارے دلوں میں ویسا ہی بلند اور اعلیٰ رہے گا جیسا کہ پہلے تھا۔ اور یقیناً آپ بھی اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے ہے ناں۔

حسن! آپ گواہ رہیے گا میں نے آپ سے اور اپنے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ آپ جس جائیداد کا مجھے نگران بنا گئے تھے۔ وہ میں نے پوری ذمہ داری اور خلوص سے اس کے اصل وارثوں تک پہنچا دی۔ آپ کی محنت اور حق حلال کی کمائی، آپ کے پوتوں پوتی، نواسے، نواسی کے نام منتقل کر کے آج میں سرخرو ہوئی اور آپ جانتے ہیں ناں یہ میری شرط تھی اور یہ ہی میرا قرض اور فرض بھی۔ اور شائقہ میں آپ سے بھی وعدہ کرتی ہوں، زید، زین اور انعم میں بھی کبھی فرق نہیں کروں گی۔ مجھے عیان، شایان اور ریان بھی اتنے ہی عزیز ہیں جتنے کہ شیری اور سنی، میرے لیے اریبہ بھی اتنی ہی معزز اور اتنی ہی پیاری ہے جتنی کہ سونیا اور فارحہ۔ آپ بھی دعا کیجیے گا اور میں بھی اپنے رب سے التجاء کرتی ہوں کہ وہ مجھے ہمت و استقلال دے آمین۔ اور ویسے بھی ابا میاں ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے نئے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ آگے اب اللہ کی مرضی وہ جیسا چاہے ہم راضی بہ رضا ہیں۔“ حرمت النساء نے آسودگی سے مسکراتے ہوئے پہلے عثمانی صاحب اور پھر سامنے دیوار پر لگی شائقہ اور حسن کی تصاویر کو دیکھتے ہوئے مخاطب کیا اور پھر اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہو گئیں کہ اب ان کے دل کو اطمینان واثق ہو چکا ہے کہ دکھ کی دھوپ ڈھل چکی ہے اب ہر طرف سکھ کی چھایا ہی چھایا ہے۔

☆.....☆.....☆.....☆

کرے۔ وہ مسکرا کر بولیں اور انہیں اٹھا کر ساتھ لگالیا۔  
”کیا آپ کی معافی میں تھوڑا سا حصہ مجھے بھی ملے گا۔ گوکہ میں اس کی حقدار تو نہیں، مگر پلیز ای، مجھے.....!“


فارحہ ابھی تک لادنج کے دروازے سے باہر کھڑی تھی حرمت النساء نے اسے اس قدر شرمندہ اور پشماں دیکھا تو ان کا دل سبج گیا۔ اور انہوں نے اپنی بانہیں پھیلا دیں۔

آ جاؤ! فارحہ بیٹی! میں تمہیں بھلا کیسے معاف نہیں کروں گی۔ تم تو میری بڑی بہو ہو۔ میرے پوتوں کی ماں اور بڑی بہو کا مقام بھی تو بڑا ہوتا ہے آ جاؤ میں نے تمہیں دل سے معاف کیا۔ انہوں نے اپنے گلے سے لگی بلک بلک کر روتی فارحہ کو بانہوں میں بھرتے ہوئے بڑے جذب اور پیار سے کہا تو وہ کمرہ ایکدم ”یاہو“ کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ایک بار پھر تہمتے گونجنے لگے تھے۔ باتیں شرارتی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھیں اور اب اس محفل کی رونق برھانے میں وہ بھی شامل ہو چکے تھے۔

”شکر یہ عثمانی صاحب! میں آپ کی دل سے ممنون ہوں آپ کے دم سے مجھے جو عزت جو مقام اور رتبہ ملا ہے میں چاہ کر بھی اس کا احسان نہیں چکا سکتی۔ واقعی آپ ٹھیک کہتے تھے اللہ کی رضا میں راضی رہنے والوں کو ہی سچی خوشیاں ملتی ہیں اور آج اپنے سارے بچوں کے چہروں پر ان خوشیوں کا عکس دیکھ کر میں اپنے دل میں ایسا اطمینان اترتا محسوس کر رہی ہوں کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔

حسن، شائقہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، یقیناً اچھے مقام پر اچھے حال میں ہوں گے انشاء





## بند دروازے


رات کے بارو بجے تک میری نئی نویلی دلہن اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہتی۔ دلیرہ کی صبح جس زالی دلہن نے ناشتا اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ کر کیا ہو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے۔ میرا کمرہ تو اس کے لیے قید خانے کے مترادف.....

### ہر گھر کی کہانی، ایک یادگار افسانے کی صورت

بعد بچی ہوئی لکڑیوں کی حفاظت آپ ہی کرتی تھیں۔ میرے پیسوں کا حساب کتاب رکھنے کے ساتھ ساتھ میرے کھانے پینے سے لے کر میرے دن رات کا حساب رکھنا بھی آپ ہی کا کام تھا۔ مجھے یاد ہے تو آپ کو تو ضرور یاد ہوگا۔ جب کبھی مجھے محلے کے دوستوں میں بیٹھ کر دیر ہو جاتی، تو آپ میری رپوالور جو آپ ہمیشہ اپنے تکیے کے نیچے رکھا کرتی تھیں۔ اس سے فائر کرتیں تو گولی کی آواز سارے محلے میں گونج جاتی۔ تب مجھے معلوم ہوتا مجھے میری ماں یاد کر رہی ہے۔ میں نے جب لکڑی کا کام چھوڑ کر اپنی دیگرین لی تب آپ ہی نے تو اپنے سونے کے کنگن بیچ کر ایک پار پھر میرے بزنس پارٹنر کی حیثیت حاصل کی تھی۔ صرف بزنس میں ہی کیا زندگی کے ہر موقعہ پہ آپ نے میری خوشیاں اور غم بانٹے۔ ہمارا رشتہ سب سے نرالا تھا۔ جہاں آپ کے پاس آنے سے مجھے سکون ملتا تھا۔ وہاں میرے آنے سے آپ کے چہرے پر بھی رونق آ جاتی تھی۔

سب کہتے ہیں جب میں پیدا ہوا تھا۔ آپ کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اگرچہ مجھ سے پہلے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی مگر میری آمد تو آپ کے لیے بہار کا ایک جھونکا تھی۔ جب میرے بعد پانچ بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں، تو میں تو میں ہی میں رہ گیا۔ آپ کے لیے میری جگہ کوئی اور نہ لے سکا۔ آپ کے لیے تو میں ہی سب کچھ تھا۔ میرے لیے خاص طور پر دہلی چوزے پالے جاتے اور جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے تو آپ میرے لیے بھونتیں۔ جس دن گھر میں دال پکی ہوتی اس دن بھی آپ میرے لیے گوشت ضرور بناتیں۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا میرے لیے آپ کی محبت بھی بڑھتی گئی۔ بچپن ہی سے مجھے پڑھائی کا شوق نہ تھا۔ آپ نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی، جب میں کسی بھی طرح پڑھائی کے لیے تیار نہ ہوا تو میرا پہلا بزنس پارٹنر بھی آپ ہی تھیں۔ مجھے لکڑی کے آرے لگانے کے لیے آپ ہی نے پیسے دیے تھے۔ فرنیچر بنانے کے





گیا میرے اندر سنجیدگی پیدا ہوتی گئی، لیکن آپ کے پاس آتے ہی میرے اندر وہی ننھا ننھا سامنو جاگ جاتا تھا۔ جو اپنی ماں کی گود میں چھپ جانے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ آپ کی اسی محبت و چاہت کی وجہ سے باقی سب بہن بھائی مجھ سے جلنے لگے تھے۔ آپ سب ہی بچوں سے بہت محبت کرتی تھیں لیکن وہ لوگ اس فرق کو اچھی طرح محسوس کرتے تھے۔ جو آپ ان کے اور میرے مابین رکھتی تھیں۔ آپ کے لیے تو میں

جب ابوجان بیرون ملک ملازمت کے لیے چلے گئے، تو آپ کا اور میرا تعلق تو اور بھی گہرا ہو گیا۔ ہم ماں بیٹا سردیوں کے دنوں میں رضائیوں میں گھس کر اُبلے ہوئے انڈے اور مونگ پھلی بھی کھاتے اور گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ میں جب بھی بیمار ہوتا تھا بلکہ کبھی معلولی سا بھی سر میں درد ہوتا تو آپ کی گود میں سر رکھتے ہی مجھے سکون مل جاتا تھا۔ میرے لیے خاص باداموں والا دودھ بنایا جاتا تھا۔ جوں جوں میں بڑا ہوتا



پوری کائنات تھا۔ میری ضرورت، میری طلب، میرے کہنے سے پہلے ہی پوری کر دی جاتی تھی۔ سچ تو یہ ہے میرا کوئی راز آپ کے سامنے راز نہ تھا۔ آپ تو میرا آئینہ تھیں۔ اسی لیے تو جب میرے دل میں حنا کے لیے خیال آیا، تو آپ نے مجھ سے پہلے ہی میری آنکھوں میں اُس کی تصویر دیکھ لی تھی۔

حنا! ہاں حنا..... آپ کی بہو وہی حنا جو مجھ سے چھوٹی بہن فوزیہ کی کلاس فیلو اور سہیلی تھی۔ جسے میرے دل نے اپنے جیون ساتھی کے طور پر چن لیا تھا۔ وہی حنا آپ بھی جسے اپنی بہو بنانے کے لیے بے تاب تھیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنی شادی پر دولہا سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، لیکن میری شادی میں معاملہ الٹ تھا۔ آپ تو مجھ سے بھی زیادہ خوش تھیں۔ سب مہمانوں نے کہا تھا کہ میری شادی پر آپ کے چہرے پہ ایک الگ ہی نور تھا۔ اور حنا بھی زالی تھی جو شادی تو مجھ سے کر کے آئی تھی، لیکن لگتا تھا رشتہ آپ سے جوڑ کر آئی ہے۔

رات کے بارہ بجے تک میری نئی نویلی دلہن اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہتی۔ ولیمہ کی صبح جس زالی دلہن نے ناشتا اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ کر کیا ہو اُس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے۔ میرا کمرہ تو اس کے لیے قید خانے کے مترادف تھا۔ سازا دن میری بہنوں اور آپ کے ساتھ ہی ہنسی مذاق کرنا ہی اس کا شوق تھا۔ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے وہ میرے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے ہی آئی ہو۔

شادی کے ایک ہفتے بعد اس نے کالج جانا دوبارہ شروع کر دیا۔ وہ تھرڈ ایئر میں پڑھتی تھی۔ اور اپنا بی اے مکمل کرنا چاہتی تھی۔ یہ اسی دن کی بات ہے جب حنا کالج گئی ہوئی تھی میں

نے اپنی چھوٹی بہن راحیلہ کو اپنے ضروری کاغذات، شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ اور کپڑے بھی دینے کے لیے کہا کیوں کہ میں چاہتا تھا کہ میری تمام ضروری چیزیں اب میرے پاس میرے کمرے میں رہیں۔ اب میری غیر موجودگی میں حنا ان کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اور پھر جلد ہی تو راحیلہ کی شادی ہونے والی تھی۔ پتا نہیں میرا مطالبہ غلط تھا، یا درست، مگر راحیلہ کا انداز بہت غلط تھا اس نے وہ تمام چیزیں نکال کر صحن میں پھینک دی اور بولی۔

”تمہاری بیوی نے ٹی پڑھائی ہوگی“ آپ ذرا خود سوچیں ایک ہفتے کی دلہن جو اپنے شوہر سے نظر ملا کر بات بھی نہ کر سکی ہو، اسے پتیاں کیا پڑھائے گی۔ راحیلہ مجھ سے دو سال چھوٹی تھی۔ اس کی اس بد تمیزی پہ میں نے اسے ایک تھپڑ مار دیا، بس تو پھر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ آپ نے پہلی بار میرا ساتھ نہ دیا بلکہ راحیلہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ اور مجھ سے زیادہ حنا کو برا بھلا کہا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ایک بیٹا بیس، پچیس سال ماں، باپ بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی تمام اچھی اور بری عادتوں کو تمام بہن بھائی اور ماں باپ جانتے ہیں پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ان سب عادتوں کا ذمہ دار بیوی کو ٹھہرایا جاتا ہے۔

اس دن جب حنا کالج سے گھر واپس آئی، تو گھر کا ماحول ہی بدل چکا تھا۔ گھر میں کوئی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ اس کی اپنی بیسٹ فرینڈ فوزیہ اور رضیہ جن کے بغیر حنا کی صبح نہیں ہوتی تھی اور حنا کے بغیر جن کی رات نہیں ہوتی تھی، اب اُس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اس صورتحال سے گھبرا کر اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود حنا نے آپ



سے معافی مانگی۔ تب آپ نے غصے سے اُس کے ہاتھ جھٹک کر کہا۔

”چل ہٹ پرے۔ جہاں گئیں بیڑیاں (کشتیاں) وہاں گئے ملاح۔“

اس واقعے کے چند دن بعد کی بات ہے ایک روز میں آپ کے قریب بیٹھا کیونو کھا رہا تھا۔ ایک کیونو کھانے کے بعد جب میں دوسرا لینے لگا تو آپ نے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر روکا اور کہا۔ بس اپنے حصے کا کھاؤ۔“ میں جسے اٹھائیس سال تک آپ نے بلا شراکت غیرے اپنی محبت کا مالک بنائے رکھا۔ آج آپ ہی اس کو اُس کے حصے کا احساس دلا رہی ہیں بس تو پھر دوریوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔

آپ نے کیا مجھ سے ہاتھ کھینچا میں پیچھے پیچھے بہت پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ پھر آپ نے میرے لیے باداموں والا دودھ بھی رکھنا بند کر دیا۔ مجھے یاد ہے کچھ عرصے بعد آپ کی حنا سے دوبارہ بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ آپ اکثر حنا سے کہتیں۔

”منو کے لیے باداموں والا دودھ بنا کر دیا کرو دماغ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔“ تیس سال کا ہونے کے باوجود میں آپ کے لیے سعد نہیں ”منو“ ہی تھا میرے کھانے پینے کا آپ اب بھی خیال رکھتیں۔ مگر اب حنا سے کہہ دیتیں، مجھ سے برائے راست نہ کہہ سکتیں۔ میرا سر درد ہوتا تو میرا دل کہتا میں آپ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاؤں اور آپ مجھ پہ دم کریں۔ پہلے کی طرح میرا سر دبائیں، لیکن میں منہ سے اپنی خواہش کا اظہار نہ کرتا۔

میری تکلیف دیکھ کر آپ بھی بے چین ہو جاتیں، مجھ مجھ سے کچھ نہ کہتیں بلکہ حنا سے کہتیں، وہ والی آیت پڑھ کر منو پر دم کرو، سز میں سروسوں کے تیل کی مالش کرو۔ مجھے یاد ہے جب ابو کی خواہش پر شہر سے کچھ دور ایک اسکیم پر گھر بنا رہا

تھا۔ تب واپس آتے آتے مجھے رات کے دو بج جاتے میں نے اکثر دیکھا تھا آپ جاگ رہی ہوتی تھیں، لیکن میں جیسے ہی آپ کے قریب سے گزرتا آپ منہ پر چادر تان کر اپنے آپ کو سوتا ہوا ظاہر کرتیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے باہر جاتے ہوئے آپ ہمیشہ کی طرح آیت قرآنی کا حصار کھینچتی پھونک مارتی، لیکن میری نظر پڑتے ہی آپ انجان بن جاتیں۔ میں ہر پل آپ کی پکار کا منتظر رہتا تھا، جو کبھی بھی میرے کانوں نے نہ سنی تھی۔ کاش صرف ایک بار آپ مجھ سے اپنے دل کی باتیں کہہ دیتیں ”منو“ کہہ کر آواز دیتیں تو میں بھی تمام گلے شکوے بھلا کر آپ کی گود میں سر رکھ کر پوچھتا۔

”امی کیا آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں؟“ کاش صرف ایک بار.....“

☆.....☆.....☆

میں تو آپ کا لاڈلا بھی تھا۔ بچپن ہی سے آپ بڑے بھائی سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے تھے۔ میری رائے کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ جب میٹرک کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی تو آپ کو بہت دکھ ہوا تھا، لیکن آپ نے مجھ سے پیار سے پوچھا کہ اگر پڑھنا نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟“ تب میں نے کہا۔

”میں کاروبار کروں گا۔“ آپ نے نا صرف مجھے کاروبار کی اجازت دی بلکہ ہر قدم پہ میرا ساتھ بھی دیا۔ جب آپ بیرون ملک ملازمت کے لیے گئے تھے۔ سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر ڈال گئے تھے۔

ایئر پورٹ پر آپ کو خدا حافظ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ بھی اپنی پُرنم آنکھوں کے سے بار بار پلٹ کر مجھے دیکھتے رہے۔ آپ کے جانے کے بعد میں



ایک دم ہی بیس سال کا ایک ذمہ دار مرد بن گیا۔ پورے گھر کی ذمہ داری میں نے خاموشی سے اپنے کندھوں پر اٹھالی۔ پانچوں بہنوں کا خیال رکھنا، اُن کو کالج اور اسکول لانا اور لے جانا غرض گھر کا کون سا کام ایسا کام تھا جسے میں نے اپنی ذمہ داری نہ سمجھا ہو۔ بڑے بھائی کو تو شروع ہی سے کبوتر بازی کے علاوہ کسی اور چیز میں دلچسپی نہ تھی۔ گھر کے بارے میں تو اُس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ آپ کو مجھ پہ مکمل بھروسہ تھا۔ اُسی بھروسے کی وجہ سے تو آپ نے اپنی غیر موجودگی میں کاروباری معاملات کے لیے پاور آف اٹارنی لکھ کر بھیجا تھا۔ ایک پل کو آپ کے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ میرا بیٹا اس کا غلط استعمال نہ کرے اور ایک پل کو میرے دل میں بھی یہ خیال نہ آیا کہ میں اس پاور آف اٹارنی کو اپنی پاور بنالوں۔ یہ تو صرف ایک امانت تھی جو میرے ابو جی نے مجھے سونپ دی تھی۔ یہ تو صرف ایک اعتبار تھا جو میرے والد نے مجھ پر کیا تھا۔ آپ ہر ماہ صرف چند ہزار روپے باہر سے بھیجتے تھے۔ جس میں میں اپنی کمائی شامل کر کے آپ کی غیر موجودگی میں تمام ذمہ داریاں ادا کرتا تھا۔ گھر کا خرچ، بجلی کے بل، بہنوں کی پڑھائی یہ سب کچھ ان چند ہزار میں ممکن نہ تھا۔ اس کے باوجود بہنوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا۔ کہ ہمارے ابو تو باہر سے لاکھوں روپے بھیجتے ہیں جو ہمارا پھائی کھا جاتا ہے۔ ای کی محبت جو میرے لیے تھی اُسے برداشت کرنا مشکل تھا۔ اب آپ کا اعتبار اور شفقت کو بھی برداشت کرنا اُن کے لیے ناممکن ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد آپ میری شادی کے دنوں میں واپس آئے۔ ان ہی دنوں آپ کی خواہش پہ میں نے شہر سے دور نئی اسکیم پر نئے گھر کی تعمیر

شروع کر دی۔ آپ چاہتے تھے کہ اسی جگہ پر سکونیت اختیار کریں جہاں آپ مکمل سکون سے اپنا لکھنے لکھانے کا کام کر سکیں۔

اس نئے مکان کی تعمیر کے لیے آپ نے مجھے نو لاکھ روپے دیے تھے جبکہ اُس دس مرلے کے ڈبل اسٹوری مکان کی تعمیر پہ نو لاکھ سے کہیں زیادہ لگا تھا، لیکن میں نے آپ سے کچھ نہ مانگا وہ گھر بھی آپ کے نام ہی تھا۔ وہاں قیام کے بعد کے بعد آپ نے اور میں نے مل کر چاروں بہنوں کی شادیاں کر دی۔ شادی کے دنوں میں بھی بڑا بھائی کبوتر اڑا رہا ہوتا اور میں انتظامات میں مصروف پسینے میں بھیگا ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہوتا۔ میری حالت دیکھ کر حنا چڑ جاتی اور کہتی آپ کپڑے ہی بدل لیں، لیکن مجھے اس کی بھی کہاں فرصت تھی؟

اس مکان میں چند سال قیام کے بعد ہی آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے دوسری زمین ملی، تو آپ کی خواہش پہ میں نے پرانا مکان بیچ کر نئے مکان کی تعمیر شروع کروادی۔

ایک کنال پہ ڈبل اسٹوری گھر پرانے مکان کی قیمت سے کہیں زیادہ پیسوں میں بنا تھا، لیکن میں نے پھر بھی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا اور چپ چاپ آپ کی خواہش کی تکمیل کرتا رہا، لیکن پھر اچانک کیا ہوا آپ کا وہی بیٹا جو آپ کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ قابل اعتبار تھا، نا قابل اعتبار ہو گیا۔ جس بیٹے کی تعریفیں کرتے کرتے آپ کی زبان نہ کھلتی تھی اسی بیٹے میں بے شمار برائیاں نظر آنے لگیں۔

یہ اُن دنوں کی بات ہے جب ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ ایک دن چھوٹی بہن پنکی کا حنا سے جھگڑا ہو گیا۔ پنکی حنا سے سات آٹھ سال چھوٹی تھی۔ پھر بھی اُس نے حنا سے



بہت بد تمیزی کی جس کا حنا کو بہت دکھ ہوا۔ بس اتنی سی بات پر آپ نے چھوٹی بہن کے کہنے پہ اپنا کچن الگ کر لیا۔ صرف ایک بار آپ مجھ سے اور حنا سے بھی پوچھتے کہ ہم الگ ہونا بھی چاہتے ہیں یا نہیں..... اور اگر چاہتے ہیں تو کیوں؟ مگر آپ نے کچھ نہ پوچھا مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ اسی خاموشی نے دوریاں بڑھا دیں۔ آپ میرے چاروں بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ مگر جب بچے آپ سے ملنے آتے تو آپ کی نظر بچا کر چنگی اُن کو ڈانٹ کر اوپر بھیج دیتی۔ جب آپ بچوں سے نیچے نہ آنے کا گلہ کرتے، تو وہ کہتی حنا نے روکا ہوگا۔ بچے بھی تو پھول ہوتے ہیں۔ جس طرح پھول موسموں کے سرد اور گرم رویے کو ہم انسانوں سے زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح بچے بھی بڑوں کے رویے کو ہم سے کہیں زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ بچے آپ سے دور ہوتے چلے گئے وہ کہتے پھو پھو ہمیں ڈانٹتی ہیں اور دادا ابو بھی کچھ نہیں کہتے۔ اُن ہی دنوں شاید خدا کو ہم پر رحم آ گیا جب چنگی خود سے بڑی بہن شمینہ سے ملنے (جو بیرون ملک میں بیاہی تھی) چلی گئی۔

وہ دن تو گویا ہمارے لیے نعمت تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے آپ ہمارے پاس چھٹیاں گزارنے آئے ہیں۔ آپ حنا سے کہتے کھانا نیچے مت لانا، آپ اوپر بچوں کے ساتھ آ کر کھانا کھاتے۔ اُن کے ساتھ ٹی وی دیکھتے۔ آپ کو بچوں کے پسندیدہ پروگراموں کے نام تک یاد ہوتے۔ بچوں کو پڑھاتے اور میرے بیٹے سنی سے کہتے۔

”میں تو تمہارے بچوں کو بھی پڑھاؤں گا“  
لیکن خوشیوں کے یہ بل جلد ہی ختم ہو گئے اور چنگی

ایک ماہ بعد واپس آ گئی۔ اب تو وہ دروازے کو بھی لاک لگا کر رکھتی تاکہ بچوں کا اور میرا آپ سے سامنا نہ ہو۔ حنا نے تو غصے میں بچوں کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ نیچے ہی نہ جائیں۔ مگر میں تو بیٹا تھا نا میں ہر بل اس دروازے کے کھلنے کا انتظار کرتا۔ میں دعا کرتا کاش یہ دروازہ ٹوٹ جائے اور میں اپنے والد کے گلے لگ کر پیار کروں، اُن کی خدمت کروں۔ میں جانتا تھا آپ تھک جاتے ہیں، تو میرے دبانے سے آپ کو سکون ملتا ہے۔ بچوں اور میری دوری نے آہستہ آہستہ آپ کی صحت برباد کر دی۔ پتا نہیں بہنیں یہ بات کیوں نہیں سمجھتیں کہ جیسے شادی کے بعد ان کے لیے ماں باپ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے ایسے ہی ایک بیٹے کے لیے بھی ماں باپ اور بھی اہم ہو جاتے ہیں۔ شادی بیٹے کی محبت میں کوئی کمی نہیں کرتی کمی تو محبتوں میں تب ہوتی ہے جب ہمارے ارد گرد رہنے والے ہماری محبتوں میں شک کا زہر گھول دیتے ہیں۔

کاش! صرف ایک بات میں نے بڑھ کرا می جان آپ کا ہاتھ تھام لیا ہوتا یا آپ ہی ایک بار صرف ایک بار ہی مجھے آواز دے دیتیں یا میں ہی پلٹ کر آپ کے سینے سے لگ کر پوچھ لیتا۔

”امی جان آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟“ کاش صرف ایک بار ابو جی میں آپ کے گلے لگ کر پوچھ لیتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے یا آپ ہی مجھے اپنے پاس بلا کر مجھے بتا دیتے کہ آپ کس بات پر مجھ سے ناراض ہیں۔ صرف ایک بار یہ خاموشیاں ٹوٹ جاتیں۔ صرف ایک بار یہ بند دروازے کھل جاتے.....“

سعد نے چیخ چیخ کر روتے ہوئے کہا اور اپنے دائیں، بائیں بنی ہوئی قبروں سے مٹی اپنی مٹھیوں میں بھر کر اپنے سر پر ڈالنے لگا۔

☆☆.....☆☆



## جلس

اس پوری رات وہ صبح سے سو بھی نہ پائی۔ جب آنکھ لگتی۔ خواب میں ہونے والی بھاوج سے لڑنے لگتی۔ صبح تک نورین شوہر کی باتوں کی قائل ہو گئی۔ ”ازل چندا اب تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے اب تمہیں۔ اپنا گھر خالی کروا کر.....“

## محبت کو فتح سے ہم کنار کرتا، ایک خوبصورت ناولٹ

لذت کشیدنے کے بعد ہجر کی تنہائی کا جہان بھی اسی کی یادوں سے آباد کر رکھا تھا۔ انہیں زندگی نے ایک ہی رمز سکھایا، صرف پانے کا نام ہی سب کچھ نہیں، محبت کھونے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ رات دوسرے پہر میں داخل ہونے لگی، مگر انہوں نے پلک بھی نہ جھپکی۔ حالاں کہ۔ نیند پتلیوں میں کنکر کی طرح چبھ رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی سرد ہوانے ان کی ہڈیوں کے پرانے درد کو جگا دیا، مگر وہ ”پرواہ نہیں“ کی تفسیر بنے، دلہن بنی مہر کی تصویر کو ہی تکے جارہے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی بے حس و حرکت بیٹھے رہے پھر ٹھنڈی آہ بھر کر ارد گرد پھیلی تصاویر کو جمع کر کے واپس لفافے میں ڈالنے لگے۔ یہ ان کا ہر دوسرے دن کا معمول تھا۔ اگر اس وقت باقی گھر والے ان کی حالت دیکھ لیتے تو حیران رہ جاتے۔ جس گھر میں دن کے روشن اجالوں میں ناصر علی کے سامنے مہر النساء کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جاتا، وہ رات کی تنہائی میں اسی کی یادوں سے اپنے دل کو آباد کرتے۔

اسٹڈی روم کی فضاء کی خنکی ناقابل برداشت تھی، پھر بھی وہ بغیر کوئی گرم کپڑا پہنے، اپنے ارد گرد تصاویر بکھیرے بیٹھے تھے۔ باہر کی ٹھنڈی ہوائیں، ان کے وجود میں اٹھنے والے آتش فشاں پر رتی برابر اثر انداز نہیں ہو رہی تھیں، ناصر علی نے ایک تصویر اٹھائی، جس میں مہر النساء دلہن بنی اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ ایک ٹک دیکھے جارہے تھے۔ تصویر بلیک اینڈ وائٹ ہونے کے باوجود ان کے حسین چہرے کے نقوش بڑی دل آویزی سے اجاگر کر رہی تھی۔ شرم سے جھکی آنکھیں، مسکاتے نازک لب، گھونگٹ میں چھپی شفاف مانگ، جس پر افشاں چھڑکی گئی تھی، انہیں وہ ساعتیں یاد آنے لگیں، جب وہ ان کی زندگی بنا دی گئی تھی۔ مہر النساء کے حسین چہرے کے نین نقش انہیں از بر تھے، وہ بھولتے بھی کیسے اسی کے دم سے تو ان کی تنہائیوں میں چراغاں ہوتا۔ محفلِ سجتی۔ وہ محبت کی عجیب منزل تک جا پہنچے تھے جہاں وصل کی







سوتے میں ہاتھ پاؤں چلائے، ہاتھوں پر بندھی ڈوریاں بھی ان کے جنون پر قابو پانے میں ناکام ثابت ہو رہی تھیں۔ ان کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں، جیسے کسی معصوم بکری کا زرخرہ کاٹ کر اسے تڑپتا چھوڑ دیا گیا ہو۔

دیوار پر لٹکی بڑی سی وال کلاک کے گھنٹے نے رات کے تین بجنے کا اعلان کیا تھا، اسی لیے گہری تاریکی اور خاموشی میں اچانک گونجنے والی آواز سے خوف کی لہر پیدا ہوئی۔ گھر کے باقی مکین گہری نیند میں تھے۔ صائمہ جو پانی پینے اٹھی تھی وہ بھی دادی کی درد بھری پکار پر باپ کے پیچھے تیزی سے ان کے کمرے کی طرف بھاگی۔

اس نے ایک جھرجھری لے کر دروازے سے اندر کا منظر دیکھا۔ ناصر علی ماں کو سنبھالنے کی کوششوں میں بلاکان ہوئے جا رہے تھے۔ اسے باپ پر بہت ترس آیا۔ ان کی نا آسودہ زندگی کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے اور کسے معاف کیا جائے؟ عام دنوں میں چپ چاپ پڑی رہنے والی دادی کو جب دورہ پڑتا تو ان میں بلا کی طاقت بھر جاتی، اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی نوچ کاٹ ڈالتیں۔

”اماں میں آگیا۔ یہاں۔ آپ کا ناصر ہے۔ کیوں ڈر رہی ہیں۔“ انہوں نے ماں کو چھوٹے سے بچے کی طرح چمپا کر نرمی سے کہا، بخت بی بی کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔

”منا! تو مجھے چھوڑ کر نہ جانا..... نہیں تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا کر مار دے گی“ بخت بی بی نے چھوٹی سی بچی کی طرح سہمی ہوئی آواز میں بیٹے سے التجا کی۔ صائمہ نے دادی کو بغور دیکھا، وہ ہوش و حواس کی دنیا سے دور دکھائی دے رہی تھیں۔ اسے فوراً ڈاکٹر کی ہدایت یاد آئی، جلدی سے اعصاب کو سکون پہنچانے والی دوا، سائیڈوراز سے ڈھونڈنے لگی۔

”منا! اس کو بول دو۔ میرا پیچھا چھوڑ دے“

وہ سیاہ رات بھی اتنی ہی بھاری تھی جتنی مہر النساء کے ان کی زندگی سے جانے کے بعد سے دوسری راتیں ان پر کڑی گزری تھیں۔ دل میں درد سا اٹھا تو بے قراری سے ٹہلنے لگے، کمرے کی ہر چیز آنکھوں کی نمی میں دھندلا گئی، دور خلاؤں میں کھو گئے، جہاں ماضی کے سہانے لمحے جاگ اٹھے جو انہوں نے اپنی محبت اپنے پیار کی سنگت میں گزارے تھے۔

’کاش! مہر..... ایک بار صرف..... ایک بار تم مجھے دوبارہ مل جاؤ، تو میں ایک بات ضرور پوچھوں گا۔ میری محبت میں ایسی کیا کمی تھی، جو تم سیف حسن کی طرف راغب ہوئیں؟‘ ناصر علی نے ہاتھ ملتے ہوئے اسے پکارا۔ آج پھر ان کا وجود پرچوں میں اڑنے لگا، اپنے ٹھکرائے جانے کا احساس بہت تکلیف دہ ہے۔ خاص طور پر جب ایسا اپنی محبت کے ہاتھوں ہوا ہو۔ اذیت کی انی تا عمر وجود میں گڑی رہتی ہے۔ انہوں نے انگلیاں سر کے بالوں سے گزار کر مٹھی بند کر لی۔ درد کی شدت ناقابل بیان ہونے لگی۔

”بچاؤ..... بچاؤ..... کوئی تو آ جاؤ“ تاریکی کو چیرتی ہوئی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو وہ چونک کر حواسوں کی دنیا میں لوٹ آئے۔

”اوہ..... لگتا ہے اماں جی کو پھر دورہ پڑا ہے“ بخت بی بی کی چیخیں سن کر ناصر علی ننگے پاؤں بھاگے۔

ناصر علی تیزی سے اسٹڈی روم سے باہر نکلے، کاریڈور میں پھیلی زیرو پاور کی سرخ روشنی ان کے منتشر اعصاب پر گراں گزری۔ وہ سر جھٹک کر ماں کے کمرے میں داخل ہو گئے۔

”اتنا جس کیوں ہو رہا ہے۔ کوئی ہے..... ارے کوئی تو آؤ جو مجھے اس سے بچائے، وہ دیکھو، وہ آرہی ہے۔ مجھے مار دے گی“ بخت بی بی نے



حالات میں بخت بی بی چپ چاپ اپنے کمرے میں دواؤں کے زیر اثر پڑی رہتیں، مگر جب کبھی ان پر دورہ پڑتا تو جیسے خاموشی کے سارے بند ٹوٹ جاتے۔ صائمہ نے چادر اوڑھاتے ہوئے بغور دیکھا، ان کے جھریوں سے بھرے چہرے کے تاثرات بہت عجیب ہو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خون کی جگہ ان کی رگوں میں خوف دوڑتا ہو۔

”دادینے ایسا کیا کیا ہے جو پچھتاؤں کے ناگ انہیں ڈستے رہتے ہیں“ صائمہ سوچتے سوچتے بہت دلگیر اور الجھی الجھی سی وہیں پاس پڑے صوفے پر لیٹ گئی۔

.....☆.....

جیس جیس چیں۔ روزانہ کی طرح، چڑیوں کی چہکار سے اس کی آنکھیں کھلی گئیں، سستی سے گروٹ بدلی، نیند تو ٹوٹ ہی چکی تھی، اس نے اپنا سراٹھا کر مندی مندی آنکھوں سے درتے سے باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ رات کی سیاہی کے ذن کے اجالے میں اپنا منہ ایسے چھپایا کہ سورج پورے آب و تاب سے بیدار ہو گیا، ہر شے کا سیاہ کہن سے آزادی حاصل کرتے ہی چار سو روشن سویرا پھیل گیا۔ زندگی کی ایک اور صبح مکمل امید کے ساتھ طلوع ہو گئی۔

آئمہ ناصر نے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بلا کی سحر خیز واقع ہوئی تھی۔ دلچسپی سے کھڑکی پر ٹنگے سفید جالی کے پردے کو دیکھا جو ہوا کی شرارت پر محور لٹھ تھا۔ اس کا دل باہر جانے کو بے قرار ہوا۔ دلفریب موسم دعوت نظارہ جو دینے لگا تھا۔ وہ فطرت کی دلدادہ پیڑ پودوں سے مزید دوری برداشت نہیں کر پائی۔ فوراً کیمبل ہٹا کر بستر سے اتری اس نے جیسے ہی اپنے سفید موم سے بنے پیر ٹھنڈے فرش پر دھرے تو نرم گلابی تلووں میں گدگدی ہونے لگی، دلکش مسکراہٹ نے حسین

بخت بی بی ایک دم زور زور سے رونے لگیں، ناصر علی افسردہ ہو گئے۔ انہیں مہر النساء سے ایک دم نفرت محسوس ہوئی جس کی وجہ سے اس کی ماں اتنے سالوں بعد بھی ذہنی ابتری کا شکار تھیں۔ کتنی عجیب بات تھی وہ اس سے پاگلوں کی طرح محبت بھی کرتے تھے اور شدید نفرت بھی۔

پاپا! یہ دوا کھلا دیں، دادی سو جائیں گی۔“ صائمہ نے سلور پنی میں سے سفید چھوٹی سے گولی باپ کو دی تو انہوں نے منتیں کر کر ماں کو کھلا دیں۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، جہاں سے ٹھنڈک اندر آرہی تھی۔

”تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟“ وہ بھنویں اچکا کر تشویش سے گویا ہوئے، سختی ان کے مزاج کا حصہ بن گئی تھی۔“

”جی۔ پانی پینے اٹھی تھی پاپا! کیا باقی گھر والوں کو اٹھا دوں؟“ صائمہ نے اثبات میں سر ہلا کر پوچھا اور دادی کا سرد بانے لگی۔

”نہیں بیٹا! یہ تو ہر دوسرے دن کا معمول ہے۔ سب شادی کی تیاری کی وجہ سے دن بھر مصروف رہتے ہیں۔ تھک کر سوئے پڑے ہیں۔ آپ بھی آرام کرو میں جاگ رہا ہوں۔“ ناصر علی نے چشمہ اتار کر ٹشو سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ بخت بی بی دوبارہ بڑا بڑانے لگیں۔ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کی آنکھیں نیند سے بو جھل ہونے لگی تھوڑی دیر بعد ہی وہ دواؤں کے زیر اثر سو گئیں۔

”پاپا آپ جائیں، میں آج رات یہیں پر سو جاتی ہوں۔“ صائمہ نے دادی کے ہاتھ اور پاؤں پر بندھی ڈوری کو ڈھیلا کیا اور اس پر موٹے پیراٹنگ کریم ملنا شروع کیا سرخ سرخ نشان نخیف بازوؤں پر دیکھ کر اس کا دل دکھوں کے سیندر میں ڈولنے لگا، مگر وہ اس معاملے میں مجبور تھی۔ بلکہ سب ہی اس منزل پر آ کر مجبور ہو گئے تھے۔ عام



چہرے کو حصار میں لے لیا۔ آئمہ نے اپنے لہریے دار بالوں کو انگلیوں سے سلجھانے کی ناکام کوشش کی، پیروں میں کالا جوتا اڑکایا۔ اور باہر کی طرف بھاگی۔

سورج کی نارنجی شعاعوں نے ہر چیز پر اپنا سرخی مائل ڈیرہ جمایا ہوا تھا، آئمہ ایک لحظہ مبہوت رہ گئی۔ فرحت انگیز جھونکوں نے اسے سرور بخشا، وہ زودار سانس لے کر کرتازہ ہوا اپنے اندر اتارنے لگی۔ فضا میں مٹی کی سوندھی سی مہک پھیلی ہوئی تھی، لہراتے پودے، رنگ برنگ کے پھول، پتوں پر سجے شبنم کے قطرے، وہ ایک خوشگوار کیفیت سے دوچار ہونے لگی۔ ایک دم اس ماحول سے پچھڑنے کا قلق من میں جاگا تو چہرہ اتر گیا۔

”میرے پیاروں میرے راج دلارو!۔ چندا، گڈو، پینگی اور تارو۔ چند دنوں بعد میں تم سے دور جانے والی ہوں۔ مگر میرا وعدہ ہے تم سب کو کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ جب بھی یہاں آؤں گی۔ تم سے ضرور ملوں گی۔ ویسے بھی میکے کی یادوں کے ساتھ میں نے تمہیں بھی دل کے ایک گوشے میں محفوظ کر لیا ہے“ آئمہ نے افسردگی سے باری باری اپنے پودوں کو چھوا اور ہمیشہ کی طرح ان سے باتیں کرنا شروع ہو گئی۔

روح میں پھیلی تنہائی کے احساس کو کم کرنے کے لیے اس نے لاشعوری طور پر یہ مشغلہ اپنا لیا اور۔ اپنے پودوں کے نام بھی رکھ دیے۔ وہ ان سے یوں لاڈ دکھاتی جیسے وہ اس کے نخرے سمجھتے ہوں۔ پورا گھر اس بچپنے پر ہنستا، مگر اسے کسی کی پروا نہیں تھی۔

”اوائے..... مجھے بھولنا نہیں گڈو۔ تم بہت شرارتیں کرتے ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا“ آئمہ نے سفید گلاب کو چھوتے ہوئے دھیرے سے سرگوشی۔ کیاری میں لگے پھول اس کی محبت پر گنگنا اٹھے۔ وہ کیاری کے قریب ہی بنی سنگ مزمر کی بیچ

پز پاؤں اوپر رکھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے بڑے سے گھر کو دیکھا، جس میں بڑے بڑے روشن اور ہوادار کمرے، ڈرائنگ اور ڈائننگ روم، جدید سہولتوں سے سجا ہوا کچن، پاپا کی اسٹڈی روم، مہمانوں کا کمرہ۔ سب کچھ تو تھا، مگر اسے اگر کسی گوشے سے دلچسپی تھی تو وہ پچھلے حصے میں واقع اس کچی زمین اور بڑے سے لان سے تھی۔ اس نے بڑی محنت سے کچے رقبے کو کیاری میں ڈھال لیا۔ جس میں اس نے گلاب، موتیا، بنفشہ، چنبیلی اور رات کی رانی لگائی تھی، یہاں آکر وہ بہت سکون محسوس کرتی۔

آئمہ ناصر شروع سے ہی ایسی تھی کچھ الگ، کچھ منفرد سی، انسانوں سے بچتی اپنے پیڑ پودوں سے ہی سارے دکھ سکھ شیر کر لیتی۔ اس کی بس ایک ہی دوست تھی ثمرہ۔ وہ بھی اب دنیا کے میلے میں کھو گئی تھی۔ اسی لیے آئمہ نے ان پھولوں سے دوستی کر لی تھی۔ لان کے ساتھ بنی کیاریوں کو آباد رکھنے میں اس نے وقت بھی بہت لگایا، اب ان میں اگنے والے پودوں کو پھلتے پھولتے دیکھتی، تو اس کے اندر خوشیاں مور کی طرح رقصاں ہو جاتیں۔

”کاش! میرے ساتھ ازل بھی یہاں موجود ہوتا“ آئمہ کی سوچ کی رو ایک دم دوسری طرف مڑ گئی۔ موسم کی خوبصورتی سے مزاج انہونیوں کی طرف مائل ہونے لگا۔ خیال یار کیا آیا، چہرہ گل و گلنار ہو گیا۔ وہ اس کی اور اپنی پہلی ملاقات میں کھو گئی۔

☆.....

”شکر ہے ان میٹنگوں سے تو جان چھوٹی۔ آج فری ہوں تو ضروری خریداری کر ہی لوں“ ازل کے آفس میں سالانہ کارکردگی کے جائزہ کے لیے کئی دنوں سے میٹنگز جاری تھیں، اسے سانس لینے کی بھی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ آج دوسرے شہروں سے آئے افسران کی واپسی ہوئی تو اس نے



سکھ کا سانس لیا۔ آفس سے جلدی اٹھ گیا، راستے میں خیال آیا تو مال کی طرف گاڑی موڑ لی۔  
 ”اشرف بھائی! پلیز میرا شیونگ کا سامان ختم ہو گیا ہے۔ سب چیزیں پیک کرویں“ یہ شاپنگ مال ازل کے آفس کے راستے میں ہی پڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہیں سے سامان خریدتا تھا۔ اسی لیے اس شاپ کے مالک اشرف خان سے اس کی بہت اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ وہ شیونگ ریز خریدنے آیا تو پتا چلا کہ۔ اس کے پاس سے مطلوبہ برانڈ ختم ہو گیا تھا۔

”ازل بھائی! آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ مال میں ہی میرے چھوٹے بھائی کی شاپ ہے، وہاں سے آپ کی مطلوبہ کمپنی کا ریزر مل جائے گا۔“ اشرف نے کچھ سوچ کر اسے ٹہرنے کا کہا۔ وہ اپنے پرانے گاہک کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔  
 ”ایسا ہو جائے تو کیا ہی اچھی بات ہو۔ ورنہ مجھے کہیں اور سے خریدنا پڑے گا“ ازل کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔

”آپ کب تک یہاں کھڑے رہیں گے۔ آئیں دکان میں اس طرف بیٹھ جائیں۔ آج کام والے لڑکے نے چھٹی کر لی ورنہ اتنی مشکل پیش نہیں آتی۔“ جاتے وقت اُس نے زبردستی ازل کو شاپ کے اندر رکھے اسٹول پر بٹھایا اور بڑبڑاتا ہوا تیز قدموں سے لوگوں کے ہجوم میں گھس گیا۔ ازل وقت گزاری کے لیے شیلف میں سبھی اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا۔ وہ ابھی شکر ہی ادا کر رہا تھا کہ کسی گاہک نے یہاں کارخ نہیں کیا کہ آئمہ وہاں پہنچ گئی۔

”سنیں..... اس لسٹ کے مطابق سارا سامان پیک کرویں“ آئمہ نے جنرل آئٹمز کی شاپ پر لمبے قد کے خوش شکل اور مضبوط مروانہ شخصیت کے مالک ازل کو کھڑا دیکھا، تھوڑا حیران ہوئی، اس کے بعد کندھے اچکا کر جلدی سے بیگ سے سفید کاغذ کی لمبی سی لسٹ ڈھونڈ کر نکالی اور۔ اس کے سامنے

کاڈنٹر پر پھیلا دی۔

اچھا۔ میم۔ آپ جب تک دوسری شاپنگ کر کے آجائیں، میں مطلوبہ سامان نکال دیتا ہوں“ ازل اس کی غلط فہمی پر خوش ہوا۔ بوریت دور کرنے کے ایک اچھا موقع ہاتھ آیا تھا۔ اس کی بے چین آنکھوں سے شرارت ٹپک رہی تھی۔ آئمہ دیکھتی رہ گئی  
 واؤ۔ بندہ تو۔ بڑا ڈینگ ہے“ آئمہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور رول میں اعتراف کیا۔

”لڑکی۔ تو بڑی پیاری ہے“ ازل نے سوچا۔ گلابی ہونٹوں پر ہنسی کی کرن چمکی۔ خنکی بڑھ گئی تھی۔ وہ کریم کرتے پر بلیک سویٹر پہنے اپنی اونچی اٹھان کی وجہ سے نمایاں ہو رہی تھی، سنہری رنگت، چہرے پر سوٹ کرتی چھوٹی سی کھڑی ناک اور سیاہ گھونگر یا لے بالوں کی بہت پیاری لگ رہی تھی۔  
 شام کے ڈھلتے سائے، اس کی آنکھوں کی سحر انگیزی کو دو آتشہ بنا رہے تھے۔

وہ اس کی طرف دیکھتا رہ گیا، جو اسے دکان والا سمجھ رہی تھی۔ جب کہ وہ تو خود یہاں خریداری کرنے آیا ہوا تھا۔ دونوں کے ایک دوسرے کے بارے میں خیالات کافی ملتے جلتے تھے۔

”نہیں، مجھے جو چیزیں چاہئیں وہ ساری آپ کی شاپ پر موجود ہیں۔ پلیز جلدی سے پیک کرویں“ آئمہ اپنی محویت پر شرمندہ ہوئی، اس کے مشورے پر تھوڑا روڈ ہو کر جواب دیا۔

”اصل میں۔ میم۔ میں صرف شاپ پر آنے والوں پر نظر رکھنے کا کام کرتا ہوں۔ باقی سامان وغیرہ دوسرا بندہ رکھتا ہے۔ وہ بس آنے والا ہی ہے“ ازل نے مسکرا کر جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ آئمہ کو اس کی بات پر پتنگ لگ گئے۔

”عجیب آدمی ہیں۔ کیا آپ کو ہم چوراچکے دکھائی دے رہے ہیں، جو نظر رکھ رہے ہیں۔ ویسے







نہیں دوں گا“ آئمہ نے اجازت طلب کی تو ازل پر اداسی کی چادر تن گئی۔ اس نے یہ موقع گنوانے سے اجتناب برتا اور فوراً ہی سوال کیا۔ وہ ایک لمحہ اس کو دیکھتی رہی۔ چہرے کے تاثرات لہجے کی سچائی کے گواہ بن گئے۔ اس نے اپنی ہار پر گہری سانس بھری۔

”پلیز۔ میرے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہیں کیجیے گا۔ میں یوں ہی ہر ایک سے فری نہیں ہوتی مگر۔ آپ ایک اچھے انسان لگے تو۔ آپ کی سنگت بہت اچھی لگی۔“ آئمہ نے خود کو تسلی دی یا اس کو پتا نہیں تھا۔ دونوں کے بیچ نمبروں کا تبادلہ ہوا۔ وہ ہاتھ ہلاتی، شاپنگ بیگز سنبھالتی کپسول لفٹ کی طرف بڑھ گئی، ازل اسے شیشے کے پار سے نیچے جاتا دیکھتا رہا۔

.....☆.....

دونوں ایک دوسرے سے اپنے جذبے یوں چھپاتے جیسے وہ سونے کے بنے ہوں اور چوری ہو جانے کا خدشہ لاحق ہو۔ من میں پیٹ کر دل کے نہاں خانوں میں چھپا کر ان کی محبت، دن بہ دن شدت اختیار کرتی چلی جا رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے گھنٹوں باتیں کرتے مگر لفظ ’محبت‘ منہ سے نہیں نکلتا۔ ایک دوسرے کی رفاقت میں لمحے گلاب ہو جاتے، غنچے کھل اٹھتے، پور پور خوشی سے بھر جاتا

شاپ پر آئمہ سے ہونے والی اتفاقیہ ملاقات ان دونوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی لے آئی۔ رابطے بڑھے تو۔ اندازہ ہوا کہ دونوں کے خیالات میں کتنی مماثلت ہے۔

”ازی! میں ایسے بے نام رشتے سے ڈرنے لگی ہوں۔ بابا بہت سخت ہیں، کبھی ان کے کانوں میں ہماری دوستی کی بھنک بھی پڑ گئی تو ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے“ آئمہ ایک دن اپنے خیالات کی یورش سے گھبرا اٹھی۔ فون پر ہی روتے ہوئے بولی۔

”ایسا۔ کبھی نہیں ہوگا۔ میری زندگی۔ مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اچھا ایک بات کا جواب دو“ ازل کو اس کی معصومیت پر بے تحاشا پیار آیا جذبات سے بو جھل آواز میں پوچھا۔

”جی۔ پوچھیں۔“ ازل کا یہ انداز..... اس کا دل ڈولا۔ دھیرے سے بولی۔

”مجھ سے شادی کرو گی؟“ ازل نے بہت سادہ الفاظ میں اتنی بڑی بات کہہ دی جس کو سننے کے لیے اس کے کان ترس رہے تھے۔ ازل نے اسے پرہیز کروایا۔ اسے کافی دیر تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔

.....☆.....

ازل نے بھی اب معاملہ سمیٹنا چاہا۔ روز روز ملنا بھی دشوار تھا۔ بس۔ فون پر چھپ چھپ کر باتیں ہو پاتیں۔ دوری نے تشنگی کا احساس جگایا۔ آئمہ کو بھی یہ بہترین حل لگا۔ اس سلسلے میں صائمہ سے مدد حاصل کی۔ وہ اپنے اطمینان کے لیے ازل سے ملی۔ لڑکا اتنا اچھا لگا کہ اس معاملے میں بہن کا ساتھ دینے کی حای بھری۔

”میں نے راہ کے سارے خار چن لیے۔ اب تمہاری باری ہے“ آئمہ نے اس کے بارے میں صائمہ کی رائے کا بتاتے ہوئے شرارتی انداز اپنایا۔ وہ کھکھلا دیا۔

”باجی مجھے شادی کے لیے ایک لڑکی پسند آگئی ہے“ اس نے نورین سے آئمہ کا ذکر کر دیا۔ اس کی توقع کے مطابق وہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ اس کی منت سماجت مکھن پالش سب بے کار گئی۔ وہ کسی طرح بھی راضی ہو کر نہیں دے رہی تھی۔

”نہیں چھوٹے۔ رضا بھائی کی پسند سے دلہن لا کر ہم بھر پائے۔ اب تو محترم کا یہ حال ہے کہ سوتے بھی جوتے پہن کر ہیں، جانے کب ربیعہ پکار لے اور ان کو بھاگنا پڑ جائے“ نورین نے ٹھٹھہ



مار کر چھوٹے بھائی کے سامنے ایک بھونڈی سی رضا کی مثال پیش کی جو محبت کی شادی کے بعد ان لوگوں سے کافی دور ہو گیا تھا۔

”ایسا نہ کہیں۔ جب زندگی مجھے گزارنی ہے، تو مجھے اتنا توحق حاصل ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی سے گزار سکوں“ ازل نے لہجہ کو دکھی بنانے کی بھرپور کوشش کی مگر نورین پررتی برابر بھی فرق نہ پڑا۔

”کیوں۔ تمہیں۔ ہم پر اعتبار نہیں۔ اب تمہاری شادی ہم سب بہنوں کی پسند سے ہوگی۔ ایسی دلہن ڈھونڈیں گے، بس دیکھتے رہ جاؤ گے۔“ نورین نے بھی زور دے کر کہا۔

”باجی سب لڑکیاں۔ بھابی کی طرح نہیں ہوتیں۔ وہ بہت سمجھدار اور اچھی لڑکی ہے۔ پلیز آئمہ کو ایک موقع تو دیں۔“ ازل نے آئمہ کی تعریف کی

”یہ کیا بات کہی تم نے۔ ایک موقع تو دیں۔ شادی ہے کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ فرض کرو وہ ہمارے معیار پر پوری نہ اتری تو کیا تم اسے چھوڑ دو گے۔ ہماری پسند کی لڑکی سے شادی کر لو گے۔ نہیں نا؟“ نورین کو بھائی کے بچپنے پر ہنسی آئی۔

”باجی۔ پلیز۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔“ ازل کا دل دہلا۔ ایک دم تیز ہوا۔

”ہاں ہاں چھوٹے اب بہن کو غصہ دکھاؤ گے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ربیعہ سے بھی چار ہاتھ آگے نکلے گی۔ اس نے تو شادی کے بعد بھائی کو الو بنایا۔ تم تو شادی سے پہلے ہی اس کی مالا جپ رہے ہو۔“ نورین بھی اپنے نام کی ایک بھی بھائی کو نکاسا جواب دے دیا۔ خود کھٹ کھٹ کرتی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ منہ دیکھتا رہ گیا۔

”اس سے پہلے کے یہ لڑکا ہاتھ سے نکلے باقیوں کو بھی خبر کر دوں۔ اللہ کی پناہ۔ آج کل کے لڑکے منہ سے شادی کی بات کرتے ہیں نہ شرم رہی نہ۔“

”خیا“ نورین تلملاتی ہوئی ٹہل رہی تھی کہ ایک دم ماں جائیوں کی یاد ستائی۔ اخلاقی مدد حاصل کرنے کے لیے باقی بہنوں کو کھٹ سے فون گھمایا۔ اس کے چڑھانے پر۔ سب آگ بگولا ہونے لگیں۔ چھوٹے بھائی کی الگ الگ مقدور بھرکلاس لگائی گئی۔ ازل کا دل بھر آیا۔ اسے اگر آئمہ سے اتنی شدت کا پیار نہ ہوتا تو شاید ان سب کی ہٹ دھری پر پیچھے ہٹ جاتا۔ مگر اب تو دل کا معاملہ تھا۔

☆.....

”اچھا۔ بیوی ایک سوال ہے؟ بابر نے بیوی کی دکھ بھری کتھاسن کر مسکرا کر پوچھا۔

”جی کچھ بھی پوچھیے، مگر ازل کو سمجھائیں۔ وہ آپ کی بات کبھی نہیں ٹالے گا۔“ نورین کا شوہر سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ بھائی کو مناسکتے ہیں۔ ان کو کیا خبر تھی کہ سالے بہنوں میں اس بارے میں ایک ڈیل ہو چکی تھی۔

”اگر تم لوگ گارنٹی لو کہ جو بھابی تم لوگ پسند کرو گے، وہ بہت اچھی ثابت ہوگی۔ تو میں ازل کو سمجھاتا ہوں“ بابر نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بیوی کو گھورا، وہ گڑبڑا گئی۔

”یہ کیسی بات ہوئی؟ ہم کیسے اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ آج کل کی لڑکیوں کا پتا نہیں۔ کتنی تیز ہیں؟ نہ بابا۔ ہم پہلے سے کیا کہیں۔ جانے کون کیسی نکلے؟“ نورین ایک دم جوش میں شروع ہوئی۔ لفظ ”بھابی“ ہمیشہ ان جیسی نندوں کا بلڈ پریش رہائی کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ بابر نے جو الفاظ نورین کے منہ سے نکلوانے تھے۔ اس میں کامیابی حاصل ہوئی۔ ہنسی نکل گئی۔

”بس..... تو اسی لڑکی کو خوشی خوشی بھابی بنا لو۔ جو بھائی کو پسند ہے۔ بھائی بھی خوش، تم لوگوں کا بھی بھرم رہ جائے۔ بعد میں کچھ ہو تو ساری ذمہ داری ازل پر ڈالنا۔ کہ تم نے ہی تو پسند کی تھی، ویسے بھی



آئمہ میرے دوست کی سالی ہے۔ بہت معزز اور پیسے والے گھر کی لڑکی ہے۔ اف! صمیم کی شادی پر اس کی بہنوں کو کیا تحائف ملے تھے۔ واہ واہ! بابر نے بیوی کے مزاج کو سمجھتے ہوئے۔ یوں شیشے میں اتارا کہ وہ مان گئی۔

.....☆.....

”کسی لڑکی کو اپنی محبت میں اس حد تک مبتلا کر دینا، اس کے بعد پیچھے ہٹ جانا۔ ازل ندیم یہ شریفوں کا شیوہ تو نہیں“ اس نے آئینے کے سامنے برش کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دہائی دی۔ اس کی رگوں میں معزز خاندان کا خون تھا۔

”ہاں۔“ اقرار کے سوا اس کے منہ سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوا۔ ہاتھ پاؤں پر لرزش سی طاری ہو گئی۔ چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔

”آگئی۔ مجھے۔ یہ ہی اعتبار چاہیے تھا۔ اب ہم دونوں کے بیچ کوئی نہیں آئے گا۔ میں اپنی باجی سے بات کر کے رشتہ بھیجتا ہوں تم صائمہ باجی کو سب بتا دو۔ وہ ہی ہماری مدد کر سکتی ہیں۔“ وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ اسے آئمہ کے ذریعے اس گھر والوں کے خیالات کا علم تھا۔

دھوکا نہیں دے سکتا تھا یہاں تو وہ خود مبتلا محبت تھا۔ اتنا آگے بڑھنے کے بعد پیچھے ہٹنا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا“ ازل بھی اپنی بات پر اڑ گیا۔ بالآخر۔ اس بار بھی بہنوئی ہی کام آیا۔

.....☆.....

”ایسے ہی انجان لوگوں سے کیسے رشتہ جوڑ دیں؟“ آئمہ کے بابا ناصر خان نے بڑی بیٹی کو گھورا جو باپ سے ازل کی سفارش کر رہی تھی۔ آئمہ بند دروازے سے کان لگائے کچھ سننے کی کوشش کر رہی تھی۔

”بابا انجان کیوں؟ لڑکے کا بہنوئی آپ کے داماد کہ دوست ہے۔ یہ کافی عرصے سے جانتے

ہیں۔ کیوں جی! بتائیے نا؟“ صائمہ نے شوہر کو ٹھوکا دیا تو وہ مسکراہٹ دباتا ہوا سر ہلانے لگا۔

”اچھا..... میاں لڑکا کرتا کیا ہے۔ تعلیم وغیرہ؟“ ناصر خان داماد کا لحاظ کرتے ہوئے تھوڑے دھیمے ہوئے، عصیم جلدی جلدی ذہن میں وہ کوائف دہرانے لگے، جو سالی اور بیوی سے حاصل ہوئے تھے۔ انہیں آئمہ سے بہت پیار تھا۔ سر کی قد امت پسندی سے اچھی طرح واقف تھے، انہوں نے شروع سے بیٹیوں پر تھوڑی سختی روا رکھی۔ اسی لیے وہ بیوی کے زور دینے پر سالی کی مدد کو آمادہ ہوئے۔

”بابا! لڑکا بہت شریف اور معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہے۔ کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ اب ایک بہت بڑی کمپنی کا ڈائریکٹر ہے۔“ صمیم نے جلدی جلدی تفصیل بتائی، ناصر چشمے میں سے داماد کو دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔

”ہوں..... رہتا کہاں ہے؟“ انہوں نے ایک ٹیڑھا سوال کیا۔ صائمہ چونکی۔ جانتی تھی یہاں معاملہ اٹکے گا۔

”جی ابھی۔ تو۔ اپنی بہن کے ساتھ رہتا ہے“ صمیم نے اٹک اٹک کر کہا۔ وہ بے چین ہوا ٹھے۔

”کیا نہیں بھئی، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ بھلا بتاؤ۔ ہمارے خاندان میں تو بہن بیٹیوں کے گھر کا پانی پینا بھی حرام سمجھا جاتا ہے“ ناصر بات ختم کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان دونوں کا منہ اتر گیا۔

”بابا۔ اس بیچارے کے ساتھ ٹریجڈی ہی ایسی ہوئی۔ مجبوری شہری۔ مگر اتنا خود آ رہے کہ پورا خرچہ دیتا ہے“ صمیم نے فوراً ان کا ہاتھ تھاما اور دوبارہ جھولنے والی کرسی پر بٹھا دیا۔

”کیا مطلب کیسی مجبوری؟“ ناصر خان نے بھنویں اچکا کر پوچھا اور کرسی پر بیٹھ کر ان کی بات



سننے لگے۔  
 ہوتے، ماضی کی خوبسورتیاں اور مہر النساء کی یاد  
 انہیں جکڑ لیتی اور وہ کھو جاتے۔

☆.....

نورین نے باقی بہنوں کو راضی کیا اور چند دنوں  
 بعد ہی وہاں رشتہ لے کر پہنچ گئیں۔ دوسری طرف کا  
 محاذ صائمہ نے سنبھالا ہوا تھا۔ زمین تیار تھی۔ آب و  
 ہوا بھی سازگار تھی۔ یوں نئے رشتوں کے بیج  
 پڑ گئے۔ دونوں طرف بہنویوں کی مہربانی سے یہ  
 شادی طے پا گئی۔

مزے کی بات یہ ہوئی دونوں گھرانوں کا کئی بار  
 ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہوا صمیم اور بابر میں بیچ  
 بیچ کی دوستی ہو گئی پکی والی۔ ان دونوں کو برسوں  
 پرانے دوستوں کی طرح محو گفتگو دیکھ کر آئمہ اور  
 ازل کی آنکھیں پھٹ جاتیں، دونوں اس کے بعد  
 دیر تک ہنستے رہتے۔

صائمہ کو اس موقع پر ماں کی یاد شدت سے  
 آئی، مگر جب کبھی انہوں نے پلٹ کر آواز نہ دی تو  
 وہ لوگ بھی ان کے معاملے میں بے حس بن  
 گئے۔ صمیم نے آگے بڑھ کر بیوی کا ہاتھ تھام لیا۔

☆.....

اے یہاں کیا کر رہی ہو؟ شادی میں مہینہ بھر رہ  
 گیا اور تم اتنی صبح دھوپ میں کھڑی۔ ان گڈو، پپو،  
 چپو کے لیے اپنا رنگ روپ جھلسانے پر تلی ہوئی  
 ہو۔“ صائمہ دور سے تیز آواز میں بولتی ہوئی اس کی  
 طرف بڑھی مگر وہ خیالوں میں ازل کا ہاتھ تھامے پتا  
 نہیں کہاں کہاں کی سپردوں کو نگلی ہوئی تھی، اس کے  
 کان پر جوں تک نہ رہیں گی۔

”بس بہت ہو گئے نظارے اب فوراً اندر چلو“  
 صائمہ نے بڑی بہن ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے  
 آئمہ کی کمر پر ایک دھپ لگائی تو وہ چونک اٹھی۔

”ایسا کیا ہے؟ چند دنوں کی عیاشی کر لینے  
 دیں۔ اس کے بعد مجھے اپنے لاڈلوں سے الگ

”والدہ کے انتقال کے بعد اس کے والد صاحب  
 بہت بیمار رہنے لگے ہیں۔ ازل دفتر میں چلا جاتا  
 تو وہ پورے گھر میں اکیلے بولائے بولائے پھرتے  
 ۔ ذہنی تناؤ اتنا بڑھا کہ ایک دو بار بے ہوش ہو گئے  
 ۔ بس بیٹی اپنے ساتھ زبردستی لے گئی۔

”اوہ۔ یہ تو ہے۔ بڑھاپے کا اکلایا بہت برا ہوتا  
 ہے“ انہوں نے آہ بھری۔ اتفاق سے وہ بھی ایسی  
 ہی کیفیت سے گزر رہے تھے۔

ناصر خان دنیا کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دینا  
 چاہتے تھے۔ اس لیے کے بعد سے انہوں نے  
 بیٹیوں پر سختی روا رکھی۔ ان لوگوں کی قسمت اچھی نکلی  
 ۔ ان کی بڑی بہو سارہ بہت اچھی ثابت ہوئی۔ اس  
 نے آتے ہی پورے گھر کو سمیٹ لیا۔

”لڑکا۔ فی الحال میری دوست کی فیملی یعنی اپنی  
 بہن اور بہنوئی کے ساتھ رہتا ہے۔ مگر ان کا ذالی  
 آبائی مکان بہت اچھی جگہ پر واقع ہے۔ وہ شادی  
 کے بعد وہاں رہائش اختیار کرے گا“۔ صمیم نے  
 سر کو دکھی اور سوچوں میں گھرے دیکھا تو جلدی  
 جلدی بات مکمل کی۔ صائمہ کی آنکھیں بھر آئیں۔

”تم لوگوں کا جب دل چاہے۔ ان کو بلا لو۔“  
 ناصر خان سے مزید وہاں بیٹھانہ گیا، مہر النساء کی یاد  
 نے افسردہ کر دیا۔

بیچ کہا ہے کسی نے، سانس ٹوٹنے سے تو آدمی  
 ایک بار مر جاتا ہے، مگر اپنے پیارے کا ساتھ  
 چھوٹ جانے سے زندگی میں کئی بار مرتا ہے۔“ وہ  
 بڑا بڑاتے ہوئے، کمر پر ہاتھ رکھ کر ایک دم وہاں  
 سے اٹھ گئے۔ ناصر خان نے بچوں کی خاطر اپنے  
 جذبات کو مار کر ہمیشہ ان کے مستقبل کی طرف  
 دیکھا، مگر وہ بھی گوشت پوست سے بنے انسان تھے  
 کبھی کبھی ان کا ماضی کے درپچوں میں جھانکنے کو دل  
 بے قرار ہو جاتا، ایسے میں وہ لمحے کی گرفت میں



ہو جانا ہے؟“ آئمہ کی آواز بھرا سی گئی، بابل کا انگنا چھوڑنا آسان نہ تھا، بہت خوشگوار لمبے ساتھ نہیں مگر عمر کے بیس سال گزارنے کے بعد یہاں کے چپے سے انیسیت محسوس ہوتی تھی۔

”یہ تو حق بات ہے میری شادی کو دو سال گز گئے اس کے باوجود، جب بھی پاپا کے گھر رہنے آنے کا پروگرام بناتی ہوں تو من خوشی کے مارے بچوں کی طرح ہنسنے لگتا ہے۔“ صائمہ نے بہن کی تائید کی۔ ماں تو تھی نہیں جو ماں کا گھر کہتی۔

”آہ۔ آپی۔ ہم وہ بد قسمت بیٹیاں ہیں، جنہیں وقت رخصت ماں کے لبوں سے نکلی ہوئی دعائیں بھی نصیب نہیں۔“ آئمہ نے دکھی ہوتے ہوئے کہا۔

”آئی جان۔ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ انسان مرے کو رو لیتا ہے، مگر زندہ کے لیے کہاں سے صبر لائے۔ اس کے باوجود نئی زندگی کی شروعات کرتے ہوئے ان منہنی سوچوں سے چھٹکارا پالو۔ یہ ہی بہتر رہے گا۔“ صائمہ بہن کی کیفیت سمجھ رہی تھی اسی لیے کچھ سوچتے ہوئے بولی۔

”آپی۔ اتنے سال گزر گئے۔ ہم صبر ہی تو کر رہے ہیں۔ نئے رشتے بننے جا رہے ہیں۔ ازل بہت اچھا ہے۔ اس کے باوجود کبھی کبھی پورے جسم میں ایک خوف کی لہری اٹھتی ہے۔“ آئمہ نے ایک جھرجھری لی اور آنکھیں موند لیں، صائمہ بہن کی کیفیت کو سمجھ رہی تھی، اس کی کونسلنگ ضروری ہوگئی۔

”جان..... ایسی باتیں کیوں سوچتی ہو۔ اب ان پودوں کی طرف دیکھو، جب پرانے پھول مرجھا جاتے ہیں، تب ہی تو کوئٹھ پھول پھولتا ہے۔ تاکہ نئے پھول ان کی جگہ لے سکیں۔ اگر قدرت کا ایسا نظام نہ ہوتا تو ہر طرف خزاں ہی طاری رہتی، بہار کیسے آتی؟ بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں کچھ کھو جاتا ہے تو کچھ نیا اور اچھا مل جاتا ہے۔ اسی لیے کسی کے ہونے یا چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی اپنی

رفتار سے چلتی رہتی ہے۔ یہ ہی فطرت کے قواعد ہیں۔ کسی کے نہ ہونے کا ملال دل میں زخم بن کر تو رہ سکتا ہے۔ پر ہم اس وجہ سے اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں سے منہ نہیں موڑ سکتے۔“ صائمہ نے پیار سے بہن کا ہاتھ تھام کر سہلاتے ہوئے سمجھایا۔ تو اس نے کچھ سمجھنے اور کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔

”ویسے بھی بھنو۔ ہمارے دامن میں میسے کی تلخ یادوں کے ساتھ ساتھ کچھ اچھے پل بھی موجود ہیں نا۔ تم بھی میری طرح دل کو مضبوط کر لینا۔ ساری اچھی یادیں سسرال ساتھ لے جانا، اور دکھی لمحوں کو اسی کچی مٹی میں دفن کر جانا“ صائمہ کو ماں کی یاد نے ستایا تو حلق تک کڑوا ہو گیا۔ زمین کی طرف اشارہ کر کے بولی۔

”آپی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ والدین کی غلطیوں کی سزا اولاد بھگتی رہے“ آئی کے حلق میں پھندا سا لگا۔ ساری عمر ماں کی اتنی پروا نہیں رہی جتنی ان دنوں ہو رہی تھی۔

”بالکل ٹھیک بات ہے۔ مانا کے بابا نے غلطی کی۔ مگر مانا۔ وہ تو بالکل ہی بے دفا نکلیں، سالوں گزر گئے۔ مڑ کر دیکھا بھی نہیں کہ ہم زندہ بھی ہیں۔ یا.....“ صائمہ نے نادانستگی میں باپ کا دفاع کرتے ہوئے مہر النساء کا ذکر نکالا۔ ورنہ ان سب کے درمیان ایک خاموش معاہدہ طے پا چکا تھا کہ ماں کا نام بھی کسی کے لبوں تک نہیں آئے گا۔ وہ ان کی زندگی کی کتاب کا ایسا ممنوع ورق بن گئی تھیں جسے کوئی دوبارہ کھول کر پڑھنے پر رضامند نہیں تھا۔

”ہوں!“ آئمہ نے جھرجھری لی اور ایک دم پیٹھ موڑ کر اپنے جذبات چھپانا چاہے۔ مہر النساء کی یاد زندگی میں آنے والی نئی تبدیلی پر بھی حاوی ہو رہی تھی۔

”آئی کیا ہوا؟“ صائمہ گھوم کر اس کی طرف گئی تو وہ گلابی انگلی کی پور پر آنکھ سے مسکنے والے موتی کو



سنہالے ہوئے کسی سوچ میں گم تھی۔

”اپنا! کبھی کبھی ماما کی یادیں دل کی نازک رگوں کو چھیدتی ہوئی روح میں اتر جاتی ہیں۔ اس وقت۔ میں ایک دم احساس کمتری کا شکار ہونے لگتی ہوں۔ وجود میں جیسے ایک کمی محسوس ہونے لگتی ہے“ آئمہ نے بہن کے اصرار پر دل کا درد کھول دیا۔

”ارے۔ میری بہنو۔ سب بھول جاؤ۔ یقین جانو۔ ازل کی محبت کا فسوں تمہارے لیے ایک کرشمہ ثابت ہوگا۔ اچھا پیاری بہن ایک بات گرہ سے باندھ لو۔ جب کسی کی زندگی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو وہ دوسری طرف سے پوری کر دی جاتی ہے۔ یہ ہی تو میرے رب کی مہربانی ہے۔ اب کسی خلش کو دل میں جگہ نہ دینا، ایسا نہ ہو کہ ان باتوں کی بھنگ پاپا کے کانوں تک پہنچ جائے“ صائمہ نے پیار سے آئمہ کے چہرے پر جھولتی ہوئی لٹ کو سلجھانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ایک دم کہنے لگی۔ آئمہ نے گردن ہلائی۔ صبح کے اجالے میں دونوں بہنوں کو ایک دوسرے کی سنگت میں وقت گزارنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ویسے بھی دونوں کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا، اسی لیے ایک دوسرے کی بہن کم دوست زیادہ بنی رہتیں۔

”ارے! میں تو ایسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ اصل میں اپنا مجھے اپنی محنت اکارت جانے کا صدمہ ہے۔ سارہ بھابی تو گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں۔ بھلا اب میرے ان گڈ وچند وغیرہ کا دھیان کون رکھے گا“ آئمہ نے جلدی سے بہن کے سامنے شوخی دکھانے کی کوشش کی، یہ اور بات ہے کہ اس کا چہرہ اور لہجہ ایک دوسرے کے متضاد رخ پر رواں دواں تھے۔

”لو بھلا دکھ کی کیا بات ہے ازل جب تمہارے لیے سماج کی اتنی بڑی دیوار سے ٹکرا سکتا ہے۔ تو ایسے باغ باغیچہ بنانا اس کے لیے کوئی مشکل کام

تھوڑی دیکھنا تمہاری خوشی کے لیے اپنے گھر کے لان کو پودوں سے بھر دے گا پھر وہاں کچھ اور نئے نام رکھ لینا، چمکی، بندیا، روشنی اور سورج وغیرہ۔“ صائمہ کھکھلائی۔

”اپنا کیا ہے؟ میرے پیارے دوستوں کا مذاق اڑاتی ہیں“ آئمہ ایک دم جھینپ کر بولی۔

”ویسے ماننے کی بات ہے بندے میں بڑا دم ہے۔ مجھے تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ ابھی جو یہ منہ لٹکا ہوا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کے پیار سے چاند بن کر چمکے۔ مجھے پتا ہے تمہارا دل خود ہی بغاوت کر بیٹھے گا اور ان گڈ و۔ پو۔ چپو۔ تم۔ سب کو بھول جاؤ گی۔ اسے بس سامنے بٹھا کر“ بیٹھ میرے پاس تجھے دیکھتی رہوں“ کی گردان کرتی رہو گی۔ صائمہ نے بہن کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے چمکی بجا کر گایا۔

”بس بس اسے اتنا نہ چڑھاؤ۔ خود کو پہلے ہی پتا نہیں کیا سمجھتا ہے؟“ آئمہ کے چہرے پر محبت افشاں بن کر چمکی۔

”مان لو بندہ ہے تو سولڈ کیسے تمہاری محبت میں سماج کی اتنی بڑی دیواروں سے ٹکرا گیا“ صائمہ کے لہجے میں ہونے والے بہنوی کے لیے تحسین چھپی ہوئی تھی۔

”ہونہہ..... بری بات وہ میری بڑی ننڈیں ہیں۔ ان کا اتنا مذاق نہ اڑائیں“ موضوع کیا بدلا، آئمہ کے چہرے پر بھی شرارت جاگی۔ اس نے بڑی بہن کی باتوں پر اپنی سوچوں کا، رخ مثبت راہ پر موڑا۔

”ہا ہا ہا دیکھا دل کا ڈاکو تھا نہ کیسے پہچان لیا؟۔ ورنہ میں نے کون سا نورین باجی کا نام لیا تھا“ صائمہ نے بہن کو چھیڑتے ہوئے پرانی کہاوت میں من پسند ترمیم کی۔

”ویسے اپنا ایمانداری کی بات بتاؤں تو مجھے خود بھی نورین باجی سے تھوڑا خوف آتا ہے۔“ آئمہ



ساری چیزیں سج دھج کر ہمیں پکار رہی ہوں، صائمہ کو خیال آیا تو اس نے چھوٹی بہن کا ہاتھ پیار سے پکڑ کر اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔

☆.....

ندیم علی کا گھر انہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود عالی نسب تھا۔ ندیم علی اور فرحت ندیم نے زندگی کا سفر بھر پور انداز میں گزارا، راہ کی کٹھنایوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کی رفاقت سے لطف اٹھاتے رہے۔ ان کے آنگن میں چھ پھول کھلے، سب سے بڑا رضا ندیم، جو خاصا جذباتی واقع ہوا تھا۔ اس کے بعد چار بیٹیاں نورین، مہرین، فرحین اور شازمین تھیں۔ سب سے چھوٹا شرارتی سا ازل ندیم، جس میں پورے گھر کی جان انکی رہتی تھی۔

رضا ندیم ایک سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر کی حیثیت سے تعینات ہوئے تو وہاں ان کی ملاقات ربیعہ سے ہوئی۔ وہ اپنے بخار کا علاج کرانے آئی تھی اور خود ان کو بتلائے عشق کر گئی دونوں نے بڑے زور و شور سے محبت کی پینگیں بڑھائیں۔ جب ربیعہ نے رضا پر شادی کے لیے زور دیا تو، وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر والوں سے ملوانے لے آیا۔

ندیم علی کو شادی سے قبل ربیعہ کی یہ بے باکی بالکل پسند نہیں آئی۔ انہوں نے ایک دم منہ بنا لیا۔ ربیعہ کے دل میں بھی ان کی طرف سے گرہ پڑ گئی پر وہ بظاہر سب سے ہنس ہنس کر ملتی رہی۔ فرحت تو بچے کے تیور دیکھ کر ہی دب گئیں۔ جو ربیعہ پر ریشہ حکمتی ہوا جا رہا تھا۔ اسی لیے وہ لڑکی سے بہت اچھے طریقے سے ملیں۔

ندیم علی نے البتہ اپنی بے زاریت اور ناپسندیدگی چھپانے کی کوئی کوشش نہ کی۔ وہ پرانے خیالات کے مالک بڑے زعم میں مبتلا تھے۔ انہیں

نے پودوں کے پتے نوارے سے دھو کر چمکا دیے۔

”کیوں بھلا کیا وہ چڑیل ہیں، جو تمہارا خون پی جائیں گی؟“ صائمہ نے گھاس کے قطعے پر تیز تیز واک کرتے ہوئے شوخی سے پوچھا۔

”اپنا دیسے تو یہ غیبت نہوٹی۔ پر سنا ہے کہ میری نند کی بجل پسندی ضرب المثل ہے۔“ آئمہ نے پکا منہ بنا کر کہا تو صائمہ کی ایک بار پھر ہنسی چھوٹ گئی۔

”واہ! خاتون تو بڑی باکمال ہیں۔ ان کی مثالیں دی جاتی ہیں“ صائمہ نے نورین کی کنجوسی کو سراہا۔

”میں تو اتنے کھلے دل کی ہوں جانے ان کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا؟“ آئمہ نے گھنی پلکیں جھپکا کر کہا تو صائمہ کو چھوٹی بہن پر پیار آ گیا۔

”تمہیں کون سا ان کے ساتھ رہنا ہے صمیم نے پہلے ہی ازل سے بات کر لی تھی کہ شادی کے بعد تمہیں الگ رکھے، بہن کے گھر رہنے کی کیا تکنتی ہے“ صائمہ نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دلاسا دیا۔

”داسطہ تو پڑے گا ازل کی باقی تینوں بہنیں تو شادی کے بعد ملک سے باہر سدھار گئیں۔ اب نورین باجی یہاں ہیں۔ تو ان سے ہی زیادہ تعلق رہے گا“ آئمہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔

”خیر چندا! ہمیں تمہاری صلاحیتوں پر مکمل بھروسا ہے۔ وہ جا ہے جیسی بھی ہوں؟ تم کیسی ہو ہمیں اس بات پر مکمل اطمینان ہے۔ اسی لیے اب بے فکر ہو کر سسرال کی دہلیز پار کرو چل کر تھوڑی دیر دادی کے پاس بھی بیٹھ جاؤ، انہیں کل سے پھر دورہ پڑا ہے۔ صائمہ نے ایک بار پھر شرارتی انداز اپنایا تو آئمہ جھینپ گئی۔

”چلو لڑکی سارہ بھابی کے ہاتھ کے مزیدار پرائٹوں اور آلو کی بھجیا سے لطف اٹھائیں، میں جب باہر آئی تھی تو وہ پکن میں ناشتا بنانے جا رہی تھیں، ان کی پھرتی سے کچھ بعید نہیں اب تک تو



اپنے دلی عہد پر بہت بھروسہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ رضا والدین کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرے گا۔ مگر یہ ان کی خام خیالی ثابت ہوئی۔

رضانے باپ کی مخالفت کے باوجود ربیعہ سے شادی کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ فرحت منہ زور ہوتے بیٹے کی وجہ سے مجبور ہو گئیں اور شوہر کو منع کر رشتہ لے جانے کو تیار ہو گئیں۔

شادی سے قبل جس ربیعہ کے منہ سے پھول جھڑتے تھے اور پورا گھر اس کی خوش اخلاقی کی گواہی دیتا تھا۔ رضا کی بیوی بنتے ہی وہ جانے کیسے روکھے پھیکے مزاج میں ڈھل گئی۔ ان لوگوں کے ساتھ اس نے بمشکل ایک سال ہی گزارا۔ فرحت ساس کے روپ میں اللہ میاں کی گائے ثابت ہوئیں۔ مگر سرندیم علی نے ساری کسر نکال لی۔ دونوں کی بالکل نہیں بنتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف دل میں عناد پالے بیٹھے تھے۔ اب ربیعہ کی گود میں مریم آچکی تھی، کھوٹا بھی مضبوط ہو گیا تو اس نے علیحدگی کے لیے شور مچا دیا۔ فرحت ندیم جو ایک سیدھی سادھی خاتون تھیں، اس روز روز کے شور شرابے سے پریشان ہو گئیں۔ اسے ان سے کوئی شکایت نہیں تھی مگر سرندیم علی اور نورین جیسی مزاج دار نند کے ساتھ اس کا گزارا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔

نورین ہر ہفتے ماں کے گھر کا چکر لگاتی۔ اسے بھابی کے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے اور کھانے پینے تک کے معمول از بر تھے۔ ایک ایک بہن کو فون پر میکے کی پوری رپورٹ فراہم کی جاتی۔ شہرین، شادی کے بعد امریکا۔ جبکہ فرحین اور مہرین اپنے شوہروں کے ساتھ کینیڈا سدھار گئی تھیں۔ ربیعہ کو قطعی طور پر اپنے ذاتی معاملات میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں تھی۔ وہ شوہر کے کان بھرتی رہی اور آخر کہہ سن کر الگ ہو ہی گئی۔

☆.....  
فرحت نے بیٹے اور بہو کا غم دل پر لے لیا۔ منہ سے تو کچھ نہ بولیں اندر ہی اندر کڑھتی رہیں اور چپ چاپ دنیا چھوڑ گئیں۔ ماں کے مرنے کے بعد جب ازل اور ندیم علی کو کئی مشکلات پیش آئیں تو اس نے ایک دن سب کو جمع کیا۔ اپنے مسائل اور پاپا کی تنہائی کا نقشہ کھینچا۔ تینوں بہنیں بھی ماں کے مرنے پر پاکستان آئی ہوئی تھیں، مگر شہرین اپنے سسرالوں میں تھیں۔

رضانے بہنوں کے دباؤ میں آکر ان دونوں اپنے ساتھ لے جانے کی پیش کش کی مگر ربیعہ کی لا تعلقی پر بہنیں چڑ گئی۔ سب کے سمجھانے پر نورین بھائی اور باپ کو زبردستی اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ بیوی کے جلد بازی میں کیے گئے فیصلے پر بابر نیاز کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا۔ وہ دواؤں کی کمپنی میں سیز مینجرجر تھے۔ کام کی نوعیت ایسی تھی کہ اکثر انہیں ایک ایک ہفتے کے لیے اندرون سندھ جانا پڑتا۔ ایسے میں۔ گھر میں ان لوگوں کی موجودگی قابل اطمینان تھی۔ بہن کے گھر رہنے پر ازل کی دل کی کلی مرجھا سی گئی۔ وہ کافی غیرت مند واقع ہوا تھا مگر پاپا کی وجہ سے اس نے یہ کڑوا کھونٹ پینا بھی برداشت کر لیا۔

زندگی کا حاصل مسلسل پیکار میں مبتلا رہنا ہے۔ وقت کی چالیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب قسمت کا پانسا انسان کے حق میں پلٹ جاتا ہے۔ اس لیے سعی جاری رکھنا ضروری ہے۔

☆.....

”ازل! کیا بات ہے؟ آج بڑی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو؟“ بابر نیاز نے مسکرا کر سوچ میں کھوئے ہوئے سالے سے پوچھا، جس کی شرارتی آنکھوں کی جوت آج کچھ مدہم دکھائی دے رہی تھی۔

بھائی جان۔ آپ کے اندازے کی داد دینی



پڑے گی۔ واقعی آپ چہرہ شناسی میں ماہر ہیں۔ بس ایک مسئلہ ہے۔ جو آپ کی مدد کے بغیر حل ہو ہی نہیں سکتا۔“ ازل نے بہنوئی کے برابر میں نرم صوفے پر دھستے ہوئے عاجزی سے کہا۔

”خیر تو ہے سالے جی؟ ایسی کیا مصیبت آن پڑی۔ جو آپ اتنے متوحش دکھائی دے رہے ہیں۔ میرے حساب سے تو۔ آپ کی نیا طوفانوں سے نبرد آزما ہو کر ساحل پر پہنچنے ہی والی ہے؟“ بابر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور سوال کیا۔

”کہاں بھائی جان! ابھی بھی راہ میں رکاوٹیں حائل ہیں۔“ ازل کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ دوڑ گئی، جس میں خوشی کی رمت نہیں بلکہ افسردگی کا جہاں آباد تھا۔

”اب کیا ہو گیا چھوٹے؟“ بابر نے تسلی دینے والے انداز میں پوچھا۔

”کیا کہوں۔ آپ سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ امی جی کے انتقال کے بعد مجھے اور پاپا کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ساری بہنوں کی شادیوں کے بعد گھر خالی ہو چکا تھا۔ ربیعہ بھالی نے بھی ہماری ذمہ داری اٹھانے سے کئی کترائی۔ پاپا کی بیماری اور تنہائی کی وجہ سے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں آپ کے گھر میں رہائش پزیر ہونا پڑا۔“ ازل کا لہجہ گھمبیر ہوتا چلا گیا۔ ماضی کی پرچھائیاں حال پر غالب آ گئیں۔

”چھوٹے! مجھے ساری باتیں یاد ہیں۔ میں اب تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ ایسی تمہید کیوں باندھی جا رہی ہے“ بابر اس کا دکھ سمجھتے تھے اسی لیے اس کے کاندھے کو تھپکتے ہوئے پوچھنے لگے۔

”اصل میں میری خواہش ہے کہ آئمہ شادی کے بعد اس گھر میں جا کر اترے جہاں میری جنت مکانی ماں نے اپنی عمر عزیز کے طویل برس گزار لے تھے۔ اسی لیے میں پاپا کو لے کر آبائی

مکان میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں“ ازل نے سنجیدگی سے کہا۔ بابر کے ریموٹ پر چلتی انگلیاں تھم گئیں۔ وہ مسلسل ٹی وی کے چینل بدل رہے تھے۔

”اچھا۔ تو یہ بات ہے ویسے اگر تم چاہو تو شادی کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہی رہ سکتے ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔“ بابر نیاز نے بڑی سادگی اور خلوص سے اسے پیش کش کی۔

”شکریہ بھائی جان۔ مجھے آپ کی محبتوں پر رتی برابر شبہ نہیں۔ مگر اس وقت مجبوری تھی۔ گھر میں کوئی عورت نہیں تھی۔ میں تو ہوٹل بازی کر لیتا مگر پاپا سے اس عمر میں اتنے ثقیل کھانے برداشت نہیں ہو پارہے تھے، اس کے علاوہ امی کے جانے کے بعد وہ انتہائی کم گو اور بیمار رہنے لگے تھے۔

میرے آفس جانے کے بعد ایسی کنڈیشن میں ان کا اکیلا پن بھی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اسی لیے سب کے مجبور کرنے پر ہم اس گھر کو کرائے پر اٹھا کر یہاں چلے آئے۔ اب شادی کے بعد آئمہ کی موجودگی میں میرے تفکرات کافی کم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں نند بھانج کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں ان بن کا خدشہ بہت زیادہ رہتا ہے۔ شادی کے بعد کوئی تنازع اٹھے۔ اس کے بعد ہم الگ ہوں۔ تو باجی کا دل برا ہونے کے ساتھ ساتھ جگ ہنسائی بھی ہوگی۔ میں نے حقیقت پسندی سے تجزیہ کیا تو ایک یہی حل معقول لگا“ بابر نیاز نے چونک کر ازل کو ستائش بھری نگاہوں سے دیکھا، انہیں سالے سے اتنی سمجھداری کی امید نہ تھی، وہ جو کہہ رہا تھا، اس کی صداقت میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ نورین کی فطرت سے بھی واقف تھے جس کے ساتھ ہر کسی کا گزارا آسان نہیں تھا۔

”بات تو تمہاری درست ہے میاں چلو جیسی تمہاری مرضی۔ کرائے داروں سے۔ گھر خالی کروالیا ہے؟“ انہوں نے اچھٹی سی نگاہ ٹی وی پر ڈالنے کے



مرکان میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں“ ازل نے سنجیدی سے کہا۔ بابر کے ریموٹ پر چلتی انگلیاں تھم گئیں۔ وہ مسلسل ٹی وی کے چینل بدل رہے تھے۔

”اچھا۔ تو یہ بات ہے ویسے اگر تم چاہو تو شادی کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہی رہ سکتے ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔“ بابر نیاز نے بڑی سادگی اور خلوص سے اسے پیش کش کی۔

”شکر یہ بھائی جان۔ مجھے آپ کی محبتوں پر رتی برابر شبہ نہیں۔ مگر اس وقت مجبوری تھی۔ گھر میں کوئی عورت نہیں تھی۔ میں تو ہوٹل بازی کر لیتا مگر پاپا سے اس عمر میں اتنے ثقیل کھانے برداشت نہیں ہو پارہے تھے، اس کے علاوہ امی کے جانے کے بعد وہ انتہائی کم گو اور بیمار رہنے لگے تھے۔

میرے آفس جانے کے بعد ایسی کنڈیشن میں ان کا اکیلا پن بھی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اسی لیے سب کے مجبور کرنے پر ہم اس گھر کو کرائے پر اٹھا کر یہاں چلے آئے۔ اب شادی کے بعد آئمہ کی موجودگی میں میرے تفکرات کافی کم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں نند بھانج کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں ان بن کا خدشہ بہت زیادہ رہتا ہے۔ شادی کے بعد کوئی تنازع اٹھے۔ اس کے بعد ہم الگ ہوں۔ تو باجی کا دل برا ہونے کے ساتھ ساتھ جگ ہنسائی بھی ہوگی۔ میں نے حقیقت پسندی سے تجزیہ کیا تو ایک یہی حل معقول لگا“ بابر نیاز نے چونک کر ازل کو ستائش بھری نگاہوں سے دیکھا، انہیں سالے سے اتنی سمجھداری کی امید نہ تھی، وہ جو کہہ رہا تھا، اس کی صداقت میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ نورین کی فطرت سے بھی واقف تھے جس کے ساتھ ہر کسی کا گزارا آسان نہیں تھا۔

”بات تو تمہاری درست سے میاں چلو جیسی تمہاری مرضی۔ کرائے داروں سے۔ گھر خالی کروالیا ہے؟“ انہوں نے اچھلتی سی نگاہ ٹی وی پر ڈالنے کے

پڑے گی۔ واقعی آپ چہرہ شناسی میں ماہر ہیں۔ بس ایک مسئلہ ہے۔ جو آپ کی مدد کے بغیر حل ہو ہی نہیں سکتا“ ازل نے بہنوی کے برابر میں نرم صوفے پر دھنتے ہوئے عاجزی سے کہا۔

”خیر تو ہے سالے جی؟ ایسی کیا مصیبت آن پڑی۔ جو آپ اتنے متوحش دکھائی دے رہے ہیں۔ میرے حساب سے تو۔ آپ کی نیا طوفانوں سے نبرد آزما ہو کر ساحل پر پہنچنے ہی والی ہے؟“ بابر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور سوال کیا۔

”کہاں بھائی جان! ابھی بھی راہ میں رکاوٹیں حائل ہیں۔“ ازل کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ دوڑ گئی، جس میں خوشی کی رمت نہیں بلکہ افسردگی کا جہاں آباد تھا۔

”اب کیا ہو گیا چھوٹے؟“ بابر نے تسلی دینے والے انداز میں پوچھا۔

”کیا کہوں۔ آپ سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ امی جی کے انتقال کے بعد مجھے اور پاپا کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ساری بہنوں کی شادیوں کے بعد گھر خالی ہو چکا تھا۔ ربیعہ بھالی نے بھی ہماری ذمہ داری اٹھانے سے کئی کترائی۔ پاپا کی بیماری اور تنہائی کی وجہ سے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں آپ کے گھر میں رہائش پزیر ہونا پڑا۔“ ازل کا لہجہ گھمبیر ہوتا چلا گیا۔ ماضی کی پرچھائیاں حال پر غالب آ گئیں۔

”چھوٹے! مجھے ساری باتیں یاد ہیں۔ میں اب تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ ایسی تمہید کیوں باندھی جا رہی ہے“ بابر اس کا دکھ سمجھتے تھے اسی لیے اس کے کاندھے کو تھکتے ہوئے پوچھنے لگے۔

”اصل میں میری خواہش ہے کہ آئمہ شادی کے بعد اس گھر میں جا کر اترے جہاں میری جنت مکانی ماں نے اپنی عمر عزیز کے طویل برس گزار لے تھے۔ اسی لیے میں پاپا کو لے کر آبائی



بڑا بوجھ اتر گیا۔

”اب شیرنی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟“ ازل سے وعدہ تو کر لیا۔ مگر بابر جانتے تھے انہوں نے ایک بڑی پریشانی مول لی ہے۔ وہ بیوی کی فطرت اور کنجوسی سے واقف تھے۔ ان کے آبائی گھر سے ملنے والا کرایہ پورا کا پورا۔ نورین کے ہاتھوں میں جاتا تھا۔ ازل بھی اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ بہن کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ گو کہ بابر نے بیوی کو کبھی روپے پیسے کی تنگی نہ ہونے دی مگر یوں ایک موٹی رقم ہاتھ سے جاتا دیکھ کر وہ سکون سے کہاں پہنچتی؟

بابر نیاز نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ وہ جانتا تھا بیوی کی کون سی کل کیسے سیدھی کی جاسکتی ہے۔

☆.....

”میں نے ازل کو شادی کے بعد الگ ہونے کا کہہ دیا ہے“ بابر نیاز کے دماغ میں ایک دم جھماکا ہوا۔ انہیں یہ ہی صحیح وقت لگا اس لیے جی کڑا کر کے بولے۔

”دہ کیوں! کیا میرا بھائی اب اتنے سالوں بعد آپ کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا ہے؟“ نورین سیٹ سے اچھلی۔ کہیں کا غصہ کہیں جانکلا۔

”بس بھئی! اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ میری بیوی بیجاری بچت کرنے کے لیے خاندان بھر سے جھگڑے مول لیتی ہے۔ بلاوجہ ہلکان ہوتی ہے۔“

بابر نے اس کے ترش کے سارے تیر اسی پر آزما تے ہوئے پیار جتایا۔

”ہاں تو۔ اس بات سے ازل کی شادی کا بھلا کیا تعلق؟“ نورین نے گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھی سی ڈیز چیک کرتے ہوئے پوچھا۔

”واہ!! کیسے تعلق نہیں بنتا۔ گھر میں نئی ولہن کی آمد کے ساتھ ہی خرچے بڑھ جائیں گے۔ مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ۔ نئی نئی شادی کے بعد آئمہ کے گھر والوں کا ہر وقت آنا جانا لگا رہے گا۔ اس پر

بعد ازل کی طرف رخ موڑا۔ لہذا، پوڑا۔ مردانہ وجاہت کا نمونہ۔ ان کا یہ سال، چہرے پر مصومیت کی چھاب، بڑی بڑی آنکھوں میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھردی گئی تھی۔ بہنوں کا راج دلار۔ سب سے پھیٹر چھاڑ میں لگا رہتا۔ یہ الگ بات تھی کے تنہائی اس کے اندر کسی بچے کی طرح ہلکورے لیتی رہتی تھی۔

”جی! گرائے داروں کو تو پہلے ہی نوٹس دے چکا ہوں۔ بس اب وہ خالی کر دیں۔ تو تھوڑی بہت مرمت اور وائٹ واش کا کام شروع کروادوں گا“

ازل نے کہا، تو اس کی جلد بازی پر بابر نے زور دار قہقہہ مارا۔ وہ ایک دم جھینپ گیا۔

”ہوں..... تو صاحبزادے۔ ہم سے اجازت کا تو بہانہ ہے۔ پہلے ہی پکا کام کر چکے ہو۔ اچھا ہے بیٹا۔ شادی کے بعد پرائیوسی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔“ بابر نے اس کے کاندھے پر خوش دلی سے ہاتھ مارا اور چھیڑ چھاڑ میں لگ گئے۔

”بھائی جان اصل مسئلہ یہ نہیں تھا، کیوں کہ میں جانتا تھا کہ آپ تو میرا ہی ساتھ دیں گے“ ازل نے اضطراب سے پیر کو جھٹکا۔

”میاں! اب کیا پریشانی رہ گئی ہے؟“ بابر اس کے پے در پے بیانات پر وہ الجھ سے گئے۔

”وہ..... نورین باجی“ ازل نے اتنا ہی کہا تھا کے بابر نے بات کاٹ دی۔

”کیا میری بیگم تمہیں مسئلہ لگتی ہیں؟ ویسے آپس کی بات ہے مجھے بھی ایسی ہی لگتی ہے“ وہ شوخی سے کھلکھلائے تو ازل بھی ہنس پڑا۔

”اچھا بھائی مسئلہ تو گھمبیر ہے۔ نورین کبھی اس بات کی۔ اجازت نہیں دے گی۔ خیر ہم بھی کچھ نہ کچھ چکر چلائیں گے۔ بس تم تو اپنی شادی کی تیاری میں مصروف ہو جاؤ۔ بچی کو کسی بات کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ باقی ہم پر چھوڑ دو۔“ بابر نیاز نے اسے دلاسا دیا تو ازل کو لگا کے کاندھے سے ایک



آج کل کی لڑکیوں کی شاہ خرچیاں۔ اب تم نئی دلہن کو باسی کھانوں پر بھی نہیں ٹر خاستکتیں۔ ظاہر ہے اس کے بعد لڑائی جھگڑے اور رسہ کشی ہوگی۔ نہیں بھئی نرا خرچہ ہی خرچہ۔ ذہنی سکون الگ ختم ہو جائے گا۔ میں تم پر یہ ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔“ بابر نے نورین حیرت سے کھلا منہ دیکھا تو اپنی ہنسی چھپا کر زور زور سے بولنے لگا۔ اس کے دل پر بھی شوہر کی باتوں کا اثر ہونے لگا۔ وہ سوچ میں گم ہوگئی۔ باقی راستہ خاموشی سے کٹا۔

☆.....

اس پوری رات وہ صبح سے سو بھی نہ پائی۔ جب آنکھ لگتی۔ خواب میں ہونے والی بھاوج سے لڑنے لگتی۔ صبح تک نورین شوہر کی باتوں کی قائل ہوگئی۔ ”ازل چندا اب تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے اب تمہیں اپنا گھر خالی کروا کر وہاں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ویسے بھی ہر لڑکی کا حق ہے کہ وہ من پسند زندگی گزارے۔ میں آئمہ سے یہ حق نہیں چھین سکتی۔ جب تم لوگ سیٹ نہیں ہو جاتے پاپا یہاں میرے ساتھ ہی رہیں گے“ نورین نے چھوٹے بھائی کو گلے سے لگا کر متاثر کن جذباتی۔ انداز اپنا کر بخوشی الگ گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔

”بابی یہ کیا۔ کہہ رہی ہیں۔“ ازل کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ مگر اس وقت سعادت مند بچے کی ایک ننگ ضروری تھی۔ بابر نیاز نے نورین سے نگاہیں بچا کر اپنے کالر کھڑے کیے۔ ”بس جو میں کہہ رہی ہوں۔ وہ ہی کرو“ نورین نے قطعیت سے بات کائی۔

”اچھا جیسا آپ کا حکم“ ازل نے سر جھکا کر معصومیت دکھائی۔ بابر اس کی چالاکی پر اسے گھورنے لگے تو وہ جھینپ گیا۔

”تیرا وجود جینے کا ایک حسین بہانا لگا مجھے“ ازل

گنگناتا ہوا بہانے سے وہاں سے اٹھا۔ اسے آئمہ کو یہ خوش خبری سنانے کی جلدی تھی۔

☆.....

”بھائی آپ نے بھی بہن سے ایسی غیریت برتی۔ بچے کے پاس ہونے کی اتنی بڑی تقریب رکھی اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ بھابی نے صرف فون پر کہہ دیا کل کا ڈنر ہمارے ساتھ کرنا حد ہے کہ نہیں“ نورین جیسے ہی بڑے بھائی رضا کے گھر داخل ہوئی اتنے بڑے پیمانے پر منعقدہ تقریب کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ تو شکر ہے کہ وہ بھابی کی ضد میں یہاں ہمیشہ تک سک سے درست آئی تھی ورنہ کتنی جگ ہنسائی کا سامنا ہوتا۔

ازل نے بھی معمول کا ڈنر سمجھا اور اپنے کسی دست کی منگنی میں چلا گیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ بھتیجے کی اتنی بڑی پارٹی ہو رہی ہے۔ نورین نے زبردستی ندیم صاحب کو ساتھ چلنے سے منع کر دیا کھانا اور دو اٹھلا کر سلانے کے لیے لٹا دیا۔ یہاں آکر دیکھا تو رنگ ہی کچھ اور نکلے۔

”اپنوں میں کیا نیوتا، کیا بلاوا۔ بس عادل کے میٹرک میں پاس ہونے کی خوشی میں سب کو جمع کر لیا۔ تمہاری بھابی کو ضد چڑھ گئی کہ اس موقع پر خاندان بھر کی دعوت کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے بس تمہیں بھی فون کر دیا۔ رضانا بہن سے نگاہیں چرائیں، رپیچہ کی حرکت پر غصہ بھی بہت آیا جس نے نورین کو تفصیلی بات نہیں بتائی۔

”لو! یہ کیا بات ہوئی۔ بتا دیتے تو کیا ہم کوئی اچھا سا تحفہ ساتھ نہ لاتے“ نورین نے روکھے پھیکے انداز میں کہا تو رضانا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ یہ گفٹ کا ہی تو سارا جھمیلا تھا۔

”چلو چھوڑو تم کوئی غیر تھوڑی ہو جو لین دین کی فکر میں پڑ گئی ہو“ رضانا بہن کو ساتھ لگائے اندر کی طرف بڑھے۔ سامنے ہی زبنیہ کریم انگر کے پریڈ پائجامہ



# پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

## یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریٹریوم ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ سیریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on  
Facebook

[fb.com/paksociety](https://fb.com/paksociety)



[twitter.com/paksociety1](https://twitter.com/paksociety1)



میاں کی شاہ خرچی پر اس کا ہلی ہلی اذان ہونے لگا۔  
 بابر نے آنکھیں دکھائیں تو سعادت مندی سے  
 سر ہلاتے ہوئے، لفافہ پکڑا اور اس کے ہانے کا  
 انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ مردانے لباس کی طرف  
 بڑھا۔ نورین نے لفافہ کھول کر چیک کیا۔ دو کڑکتے  
 ہوئے پانچ سو روپے کے نوٹ نکلا۔ وہ ایک نوٹ  
 تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر جلدی سے ایک نوٹ  
 نکال کر ہینڈ بیگ میں رکھا اور لفافہ دوبارہ چپکا دیا۔

.....☆.....

”بھائی نے دعوت بڑی شاندار کی تھی۔ مزہ  
 آگیا“ نورین نے گاڑی کی سیٹ پر پھیل کر بیٹھتے  
 ہوئے کہا۔ بابر نے سر ہلایا۔ وہ ثنویت سے  
 ڈرامیونگ میں مشغول تھا۔ وہ لوگ تقریب کے  
 اختتام پر گھر روانہ ہو رہے تھے۔ کھانوں کی  
 خوشبو سے پوری گاڑی میں مہک رہی تھی، جو بابر  
 کو بھرے پیٹ کے ساتھ کھانوں کی یہ خوشبو  
 پریشان کر رہی تھی۔

یہ نورین کا وتیرہ تھا۔ وہ جب بھی بھائی کے گھر  
 کسی دعوت میں جاتی۔ آخر میں باپ کا کھانا حق  
 سے مانگ کر لاتی۔ سب کو پتا تھا ندیم صاحب  
 پر ہیزی کھانا کھاتے تھے، مگر ربیعہ کے چہرے کے  
 بگڑتے نقوش دیکھ کر، نورین کے دل پر جو ٹھنڈی  
 پھوار پڑتی، وہ اس کا مزہ لینے کے لیے ہر بار یہ  
 حرکت کرتی۔ مصیبت میں تو باقی گھر والے بتلا  
 ہوتے جب وہ لگا تار دو تین دن تک باسی بریانی  
 زردے گرم کر کرے سب کو تعریفوں کے ساتھ  
 کھلائے جاتی۔ بابر نے ناک سکیڑی اور کھڑکی  
 کھول دی تاکہ تازہ ہوا کی آمد و رفت ہو سکے۔

”مما آپ کو پتا ہے۔ مومو کیا بتا رہی تھی؟ شیراز  
 کی آواز نے ان دونوں کو چونکایا۔

”نہیں بیٹا مجھے کیا خبر وہ تو آپ کی سکھی ہے۔  
 آپ دونوں ہی بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے اپنے

پہنے۔ کسی اچھے بار سے سچ سنور کر آئی تھی۔ نورین  
 نے کڑوی گولی نگلی۔ وہ بھی اپنے میکے والوں میں  
 گھری کھڑی تھی۔ نند کو دیکھ کر کچھ انجان بن گئی۔  
 ”ربیعہ ادھر آؤ دیکھو نورین آئی ہے“ رضانا نے  
 بیوی کو آنکھ دکھائی تو وہ تیر کی طرح سیدھی  
 ہوئی۔ ہاتھ پھیلا کر خوش آمدید کہتی آگے  
 بڑھی۔ شوہر کا پیار برقرار رکھنے کے لیے۔ کبھی کبھی  
 سسرالی رشتے داروں کی آؤ بھگت بھی ضروری  
 ہو جاتی ہے۔

دونوں ایک دوسرے کے گلے بڑی گرمجوشی سے  
 ملیں، بھلے دل میں منہ نوچ لینے کی خواہش  
 انگڑائیاں لے رہی تھیں۔

”نورین آؤ نا یہاں سب سے آگے بیٹھو۔“ ربیعہ  
 نے ان کو عزت سے لے جا کر مٹلیں صوفے پر بٹھا  
 دیا۔ ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھی پھر معذرت کرتی ہوئی  
 پنے دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھ گئی۔

.....☆.....

”سنو۔ عادل کو۔ کیا دینا ہے۔؟“ بابر کو کبھی  
 کبھی عزیز از جان بیوی کی کنجوسی بہت بھاری  
 پڑتی۔ اس وقت بھی ٹس سے مس نہ دیکھ کر بیٹے سے  
 اسے کونے میں بلوا کر پوچھا۔

”اس میں کیا سوچتا۔ بھائی نے کون سا ہمیں  
 پارٹی کا بتایا تھا۔ ہم کسی تیاری سے تھوڑی آئے  
 ہیں۔ بڑھ سو روپے دے دیتے ہیں“ نورین نے  
 سوکھا منہ بنا کر کہا تو بابر کا دل چاہا۔ وہاں سے کہیں  
 دیکھا گیا۔

”تم جانے کب سدھرو گی۔؟۔ عادل نے  
 فیسٹ پوزیشن لی ہے۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ  
 یہ دعوت اسی سلسلے میں رکھی گئی ہوگی۔ اسی لیے  
 انتظام کر کے آیا ہوں۔ یہ لولفافہ اس میں ہزار  
 روپے ہیں۔ اپنے بھتیجے کو۔ دے دینا“ بابر نے  
 کلابی لفافہ نورین کو زبردستی تھماتے ہوئے کہا تو



اپنے پیٹ ہلکے کرتے ہو، نورین نے شوہر کو دیکھتے ہوئے شوخی دکھائی، بابر نے خشکی سے منہ موڑ لیا۔

.....☆.....

”دہ۔ بتا رہی تھی کہ اس کی ماما یعنی مامی ربیعہ نے جان بوجھ کر ہمیں عادل بھائی کی پارٹی کا نہیں بتایا،“ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی شیزا نے افسردگی سے کہا۔ مومو۔ یعنی مریم۔ رضاندیم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ دونوں لڑکیاں ہم عمر تھی اسی وجہ سے ان میں بہت ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ دونوں اپنے گھر میں ہونے والا ہر مسئلہ ایک دوسرے سے شیئر کرتی۔ مگر کبھی کبھی یہ بہنا پاتا۔ ان کی مادوں میں جھگڑے کی وجہ بن جاتا۔ دیے بھی پیٹھے پیچھے تو بادشاہوں کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے۔ مگر جب اپنی برائی منہ پر سننے کو ملے تو برداشت کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگتا ہے۔

”اے کیوں چھپایا گیا۔ ہم نے کیا بھابی کے کھیت اجاڑ لینے تھے“ نورین ایک دم چونکی ہو کر سیدھی ہوئی اور بیٹی کو کریدا، اس کا دل دھڑکا۔ اب راز پر سے پردہ اٹھنے والا تھا اور شیزا سے کارآمد مواد ملنے کی امید جاگی۔

”ماما! آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ مامی۔ آپ سے بہت ناراض ہیں۔ اصل میں مومو کی پچھلی سالگرہ پر آپ نے جو میرا ہینڈ بیگ تحفے میں دے دیا تھا۔ اس میں سے ایک رنگ آلود سیٹھی پن نکل آئی اور میری پونی۔ مامی نے ماما سے خوب لڑائی کی اور کہا کہ آپ کی بہن اپنی استعمال شدہ چیزیں دوسروں کو تحفے میں کیوں دیتی ہیں۔“ شیزا کے لہجے میں درد گھلنے لگا۔ وہ ماں کی اس عادت سے سخت نالاں تھی۔

”بھلا بتاؤ! اس میں اتنا غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ نہیں استعمال کرتی اٹھا کر رکھ دیتی“ نورین کا چہرہ لمحہ بھر کوفت ہو۔ پھر بات سنبھالنے کی کوشش میں اناپ شناپ منہ سے نکلا۔

”اب سب آپ کی طرح اتنے باہمت تو نہیں ہوتے۔“ بابر نے ٹیڑھی آنکھ سے بیوی کو دیکھا اور جھنجلا کر بولا۔

”تو کیا ہوا؟ ایک ہی دفعہ تو استعمال کیا تھا۔ شیزا کو اس بیگ کا رنگ پسند نہیں تھا،،۔ ویسے میں نے اچھی طرح سے چیک تو کیا تھا۔ جانے پن کون سے خانے میں رہ گئی۔“ نورین نے بھی بے زاریت سے جواب دیا۔

”ماما! سنیں تو۔ ربیعہ مامی نے آپ کے بارے میں کہا۔ آپ انہیں اتنا حقیر اور گرا پڑا کیوں سمجھتی ہیں؟ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود آپ کا دل کتنا چھوٹا ہے؟۔ پچھلی دفعہ جب رضاماموں کی فیملی آئی تھی۔ تو میرے منع کرنے کے باوجود آپ نے چائے کے ساتھ کئی دن پرانی کھوئے کی مٹھائی پیش کی۔ اس میں سے عجیب سی بھبک اٹھ رہی تھی۔ وہ شکل سے ہی باسی لگ رہی تھی اسی لیے سب نے منع کر دیا اور ہاتھ بھی نہ لگایا۔ پچارے ماموں نے آپ کی محبت میں کھالی۔ گھر جا کر پوری رات ان کا پیٹ خراب رہا۔“ شیزا نے دکھ سے مومو کی بتائی ہوئی ساری باتیں ماں کے سامنے اگل دیں۔ نورین ایک دم سناٹے میں آگئی۔ بابر کو سردی میں بھی پسینہ آ گیا۔ دل میں بیوی کو کچا چبا جانے کی خواہش جاگی۔

”میں نے کوئی جان بوجھ کے تو ایسا نہیں کیا۔ اتنی مہنگائی ہے تو کیا اصلی گھی کی مٹھائی کو پھینک دیتی“ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، فوراً تاویل پیش کی۔

”اسی لیے وہ اب آپ کو کسی ایسی دعوت میں نہیں بلا میں گی جس میں کسی بھی قسم کا دینا لینا ہو۔“ شیزا کی آواز دھیمی ہو گئی۔ بابر کا چہرہ ایک دم سرخ پڑ گیا۔

”بیوی! تم اور کہاں کہاں ذلیل کرواؤں گی“



بابر کا چہرہ سپاٹ ہو گیا، وہ سرد اور ٹھنڈے ہوئے انداز میں گویا ہوا۔

”یہ میرا بھائی کیا زن مرید بنا۔ بیوی کی سنتا رہا“ نورین کی شرمندگی لمحے بھر کی تھی۔ وہ صرف ڈھیٹ ہی نہیں مہا ڈھیٹ تھی۔ فوراً ہی بھابی پر غصہ اتارا۔

”ماموں۔ تو آپ کے پیچھے اتنا لڑے ورنہ ماما اسی دن وہ بیگ واپس کرنے آرہی تھیں۔ لیکن وہ اس بات پر مانیں کے آئندہ ہم لوگوں سے کوئی تحفہ نہ لیا جائے۔“ شیزا کا انداز سرکش ہوا۔ بابر نے مڑ کر بیٹی کو دیکھا جس کا چہرہ دوران تقریب ہی اتر گیا تھا۔

”یہ مومو کیوں پھا پھا مکٹنی بنی۔ لگائی بھائی میں لگی رہتی ہے۔ میں رضا بھائی سے اسے ٹھیک کر داتی ہوں۔ بھلا بتاؤ اتنی سی بچی اور زبان سوگڑ کی“ نورین سے کچھ اور نہ بن پڑا تو بیٹیجی کے لئے لینے لگی۔

”بس کر دو ساری دنیا کو ٹھیک کر دانے کی جگہ خود کو درست کر لو تو یہ مسائل آپ ہی آپ ختم ہو جائیں گے“ بابر نے ہاتھ اٹھا کر سختی سے کہا۔ وہ منہ بسور کر بیٹھ گئی۔

”کیا ہی اچھا ہوں۔ اگر یہ عورت اپنی فطرت بدل ڈالے۔ زندگی مسکرانے نہ لگے“ بابر نے ملاستی نگاہوں سے برابر میں بیٹھی بیوی کو دیکھا۔ جواب باہر کے نظارے دیکھنے میں محو تھی۔ ڈارک بلیو ساڑی اس کی گوری رنگت پر بہت اٹھ رہی تھی۔

☆.....

”نورین باجی! کیا کیا تیاری ہے۔ شادی میں کتنا کم ٹائم رہ گیا ہے؟“ شازمین نے مسکرا کر بڑی بہن سے پوچھا۔ بھائی کی شادی میں شرکت کرنے مہزین اور شہزین پاکستان آگئیں۔ مہزین کے بچے چھوٹے تھے اس کے میاں نے صاف منع کر دیا تو

وہ دل مسوس کر رہ گئی۔

”کتنا اچھا لگ رہا ہے۔“ نورین نے مسکرا کر کہا اتنے سالوں بعد خاندان میں خوشی کا لمحہ آیا تھا۔ سب رضا کے یہاں شہری ہوئی تھیں۔ آج نورین کے بلانے پر وہاں جمع ہوئیں۔ سب کارپیٹ پر منڈلی جمائے، پاپ کارن اور جوس کے مزے اڑا رہی تھیں۔ ان کا آبائی مکان میں ابھی مرمت کا کام جاری تھا۔

”بھئی بہنوں! یہاں پاکستان میں بھی۔ مت پوچھو کتنی تیاری ہو گئی ہے۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ میں تو کہتی ہوں۔ ہاتھ ہولار کھنے کی ضرورت ہے،“ نورین نے ایک بڑا سا شاپر سامنے رکھتے ہوئے تمہید باندھی۔

”جی باجی! لیکن شادی کی تیاری تو ضروری ہے نا“ ربیعہ نند کی تمہید سے سمجھ گئی دال میں کچھ کالا ہے، جلدی سے ٹانگ اڑائی۔ نورین نے اسے ایک دم گھورا تو وہ دبک گئی۔

”ہاں تو میں کہہ رہی تھی۔ میری شادی کا تو گلابی غرارہ نیا نیا کا رکھا ہے اسی پر ہی نئی میض لگوادیتے ہیں۔“ نورین نے داد طلب نگاہوں سے سب کو دیکھا، ربیعہ کو تو اچھو لگ گیا وہ فوراً نندوں کے بیچ سے اٹھ گئی۔ باقی سب کو سانپ سونگھ گیا۔ ازل جو اد پر صوفے پر بیٹھا تھا، ایک دم ہکا بکا بہنوں کو دیکھنے لگا۔

باجی آپ بالکل نہیں بدلیں“ شازمین نے سر ہلاتے ہوئے بہن کو دیکھا جو سب کے تاثرات سے انجان بڑے جوش و خروش سے وہ شاپر کھولنے میں مصروف تھی۔ جس میں وہ قدیم غرارہ رکھ کر لائی تھی۔ شاپر کا منہ کیا کھلا پورے کمرے میں فتائل کی گولیوں کی مہمک پھیل گئی۔ ازل نے ہونٹ چا کر دوسری بہنوں کی طرف دیکھا۔ مہزین نے آنکھوں ہی آنکھوں میں چھوٹے کوٹسلی دی۔



پر ہوش میں آنا پڑا۔

”ہائے ہائے پھٹ پڑے ایسا سونا جس سے کٹے کان۔ ایسا بھی کیا دنیا دکھاوا کے چند گھنٹوں کی تقریب پر لاکھوں لٹا دیے جائیں“ نورین نے قدم قدم پر بہنوں کو سمجھانا چاہا، مگر۔ اس کی ساری کنجوسی دھری کی دھری رہ گئی۔ باقی بہنوں نے ایسا ایسا کیا کہ اس کی ایک نہ چلنے دی

ولیمہ کے دینو سے لے کر کھانے کے مینو تک۔ مختلف تقریبات کے لیے سجاوٹ، مہمانوں کا استقبال، ان کی خاطر تواضع، دلہن کی جیولری، پارلر غرض کوئی شے ایسی نہ تھی جس پر ان سب نے مل جل کر مشورہ نہ کیا ہو۔ خوب سوچ بچار کے بعد شادی پلان کی گئی۔ ایسی شاندار بری تیار کی گئی جس نے دیکھا دلہا والوں کی چوائس پر عیش عیش کیا۔ نورین البتہ پیسوں کے ضیاع پر ناخوش ہوتی رہی۔ سچ ہے جہاں حد سے بڑھی ہوئی کنجوسی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، وہیں بے جا اسراف بھی مناسب نہیں۔

”بھئی میں تو دعا کرتا ہوں، اللہ ان دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ یہ سدا شاد و آباد رہیں“ رضا نے بہنوں کی لائی ہوئی بیش قیمت ساڑھیوں اور میچنگ جڑاؤ زیورات دیکھنے کے بعد مسکرا کر بھائی کی طرف دیکھ کر دعا دی۔ ساری بہنیں بری کے کپڑوں کی پیکنگ میں لگی ہوئی تھی۔ ربیعہ بھی اپنے پچھلے رویے کی تلانی کے لیے دیور کی شادی کے کاموں کے لیے ایک پاؤں پر ناچ رہی تھی۔ بڑے ہال میں بری کا سامان پھیلا ہوا تھا۔ ان لوگوں کی کچر کچر سے تینوں مرد بیزار ہونے لگے تو اٹھ کر تازہ ہوا میں ٹیرس کی طرف نکل گئے۔

☆.....

”واہ دلہن تو بہت پیاری ہے اور یہاں کی سجاوٹ دیکھو کتنی شاندار ہے“ شہزین بارات کے

”باجی کیا کرتی ہیں۔ امی نہیں رہیں تو کیا ہوا۔ ہم تو زندہ ہیں۔ گھر کی آخری شادی ہے۔ ایک ہی تو بھائی رہ گیا۔ ہم تو چھوٹے کی شادی پر اپنے سارے ارمان پورے کریں گے“ مہزین نے چٹکی سے پرانا غرارہ اٹھا کر سائیڈ میں کیا۔ بہن کی بات پر نورین کا منہ بن گیا۔

”نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ بھیا فضول خرچی کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میں نے تو اپنا عروسی پرس بھی سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ اسی کی میچنگ کا ہے۔ ساتھ لگا دیں گے۔“ نورین کی آخری کوشش بھی با آور ثابت نہیں ہوئی۔ کسی نے دلچسپی نہ لی۔

”سوری باجی! نئی دلہن کے بھی کچھ ارمان ہوتے ہیں۔ مجبوری ہو تو الگ بات ہے۔ مگر جب ازل اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے تو اس کا حق ہے کہ اپنی ہونے والی بیوی کے لیے اچھی سی شاپنگ کرے۔“ مہزین نے اٹل انداز اختیار کیا۔ ساری بہنوں میں وہ تھوڑی گرم مزاج واقع ہوئی تھی۔ اس کے موڈ کا اندازہ کر کے نورین خاموش ہو گئی۔ ربیعہ جو واپس آچکی تھی۔ مسکراہٹ کو زبردستی روکا۔

”تو طے پا گیا بری میں کوئی بھی پرانی چیز نہیں رکھی جائے گی“ شہزین نے ازل کی اتری صورت پر ترس کھاتے ہوئے، مہزین کی بات پر تصدیق کی مہر مثبت کی۔

”بالکل! بہن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو۔ اگر ہمارے سسرال والے بھی ایسا کرتے تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا؟ مہزین نے زور دے کر کہا تو نورین غصے میں کونے میں دھرے فلورکشن پر جا کر بیٹھ گئی۔ بری کی تیاری بڑی زور شور سے کی گئی۔ سب بہنوں نے بھائی کا ساتھ دیا۔ آدھے سے زیادہ خرچہ تو انہوں نے اپنے پرس سے کیا، پھر بھی بہت خوش تھیں۔ اتنا مہنگا عروسی جوڑا لایا گیا۔ نورین کو قیمت سن کر ہی عیش آنے لگا، مگر بابر کے گھورنے



ساتھ بنکوٹ ہال میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں خیراں رہ گئیں، سرگھما گھما کر ہال کا مکمل جائزہ لیا تو بے ساختہ منہ سے تو سبھی کلمات نکل گئے۔

”مگر ہمارا بنکوٹ زیادہ اچھا ہے“ نورین نے منہ چڑھا کر کہا۔ چاروں طرف نظریں گھمائیں ہال کے بیچ میں لگے جھاڑ فائوس سے جیسے روشنی کا سیلاب نکل رہا تھا، جس نے سب کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، وائٹ اور ریڈ کا مینیشن سے در و دیوار کو رونق بخشی گئی تھی۔ جہاں ریڈ کا ریپٹ نہیں تھا وہاں زمین دوز ایکوریز بنے ہوئے تھے، تقریب میں شریک بچے پانی میں تیرتی رنگ برنگی مچھلیوں کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ دلہا دلہن کا اسٹیج پھولوں اور اسپاٹ لائٹس کی روشنی میں بقعہ نور بنا ہوا تھا۔ نکاح کے بعد انہیں ساتھ بٹھایا گیا۔

آئمہ ڈیپ ریڈ شرارے میں ملبوس تھی۔ بالوں کے ماؤنٹین پر سجاوٹ رتار دوپٹے جس کی ماتھاپٹی کو سلور بال سے سجایا گیا تھا، نفیس سا ماڈل میک اپ۔ وہ بڑی انوکھی اپسرا دکھائی دے رہی تھی۔ گرے تھری پیس سوٹ میں ازل بھی بہت اسمارٹ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بیوی کی بلائیں لیے جارہی تھیں۔ نورین نے بھائی کو کڑی نگاہوں سے گھورا۔ ازل بہن کو دیکھ کر ایک دم جھینپ گیا۔

یہ دیکھو سلمیٰ خالہ کہیں نئی بھانج کو میرے خلاف نہ بھردیں۔“ نورین کو خوف ہوا۔

”تو بہ چپک ہی گئیں۔ میں خود ہی اوپر جا کر دیکھتی ہوں۔“ نورین اپنا گلابی شرارہ سنبھالشی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ اس کا لباس دور سے ہی آڈٹ آف ڈیڈ نظر آ رہا تھا، مگر ضد میں پہنا۔

”کیسی لگی چھوٹے کی دلہن۔ سچ جو دیکھ رہا ہے تعریف کر رہا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں چاند سورج کی جوڑی ہے“ نورین نے اسٹیج پر چڑھ کر خالہ کے

سامنے نشی ماری۔

”ماشا اللہ۔ دونوں ساتھ ساتھ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں“ سلمیٰ خالہ نے بردباری سے جواب دیا اور نوید کا لفافہ نورین کے ہاتھ پر رکھا۔

”دلہن کی اماں دکھائی نہیں دے رہیں؟“ سلمیٰ نے چاروں طرف نگاہیں گھما کر دیکھا اور سوال کیا، آئمہ کا چہرہ اتر گیا۔

”ان کا انتقال ہو چکا ہے“ ازل نے بیوی کا ہاتھ تھام کر آرام سے جھوٹ بولا۔ آئمہ اسے دیکھتی رہ گئی۔

☆.....

”آئمہ ایک بات پوچھوں۔ تم نے کبھی اپنی ای کے بارے میں بات نہیں کی“ رات کو ازل نے اس کے برابر میں دراز ہوتے ہوئے پوچھا۔

”وہ..... اصل میں۔“ وہ تھوڑا گھبرائی۔

”اب ہم دونوں ایک ہیں۔ الگ الگ نہیں۔ دکھ اور سکھ بھی جدا نہیں بے دھڑک ہو کر دل کا بوجھ ہلکا کرو“ ازل کی دلاسا دیتی مسکراہٹ پر وہ شروع ہو گئی۔ یہ باتیں اس نے بھی صرف سنی ہوئی تھیں۔

ازل اُس کی تمام باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا مگر دوسرے ہی لمحے اُس نے اپنے بازوؤں کی گرفت آئمہ پر اور تنگ کر دی۔ آئمہ! آج سے تم ان سب باتوں کو بھول جاؤ۔

مجت صرف محبت ہوتی ہے۔ والدین سے محبت فطری بات ہے۔ دعا کرو ہم اپنی اولاد کو ایک بہترین مستقبل دیں۔“

آئمہ کو لگا اُس کی زندگی نے ایک جس کے بعد، محبت کی تازگی کو سانسوں میں اتار لیا ہو۔ اُسے لگا ازل نے اس کے گرد محبت بھرے بازو حما کی ہی نہیں کیے بلکہ ایک نئی زندگی کو بھی دونوں نے اپنے حصار میں قید کر لیا ہو۔

☆.....



# لمحوں نے خطا کی تھی

”مگر میں تمہیں اپنی فیملی سے ملوانا چاہتی ہوں۔“ اریز کا مطلق یک دم ایسے کڑوا ہو گیا جیسے اُس نے کونین کی ڈھیر ساری گولیاں ایک ساتھ چبالی ہوں۔“ اریز میں چاہتی ہوں کہ تم میرے گھر والوں سے مل لو۔“ فروا نے اپنی ہات دہرائی۔ اُسے لگا شاید اریز نے سنا نہیں۔ ”مگر کیوں، کس لیے۔“

اُس دو شیزہ کی کتھا، جس کی ایک لمحے کی خطا نے اُس کی ساری زندگی کو مجسم خطا بنا ڈالا تھا **تیسری کڑی**

نظریں تھم گئیں۔ اُس کی نظریں گیٹ سے شروع ہو کر اوپر اٹھی تھیں۔ اتنی بلند و بانگ، آسمان کو چھوئی عمارت، فروا کی آنکھوں تلے اندھیرا سا چھانے لگا، سر گھوما، نظر جھک کر پیروں سے جا لگی۔ اُس نے اسٹائلس سی انڈے کی شکل کی بیل کو ہلکا سا دبایا، بدھری گنگنا ہٹ گھر کے اندر کسی ریلے سر کی طرح بکھری تھی۔ فروا کا دل عجیب بے گل سا ہو کر دھڑ دھڑ کرنے لگا۔

”واڈ زبردست، ویلکم مجھے یقین نہیں آ رہا۔“ تبھی اریز دروازے میں سے نکلا تھا۔ ”یقین کیوں نہیں آ رہا۔“ فروا نے جذبے لٹاتی نگاہیں اریز کے دل آویز چہرے پر نکا دیں۔ ”بس یار خواب سا لگ رہا ہے سب۔ آؤ اندر آؤ۔“ اُس نے لپک کر فروا کی کلانی تھامی۔ ”یہ خواب نہیں مسٹر، زندہ حقیقت ہے کہ میں تمہارے گھر آئی ہوں۔“ اُس کا دل اب بھی بے ہنگم انداز میں دھڑک دھڑک کر بے حال ہو رہا تھا مگر بظاہر وہ خود کو با اعتماد شو کر رہی تھی۔

”دھیان سے کچھ کھا لینا۔“ ”جی ضرور۔“ فروا کہتی ہوئی باہر نکلی اپنے پرس میں سے چھوٹا شیشہ نکال کر لبوں پر لپ اسٹک لگائی، ہونٹوں کو پھیلا کر آئینے میں دیکھا پھر دوبارہ لپ اسٹک اور شیشہ پرس میں ڈال کر باہر نکلی۔ گھر سے تھوڑے سے فاصلے پر اُسے رکشہ مل گیا۔ اگلے ہی لمحے رکشے اندھا دھند اریز کے گھر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ماڈل ٹاؤن B میں رکشہ رُکا۔ فروا کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اُس نے پرس سے پانچ سو کا نوٹ نکال کر رکشے والے کو تھمایا۔ رکشے والے کے پاس بچا پونے کے لیے نہیں تھا۔ اُس نے اپنی مجبوری بتائی۔ فروا نے سارے رکشے کا عندیہ دیا تو چند ثانیے رکشے والا ٹکر ٹکر اُسے دیکھتا رہا۔ اس قدر مہنگائی میں اتنا دیا لو ہوتا۔ اُسے اس لڑکی کی دعاغی حالت پر شبہ ہوا مگر پھر کندھے اُچکا تاوانت نکوستار رکشے لے بھاگا۔

فروا شاندار بنگلوز کی لائن میں کھڑی نمبر پلیٹ پر نگاہیں گھما رہی تھی پھر ابرار چوہدری پر اُس کی



”ہاں یہ حقیقت ہے مگر کاش مجھے یقین آجائے۔“ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اک ادائے خاص سے ذرا سا جھک کر بولا تو فروا ہنسنے لگی۔

گھر بہت عالیشان تھا فروا نے دل ہی دل میں سراہا مگر گھر میں خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ کسی اور کا وجود اتنے بڑے گھر میں دکھائی نہیں دے رہا تھا یہ خیال اُسے چھو کر بھی گزرا نہیں تھا۔ بس اس بھید بھری خاموشی میں سرخ روش پر فروا کی ہائی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر دیکھتی، یہ عمارت کیسی تمکنت سے سراٹھا کر کھڑی تھی۔ کیا شاہانہ اشائل تھا۔ اریز اپنی سنگت میں اُس کا ہاتھ تھامے سیدھا اپنے بیڈروم میں ہی لے آیا تھا۔ فروا ذرا سی جزبہ ہوئی۔ کسی اجنبی جوان لڑکے کے کمرے میں آنے کا اُس کا پہلا اتفاق تھا۔

”میرے بدن میں ایک چٹکی تو کاٹو فروا رحمان تاکہ مجھے آجائے کہ تم نے سچ بچ میرے غریب خانے کو رونق بخشی ہے۔“ اریز کی نیم وا آنکھوں میں شرارت بھرا تبسم تھا۔

”کاٹونا.....“ وہ بضد تھا۔ فروا نے تنک کر اریز کے بازو میں زور کی چٹکی نہیں، چٹکا کاٹا۔ اب اُس نے داویلا مچانا شروع کر دیا۔ چٹکی والی جگہ کو مسلسل مسل رہا تھا۔

”آیا یقین۔“ فروا شرارتی مسکان لبوں پر سجا کر استہزائیہ لہجے میں بولی تو وہ پیار بھری خفگی سے اُسے گھورتا، فروا کی ناک کھینچ کر کمرے سے نکل گیا۔ فروا اُس کی بے تکلفی پر غور کرنے لگی، کیسے لمحوں میں بے تکلف ہو گیا تھا۔

اریز کا بیڈروم خصوصی توجہ مانگتا تھا اور فروا اریز کے باہر نکلتے ہی پورے انہماک و دلچسپی سے بیڈروم کا جائزہ لینے لگی، بیڈ کی سجاوٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ قیمتی فرنیچر، نمائیس صوفے، دبیز ریشمی پردے

خوبصورت اور پُر آسائش کمرہ، خواب ناک ماحول، بیڈروم کی ہر چیز توجہ کھینچ رہی تھی۔ فروا مسحور و مبہوت سی دیکھے جا رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں کسی غیر ملکی ایئر فریشنر کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دلفریب سی خوشبو فروا کے حواسوں پر چھاتی جا رہی تھی۔

”کیا میں مرعوب ہو رہی ہوں۔“ فروا نے خود سے سوال کیا۔ اُس کے بیڈروم میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی مگر یہ سچ تھا کہ اریز چوہدری کے بیڈروم کی ہر چیز سے امارت ٹپکتی تھی۔ ہر چیز اپنی قیمت خود بتا کر اپنی مانگ میں اضافہ کر رہی تھی۔

تبھی اریز ہاتھ سے ٹرالی دھکیلتا اندر آیا، ہلکے سے کھٹکے پر فروا چونکی۔

”ارے میں کوئی مہمان تھوڑی ہوں جو تم نے اتنا انتظام کر لیا۔“ فروا نے کوس کے ساتھ طرح طرح کے بسکٹس، نمکو، مٹھائی اور پزے کی طرف اشارہ کیا۔

”یہ تو ہلکا پھلکا سا ابتدا سیہ ہے جان من، تم مت بھولو کہ ہمیں لیچ اکٹھے کرنا ہے۔“ وہ اک ادائے دلبری سے بولا تو فروا نے مسکرا کر سر اثبات میں ہلا دیا۔

”اگر تم آج بھی نہیں آتیں تو میں نے پھر تم سے روٹھ جانا تھا۔“ اریز نے بوتل میں اسٹرا ڈال کر فروا کو بوتل تھمائی اور پھر اپنی بوتل کھولنے لگا۔

”میں منالیتی۔“ فروا ناز بھرے انداز میں اتر کر بولی۔

”منانے سے بھی نہیں ماننا تھا میں نے۔“ اریز نے کہا تو فروا نے اُسے گھورا۔

”اچھا جی۔“

”ہاں جی۔“ اریز نے اُسی کے اشائل میں کہا۔

”پھر میں تمہیں چھوڑ دیتی کھروس، پلٹ کر بھی نہیں دیکھتی۔“

”پھر میں ہجر کے الاؤ میں دہک دہک کر انکارہ



بن کر بھسم ہو کر ختم ہو جاتا۔“ اریز کی بات پر فروا کی آنکھیں پانیوں سے دھندلا کر ڈبڈبانے لگیں۔  
”کیا ہوا جان۔“ اریز نے فروا کو کندھوں سے پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور دونوں باہم پیوست ہو گئے تھے۔

کچھ لمحے یونہی بے خودی کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیتے چلتے چلے گئے۔ پُر جوش اور مگن، پھر فردا چونک کر الگ ہوئی تھی۔ مگر اریز کے بازوؤں کے حصار میں جکڑی ہوئی تھی۔ اتنی آسانی سے علیحدہ کیسے ہوتی۔ بس یہ تھا کہ وہ خفت زدہ سی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اریز کی پُر شوق نظریں اُس کے چہرے سے نیچے یہاں وہاں بھٹک رہی تھیں۔ اُس کی گرم سانسیں فروا کے بدن کھلسا رہی تھیں۔

”پلیز پلیز.....“ فروا کا لہجہ ممتحنی ہوا۔ پلکوں کی تتلیاں اُس کے عارضوں پر لرز رہی تھیں اور دل کی دھڑکنوں نے جیسے دوڑ لگا رکھی تھی اور اریز اُس کی سراسیمہ کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔

”پلیز چھوڑ داریز.....“ اب کی بار اُس نے قدرے برہمی سے کہا، اریز کی بانہوں کا حلقہ ڈھیلا پڑ گیا۔

میرے لیے تو زمین پر بس اک ذات ہے تُو  
اسی لیے تو میری پوری کائنات ہے تُو  
”یہ شعر میرے جذبات کا ترجمان ہے فروا۔“  
وہ والہانہ پن سے بولا۔ فروا اتنا شیریں لب و لہجہ سن کر کچھ نرم پڑ گئی۔ اندر کہیں دور شرمندگی نے سراٹھایا تھا مگر اریز چوہدری کے محبت سے بوجھل اقرار نے شرمندگی کا سر پھیل ڈالا۔

”فروا میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔“ اریز اک جذب سے آنکھیں موند کر بولا۔ یہ بھی اک ادا ٹھہری۔ فروا کا دل پکھلنے لگا۔ برہمی ہوا میں تحلیل ہونے لگی۔

”یہ خوبصورت بل، یہ تنہائی، نزدیکی کا ش لے

امر ہو جائیں۔ دقت تھم جائے۔ کبھی نہ گزر رہنے پائے۔ محبت کی شمع فروزاں رہے۔“ اریز نے دارگی سے فروا کو تکتے ہوئے دعا کی۔ ”کاش ہماری محبت، ملن بن کر ہمیشہ سلامت رہے۔“ اریز نے پھر کہا۔

”محبت پیاسی ہوتی ہے فروا اور اسے ہر وقت دیدار کی خواہاں رہتی ہے۔“

فروا بس اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑے جا رہی تھی۔ اُس کے کنارے بدن نے آج محبوب کے لمس کا ذائقہ چکھا تھا۔ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اُس سے کچھ بولنا تو درکنار، نظریں بھی نہیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ اُس کا تن بدن دھیمی سی آنچ میں سلگ رہا تھا۔ اُس کا اس سے وہی حال تھا کہ عشق مہنگا پڑے۔ پھر بھی سودا کرے۔ سود دزیاں سے بالاتر سودا۔

”مجھے جانا چاہیے۔“ فروا نے کہا۔ نجانے کیوں اُس کا دل چاہ رہا تھا۔ فوراً یہاں سے چلی جائے۔ دل باغی ہو کر بغاوتوں پر اُکسا رہا تھا۔ دل اریز کے سینے میں گم ہو جانے کے لیے چل رہا تھا۔ مگر وہ خسارے چاہ کر بھی نہیں خرید سکتی تھی۔

”میم آپ بھول رہی ہو کہ میں نے آپ کو لچ برانوائٹ کیا ہے۔“ اریز نے جتلا یا۔ اُس کی نگاہیں مسلسل فروا کے سراپے میں اُلجھی ہوئی تھیں۔

”پھر کبھی سہی، ابھی مجھے گھر جانا ہے۔“ اریز نے اُس کے گال کو اپنی اُنگلی کی پور سے چھوا اور پھر شہادت کی اُنگلی گال سے گردن پر رینگنے لگی فروا بدک کر پیچھے ہٹی۔

”کیا کرتے ہو اریز، ڈنٹ ٹیج می۔“ فروا محبت کے اسرار درموز سے نابلد سہی مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ اریز کا بار بار فردا کے قریب آنا اُن دونوں کے لیے قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔

”کیا ہو گیا ہے فروا، اتنی برہمی کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہو، دقیانوسی لڑکیوں کی طرح۔“



دن کے اس پہر میں جا دو تھا۔ وہ اس سے فروا کی ہمراہی کا طلب گار تھا تو وہ کیوں اتنی اجنبیت اور روکھے پن کا مظاہرہ کر رہی تھی، کیوں گریز پائی کرتی رہی تھی۔ اگر محبت کرتی تھی تو پھر ہاتھ کیوں کھینچ رہی تھی۔

”کیا وہ حقیقتاً محبت تھی جس سے وہ ہاتھ کھینچ رہی تھی۔ یا کوئی ایسی کشش جس کے بہاؤ میں بہہ کر لڑکیاں اپنا گوہر آبدار گنوا بیٹھتی تھیں اور خطا کار بھی وہی ٹھہرتی ہیں، مرد سدا کا پارسا۔“

”کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتیں۔“ اریز تھیرو تاسف میں گھر سوال کرنے لگا۔

”تمہیں کیا لگتا ہے۔“ فروا تک کر بولی۔

”اس وقت صرف یہ لگ رہا ہے کہ محبت کے راستے کا میں اکیلا مسافر ہوں۔“ وہ نروٹھے پن سے بولا۔

”اریز اس وقت ہم دونوں جذباتی کشمکش کا شکار ہیں۔ تم مجھے بار بار اپنے قریب مت کرو، میں تمہاری قربت کے طلسم میں قید ہو کر کمزور نہیں پڑنا چاہتی۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈر اسٹینڈ۔“ فروا رونے والی ہو رہی تھی۔

”تم مجھ سے ڈر رہی ہو کیا۔“ وہ مسکرایا اور پھر ملائمت سے فروا کا گال چھوا۔

”تمہیں ڈر لگ رہا ہے۔ خوفزدہ ہو، مجھ پر بھروسہ نہیں نا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچنے دوں گا۔“ مدہم لہجے میں کی گئی بات میں اثر ہونا چاہیے تھا، دل جیت لینے والا انداز تھا۔ وہ بس چپ چاپ دیکھے گئی۔ مگر بولی کچھ نہیں۔

”تمہاری جان اور عزت کی حفاظت کرنا میرے فرائض میں شامل ہے نگلی! کیونکہ تم میری جان ہی نہیں عزت بھی ہو، تمہیں محفوظ رکھنا، تمہاری حفاظت کرنا میری ذمے داری ہے۔“ اریز کا انداز بہت تحفظ دلانے والا تھا، بہت مختلف اپنائیت بھرا،

فروا کو اچھا لگا خوف کا اثر زائل ہوئے لگا۔

”بہت افسوس کی بات ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں نقب زنی کروں گا اور وہ بھی اپنے ہی کمر میں..... تم میری ہو اور اپنوں کی حفاظت کی جاتی ہے ڈفر، اُن کو لوٹنا نہیں جاتا۔“ فروا نے دیکھا وہ مسلسل فروا کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ اُسے سطر سطر پڑھ رہا تھا۔

”سوری اریز.....“ اب اریز کی اتنی لمبی چوڑی وضاحتیں پا کر وہ شرمندہ ہو رہی تھیں۔

”تم پر میرا اور مجھ پر تمہارا مکمل حق اور اختیار ہے، مگر اے دل سے تمام خوف و سوت اکھاڑ پھینکو۔ میں نفس کا اتنا برا نہیں ہوں اور نہ ہی میرا کریکٹر لوز ہے۔“ اریز نے خفگی بھری نگاہ کی۔

”اچھا معاف کر دو۔“ فروا نے ہاتھ جوڑ دیے۔

”اچھا یہ بتاؤ گھر میں اتنا سناٹا کیوں ہے، باقی لوگ کہاں ہیں۔“ جو بات اُس احمق لڑکی کو سب سے پہلے پوچھنی چاہیے تھی۔ وہ اب پوچھ رہی تھی۔ اُسے ایسا کوئی خیال آیا ہی نہیں تھا کہ وہ دونوں اتنے بڑے گھر میں اکیلے ہیں۔

”ڈیڈی سنگاپور میں ہوتے ہیں وہاں اُن کا بزنس ہے، ایک بہن اور بھائی لندن پڑھنے گئے ہوئے ہیں۔ اور می آج کراچی گئی ہوئی ہیں ماموں کے پاس۔“

”اوہ اچھا.....“

”پھر بے اعتباری.....“ اریز نے محبت پاش نظروں سے گھورا۔

”ارے نہیں نہیں۔ اچھا یا رکھنا کھلا دتا کہ میں جانے والی بنوں، پانچ بجے سے پہلے میں پارلر سے گھر پہنچ جاتی ہوں۔“

”ابھی تو صرف تین بجے ہیں یار، اور تم یہ کیا مڈل کلاس لڑکیوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو، آج کل کون اپنی اولاد سے پوچھتا ہے۔ کہاں گئے کیوں



گئے کب آئے کب گئے۔“

”ہم لوگ اتنے بھی آزاد خیال نہیں ہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ ٹھیک ہے بابا نے کبھی ہم پر بے جا پابندیاں نہیں عائد کر رکھیں مگر شتر بے مہار بھی نہیں چھوڑ رکھا مسٹر۔“ اریز نے ہوم ڈیوری کے لیے شہر کے مشہور ہوٹل فون کیا۔ دونوں نے اکٹھے کھانا کھایا۔ وہ اپنی گاڑی میں فردا کو بٹھا کر پارلر کے سامنے چھوڑنے آیا۔

”سنو میں ہر بات برداشت کر سکتا ہے مگر تمہاری بے اعتنائی اور بے اعتباری نہیں، دھیان رکھنا۔“ اریز کی بات پر فردا نے اثبات میں سر ہلایا اور بائے کہہ کر چلی گئی۔

☆.....☆.....☆

اخبار میں چھپی صبا زمان کی تصویر نے رحمان اور عائشہ کو کیسی جلن کر دھن میں مبتلا کیا تھا۔ یہ کوئی بتانے والی بات تو تھی نہیں۔ دونوں میاں بیوی کے اندر تک سناٹوں کے ساتھ کوئی اور چیز بھی بے حد برق رفتاری سے پھیلی تھی، دکھ، حسد، شاک..... ہاں احتشام اور عروہ کو اندر سے بہت خوشی ہوئی تھی کہ اُن کی کزن ہے وہ لڑکی جس کی پورے شہر میں واہ واہ ہو رہی تھی اور ریان ابھی ایسی چیزوں سے واقف نہیں تھا اور فروا کی تو آج کل پوری توجہ اریز چوہدری نے سمیٹ رکھی تھی۔ اُس کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے؟ کون خوش ہے؟ کون آزرده؟ فروا رحمان کو کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ محبت کرنے والی اور خیال رکھنے والی بہن یا بیٹی تو کبھی بھی نہیں تھی مگر آج کل تو عجیب خود فراموشی کا عالم تھا۔

آج فرقان کی فیملی رحمان کے گھر مدعو تھی۔ یہ کھانا تو بقول رحمان فرقان کے مل بیٹھنے کا بہانہ تھا، گپ شپ لگائی جاتی، بچے بھی آپس میں وقت گزار لیتے۔ مگر آج صبا زمان کا موضوع ناچاہتے بھی ان دو گھروں کے مکینوں کی نوکِ زباں پر ٹھہرا رہا۔

”کیا پتا یہ وہ والی صبا زمان نہ ہو، کوئی اور ہو۔“

فرقان نے کہا تو عائشہ اور رحمان کا دل بیک وقت دھڑکا اور شدت سے یہ خواہش دل میں اُبھری۔

’کاش یہ کوئی اور صبا ہو، مگر ضروری تو نہیں کہ انسان جو خواہش کرے وہ پوری بھی ہو اور ہر بار ہو۔ لہٰذا حقیقت سے آگاہ تھی مگر اُسے تصدیق کے لیے تائید کرنا مہنگا پڑ سکتا تھا۔ اس لیے اُس نے سختی سے اپنے ہونٹ بھیج رکھے تھے مگر دل..... سرتاپا بھرتا جا رہا تھا طمانیت سے احساسِ تفاخر سے۔

”یہ وہی والی صبا ہے، دیکھ رکھا ہے میں نے اس کلمو ہی کو۔“ عائشہ نے حقارت سے کہا۔ رحمان کو سانپ سونگھ گیا اور وہ غصے سے دانت پینے لگا اور پھر اپنی پاکٹ سے سیل فون نکال کر کوئی نمبر ملانے لگا مگر کال آگے سے اٹھائی نہیں گئی تھی۔

”سو یا مرا پڑا ہوگا اندھا کہیں کا.....“ رحمان نے نخوت و شرف سے دوبارہ نمبر ملاتے ہوئے کہا۔ فرقان نے بے ساختہ بچوں سے نظریں چرائی تھیں اپنے بڑے بھائی کے لیے رحمان کے ایسے الفاظ فرقان کو پسند نہیں آئے تھے۔ لہٰذا نے بھی بے ساختہ اپنا ہاتھ لبوں پر رکھا تھا۔ رحمان گھمنڈی تھا مگر فاخرہ سے نفرت کرتا تھا۔

”سلام بھائی۔“ کال ملنے پر رحمان نے لٹھ مار انداز میں کہا۔ آگے سے زمان کیا بولا۔ پتا نہیں تھا۔

”ایک بات پوچھنی ہے۔ یہ جو صبا زمان لڑکی ہے، جس نے بورڈ میں پوزیشن لی ہے.....“ مگر نجانے آگے سے ایسا کیا کہا گیا تھا کہ رحمان نے کال کاٹ دی اب وہ اضطرابی انداز میں اپنی پیشانی مسل رہا تھا سب کی نظریں رحمان پر تھیں۔

”رحمان کیا ہوا۔“ بالآخر فرقان نے ہی خاموشی کے دورانیے کو کم کیا۔

”خوشی سے پاگل ہو گیا ہے۔ مجھے مبارکباد دے رہا تھا وہ اندھا۔“ وہ نفرت میں اس قدر ڈوب



تعریف کرے وہ کہاں برداست کر سکتی تھی۔

”تم کچھ بھی کہو فرقان مگر مجھے بے حد دکھ ہوا ہے کہ میرا بیٹا مل اسٹینڈرڈز میں بری طرح ناکام ہو گیا اور اس حرافہ کی بیٹی.....“ اصل بات ہونٹوں پر آ ہی گئی تھی اور رحمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فاخرہ اور اس کی بیٹی کا منہ نوچ لے، یا ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر زمین کا رزق بنا ڈالے۔ فرقان نے مزید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ لبتی نے آنکھ کے اشارے سے اسے روک دیا کیونکہ رحمان سے اس وقت کوئی بھی بات کرنا مناسب نہیں تھا۔

رحمان اذیت دے کسی کے عالم میں ڈانگ روم سے نکل کر ٹی وی لاونج میں چکر کاٹنے لگا۔ اس کی زبان زہر اگلتی رہی، سب سنتے رہے کبھی کبھی عائشہ بھی جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے لگتی۔

جب ماں باپ اپنے خون کے رشتوں کے لیے ایسے جذبات رکھتے ہوں اور ان کا بے لاگ اور بے دھڑک اظہار بھی کرتے ہوں۔ اپنے بڑوں کی عزت نہ کریں۔ چھوٹوں پر رحم نہ کریں۔ کسی بہت اپنے کے کردار کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں اور انتہائی بے حسی اور خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے بھائی کو اندھا کہیں، بے دریغ کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالیں۔ صرف اپنی ذات کی تسکین کے لیے، ایسے بات کریں جیسے خود بہت برگزیدہ اور نیکو کار ہوں، ذرا سوچے وہاں بچوں کی کیسی تربیت ہوگی؟ وہ کہاں انسانیت سے محبت کرنا سیکھیں گے، جب بے حسی و خود غرضی ہی ورثے میں ملی ہو۔

مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ رحمان اور عائشہ کے اندر پلٹی کدورت اور کینہ و بغض ان کی اولاد کے اندر سرایت نہیں کر پایا تھا۔ دونوں گھروں کے بچے تباہ زمان، فاخرہ اور ان کے بچوں سے ملنے کا شوق دل میں رکھتے تھے، بھلے دبا دبا ہی تھی۔

☆.....☆.....☆

چکا تھا کہ سب تمیز و تہذیب بھول چکا تھا۔ اس سے رحمان کا دل آگ میں جل رہا تھا۔

”ارے واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔“ فرقان نے متبسم لہجے میں کہا، جہاں لبتی نے تھیر بھری مسرت سے فرقان کو دیکھا وہیں رحمان نے انتہائی اشتعال سے قہر و غضب سے دکھتی نگاہ اس پر ڈالی۔

”کیا اچھی بات ہے۔“ رحمان تڑپ کر بولا۔ اس سے وہ کسی ان دیکھی تپش میں سلگ رہا تھا۔ نفرت کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے اور رحمان کتنے سالوں سے پوری و جمعی کے ساتھ یہ مشکل اور کٹھن کام کر رہا تھا اور کیے جا رہا تھا۔ تھک ہی نہیں رہا تھا۔

”یار وہ ہماری بہتی ہے۔ ہمارے بھائی کی بیٹی ہے۔ ہمارے خاندان کا حصہ ہے جس سے انکار کسی طور ممکن نہیں ہے۔“ یہ فرقان تھا جو صرف فاخرہ کو تو ضرور برا سمجھتا تھا اور رحمان کا ہم نوا اور ہم خیال بن جاتا تھا۔ مگر صرف فاخرہ کے لیے۔

”مت بھولو کہ وہ فاخرہ کی بیٹی ہے جس کا ہماری بھالی ہونا ہمارے لیے ہمیشہ تذلیل کا باعث بنا ہے۔ کیسے کیسے شرمندہ نہیں ہوئے ہم۔“ وہ نجانے کیا جتلا ناچا رہا تھا۔

”یار رحمان ماضی کی راکھ کریدنے سے بھلا کیا حاصل ہوگا۔ اٹا ہاتھ کی پوریں ہی جھلس جاتی ہیں۔ مجھے تو بہر حال بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی بچی اتنی قابل نکلی ہے۔ فاخرہ ہمارے خاندان کی پہلی لڑکی تھی، جس نے ہمیشہ بورڈ میں پوزیشن لی۔ اسکا لرشپ لینے کا اعزاز بھی اسے ہی حاصل ہے۔“ فرقان روانی میں کہتا ہی چلا گیا۔

”ہاں ہاں ایسی نوکھی اور جان لیوا حرکتیں کرنے والی بھی تو فاخرہ ہی خاندان کی پہلی لڑکی تھی۔“ عائشہ نے زہر میں بجھا ہوا ایسا طنز کیا جس میں تنفر کی آمیزش بھی شامل تھی۔ فاخرہ کی کوئی



”بھوک سے میری جان نکلی جا رہی ہے لبتی، پے در پے خدمات نے جیسے ادھ مو ابھی تو کر ڈالا ہے۔ مانو بھوک پیاس ہی مٹ گئی۔“ عائشہ شاید ابھی ابھی سوکرائی تھی اور لبتی کے گھر کا رخ کیا تھا۔

”آپ کیا کھا میں گی۔“ لبتی نے عائشہ کے اجڑے بکھرے حلیے سے نظریں ہٹائیں۔

”تم چائے بناؤ، میں فرنیج میں بریڈ وغیرہ دیکھتی ہوں۔“ عائشہ نے فرنیج کھولا، بریڈ کا پیکٹ رکھا تھا۔ وہ بریڈ کا پیکٹ اور دو انڈے ہاتھ میں پکڑے لبتی کے قریب آئی۔ لبتی اکثر عائشہ بھابی کی دیدہ دلیری پر ششدر رہ جاتی تھی۔ اُن کو عادت تھی خواجواہ کی اجارہ داری قائم کرنے کی۔ گھر بھلے کسی کا بھی ہو۔ یوں کسی کے گھر آ کر دندناتے پھرنا یا اپنی من مانیوں کرنا کم از کم لبتی کی سرشت میں شامل نہیں تھا۔ رکھ رکھاؤ والی خاتون تھی۔ گھر سے کم کم نکلتی تھی۔ بلا ضرورت کسی کے حتیٰ کے عائشہ کے گھر بھی نہیں جاتی تھی۔

”ہا..... ہائے تمہارے برتن ابھی تک دھونے والے پڑے ہیں۔“ عائشہ بھی لبتی کے پیچھے ہی کچن میں آن گھسی تھی اور سنک میں دھرے برتن دیکھ کر یوں ناک بھوں چڑھانے لگی جیسے خود سارا گھر سمیٹ ساٹ کر آئی ہو۔

”بھابی آپ کمرے میں جا کر بیٹھیں میں آتی ہوں لے کر۔“ لبتی بد زبان نہیں تھی، لحاظ مردت بھی بہت تھا اسی لیے غصے کو ضبط کر کے نہایت شائستگی سے کہا۔

”ارے اسی لیے تو کہتی ہوں کہ کوئی کام والی رکھ لو، اب اتنا سا تو تم انورڈ کر ہی سکتی ہو۔“ عائشہ نے شاید اپنے تئیں جتلیا تھا کہ تمہاری مالی حیثیت مجھ سے کم سہی مگر پھر بھی اتنی تو ہے کہ برتن دھونے والی رکھ سکو۔

”بھابی یہ برتن ابھی ابھی گندے ہوئے ہیں

کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بچے ناشتا کر کے فارغ ہوئے ہیں میں دھونے لگی تھی کہ آپ آ گئیں۔ اس لیے وہیں چھوڑ دیے۔“ لبتی نے ناچاہتے ہوئے بھی وضاحت دے ڈالی۔ عائشہ پورے محلے کی ذاتیات میں دخل در معقولات اپنا اولین فریضہ سمجھتی تھی۔ زبردستی دوسروں کے اعصاب پر بھاری سل کی مانند مسلط رہتی تھی۔ محلے والیاں اگر سامنے لحاظ بھی کر جاتی تھیں تو پھر پیٹھ پیچھے عائشہ کی ٹوہ میں رہنے کی عادت پر اختلاف کرتی تھیں اور دوسروں کے معاملات میں زبردستی گھسنے والی عادت سے بھی خائف ہی نہیں بیزار بھی تھیں۔

”لبتی میرا تو دم گھٹ رہا ہے، مجھے کمرے میں ہی چلنا چاہیے۔“ عائشہ نے کچن سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ تو مارے ضبط کے لبتی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ عائشہ بھابی کی بلاوجہ کی تنقید پر کلس کر رہ گئی مگر وہ عائشہ بھابی کی حاکمانہ طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ عائشہ جیسے نافہم لوگ انتہائی بے دید اور ناقص العقل ہوتے ہیں جو تیرے میرے گھر کی خبر تو رکھتے ہیں۔ مگر اپنے گھر کی دیکھ بھال بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینا بھول جاتے ہیں۔ لبتی بس چپ سا دھ لیتی تھی دو بدو جواب دینا اُسے بھی آتا تھا مگر کسی ممکنہ بد مزگی کے خوف کے زیر اثر وہ رواداری اور بڑے پن کا مظاہرہ کرتی اور اپنی ناگواری کمال مہارت سے چھپا جاتی۔

”یہ لیں بھابی.....“ لبتی ذرا سی دیر بعد ٹرے میں چائے بریڈ اور ہاف بوائل انڈے لیے حاضر تھی۔

”بہت شکریہ۔“

”ارے بھابی آپ کا اپنا گھر ہے۔“ لبتی خوش دلی سے اخلاق کا دامن پکڑے ہوئے کہنے لگی۔ لبتی اُن کے پاس بیٹھ کر کریلے چھیلنے لگی۔ عائشہ بھابی ادھر ادھر کی لائین باتیں کیے جا رہی تھیں۔ لبتی بے



دلی اور بے توجہی سے سنتی رہی بے تکی بے سرو پا گفتگو منفی سوچ بے مقصد باتیں، لبتی ہوں ہاں کرتی رہی۔ ہاں اتنا دہ جانتی تھی کہ وقت اب جلدی نہیں گزرنے والا۔ عائشہ اب صبا کا ذکر لے بیٹھی تھی۔ فاخرہ کی برائیاں، صبا کی اُٹھتی جوانی کے بارے ناگوار جملے لبتی کو بہت بھاری اور گراں گزر رہے تھے عائشہ کا دھواں دھواں چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ صبا کی شاندار کامیابی نے کیسے اُس کے دل کو جلا کر خاکستر کر ڈالا تھا۔ کیسے بھوک اڑا کر رکھ دی تھی۔

”بھابی اب آپ لوگوں نے احتشام کا کیا سوچا ہے۔“ لبتی نے سمجھداری سے موضوع بدل دیا تھا۔ ”بس کرنا کیا ہے۔ دوبارہ امتحان دے گا، اب کے اُس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سخت محنت کرے گا۔ رحمان سے اُس نے معافی بھی مانگ لی ہے۔“

”ہاں بس اللہ ہمارے بچوں کو محنت بلکہ سخت محنت کرنے کی توفیق دے۔“

”ہاں احتشام پڑھ لکھ جائے تو اچھی بات ورنہ تو اپنے باپ کا کام ہی سنبھالنا ہے نا، کون سا نوکری کرتی ہے اُس نے۔“ لبتی عائشہ بھابی کا تعلیم کے بارے میں خیال سن کر دنگ رہ گئی یعنی کہ لا پرواہی کی کوئی حد بھی بھلا۔ وہ اپنی اولاد کے مستقبل کی پلاننگ کیے بیٹھی تھیں۔

عائشہ بھابی نے کھاپی کہ برتن برے کھسکائے اور نہایت پراسرار انداز میں کھسک کر لبتی کے بالکل پاس ہوئی انداز سرگوشانہ اور قدرے رازدارانہ تھا۔

”الہی خیر.....“ لبتی نے کوفت سے عائشہ بھابی کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیا۔

”پتا ہے کل کیا ہوا؟“ عائشہ نے اپنی گول گول آنکھیں شاطرانہ انداز میں گھمائیں۔

”نہیں تو.....“ لبتی نے بمشکل کہا۔ ایسی کون سی افتاد آن پڑی جو عائشہ بھابی کان میں گھس رہی تھیں۔

”سلمیٰ کی بہو کل کہیں بھاگ گئی ہے اور جاتے ہوئے اپنے دونچے بھی ساتھ لے گئی۔“

”یہ کیا کہہ رہی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو اپنے گھر کی پریشانی (احتشام کا فیل ہونا) میں تھیں۔ کس نے بتایا۔“ لبتی کی ایک ایک کر کے تمام حیات بیدار ہوئی تھیں کیونکہ وہ سلمیٰ خالہ کی بہو جو یہ کو اچھی طرح جانتی تھی۔ کسی اسکول میں پڑھانی تھی۔ اچھی ملنسار خاتون تھی۔

”مجھے بس سن گن مل ہی جاتی ہے، جاؤں گی میں سلمیٰ آپا کی طرف، اتنا بڑا صدمہ ہے اور کیسی بدنای اور جگ ہنسائی ہوگی، دو بچوں کی ماں اپنے آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔“ عائشہ بھابی نے قہقہہ لگایا۔ یہ کوئی ہنسنے، مسخکھ اڑانے والی بات تھی کیا۔

”پلیز بھابی کسی پر بہتان باندھنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہر بات کا تاریک پہلو مت دیکھا کریں، بات کوئی اور بھی ہو سکتی ہے۔ جو یہ میری کلاس فیلو رہی ہے۔ میٹرک کے بعد ہم نے اکٹھے پی ٹی سی کی تھی اور پھر اکٹھے ہماری نوکریاں بھی لگی تھیں۔“ لبتی کو بہت کچھ یاد آیا تھا۔

”ارے وہ تمہاری سہیلی نکلی تو بی بی اب تم بھی خاطر جمع رکھو تم سے بھی تفتیش ہو سکتی ہے۔“ عائشہ نے بات کو قطعی دوسرا ہی رخ دے ڈالا۔ لبتی نے ایک شکوہ کناں نظر اُس پر ڈالی۔

”لو بھلا ایسے کیا دیکھ رہی ہو، سچ تو کہہ رہی ہوں۔ ویسے وہ گئی کہاں اُستانی صاحبہ۔“ دوسروں کی ذات کے نیچے ادھیڑنے میں وہ باہر تھیں۔ اب ایک نئی بات اُس کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ کچھ دن تو اچھے گزر جاتے۔ لبتی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ باتیں عائشہ کر رہی تھیں ندامت و پشیمانی لبتی کو ہورہی تھی۔ خدا کا خوف لبتی کے دل کو لرزار ہا تھا یوں کسی بے بنیاد بات پر اُنکی اٹھانا نہایت قبیح عمل



مانگتی رہی۔ اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کرتی رہی۔

☆.....☆.....☆

خالہ اماں کو اکثر ہی بخار رہنے لگا تھا۔ وہ زمان کے پاس لیٹی رہتی، فاخرہ بساط بھراُس کا خیال رکھتی صبا اور فضا کو بھی اصرار کر کے اُن کی دادی کے پاس بھجواتی، وہ دونوں ناچاہتے ہوئے بھی اُن کے پاس چلی جاتی تھیں۔ اُن کو دباتی تھیں مگر باوجود کوشش کے بھی وہ اپنی دادی سے محبت جتا نہیں پاتی تھیں۔ بس اُن کی ہر بات کے جواب میں ہوں ہاں کرتی رہتی تھیں۔

”بیٹا اپنی دادی کے لیے دودھ والا ولیہ بنا دو، میں اُن کے کپڑے دھو دوں۔“ فاخرہ نے کہا۔

”آپ اُن کو اُن کے حال پر چھوڑ دیں ماما، پروا نہ کریں، جیسے انہوں نے ساری زندگی آپ کی پروا نہیں کی۔ آپ کی ذات پر ستم کے ہنر آزمانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔“ صبا غصے سے منہ پھلا کر بولی۔

”نہیں بیٹا ایسا نہیں کہتے، وہ جتنی بھی سفاکی اور ظلم کا مظاہرہ کرتی رہیں مگر وہ بزرگ ہیں، بڑی ہیں اور پھر بیمار بھی۔ اُن کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔“ فاخرہ نے اُسے سمجھایا۔

”ماما آپ کے صبر کی کوئی حد بھی ہے بھلا، کسی کو مصلوب کر کے غمگین رکھنا مضحکہ و آزرہ کرنا ظلم و بربریت کی انتہا کر دینا اور آپ ہیں کہ تھکتی نہیں ورنہ سہہ سہہ کر۔“ صبا کا منناک لہجہ فاخرہ کا کلیجہ شق کر گیا۔ اُس نے تھرا کر صبا کو دیکھا اور اُسے سینے سے لگا لیا۔

”طاقت رکھتے ہوئے بھی درگزر سے کام لینا ہی کسی انسان کو انسانیت کے درجے پر فائز کرتا ہے ورنہ تو اس وقت کسی کو یہ کہنا کہ ہم نے معاف کیا۔ جب ہم انتقام لینے کی استعداد و ہمت ہی نہیں رکھتے کوئی معنی نہیں رکھتا۔“ فاخرہ بے اختیار سسکنے لگی۔

ہے۔ خدا تو دوسروں کے عیبوں پر پروہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ جب ہم بغیر ثبوت کسی پر الزام تراشی کر سکتے ہیں تو اتنا ظرف کہاں کہ دوسروں کے گناہوں کو دلوں میں چھپا سکیں۔

”اچھا بھابی آپ بیٹھیں میں کھانا بنا لوں۔“ لبتی نے اپنے سامنے رکھی کریلوں، پیاز، ٹماٹر کی ٹوکریاں اٹھا میں اور اٹھ گئی۔

”میں بھی چلتی ہوں، شام کو سلمیٰ کے گھر کا چکر لگاؤں گی۔ ساری بات پتا لگا کر آؤں گی۔“ عائشہ جانے کے لیے اٹھی تو لبتی کا بھی روکنے کو دل نہیں چاہا۔ لبتی تاسف اور آرزوگی میں گھر کرا سے جاتا دیکھتی رہی۔

لبتی بہت اچھی طرح سے عائشہ کی فطرت کو جانتی تھی۔ دوسروں کی ٹوہ میں رہنا دوسروں کے گھروں میں جھانگنا کسی کی ذرا سی کمزوری ہاتھ کیا آتی۔ اُس کے کردار میں وہ اتنے جھول اور خامیاں نکال لیتی کہ اُف تو یہ۔

نجانے اُن کی شخصیت میں کیا اُوھورا پن تھا، کیا تشنگی تھی جو وہ ایسی نازیبا و اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کر کے اپنی ذات کی تکمیل کرتی تھی یا خود کو تسکین دینے کے لیے حربے آزما تی تھی۔

فطرت کبھی نہیں بدلتی بدنیت بد فطرت۔ وہ لوگ میاں بیوی بن کر ایک گھر میں کیسی زندگی گزار رہے تھے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں جیسا رحمان ویسی عائشہ۔ جو اچھا سوچتا نہیں وہ اچھا کر بھی کیسے سکتا ہے۔ ایسے دلوں پر کٹھور پن اور سنگدلی کی مہریں لگی ہوئی ہیں۔ ایسے لوگوں پر اچھا برتاؤ، اعلیٰ رویہ بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔

اتنا سارا وقت بے کار گزر گیا۔ حاصل وصول کچھ بھی نہیں لبتی کے دل پر ایک نا دیدہ بوجھ آگرا۔ کھانا بناتے ہوئے لبتی کا ذہن مسلسل جویریہ اور اُس کے بچوں میں اٹکارا۔ وہ زیر لب خیریت کی دعائیں



”ہم کسی کو سزا دینے پر قادر نہیں ہیں بیٹا۔ ایسی منفی باتیں دوبارہ کبھی مت سوچنا، جو درگزر کرتا ہے وہی دلی سکون کی دولت سے ماا مال ہو جاتا ہے۔ نیکی اور خیر کا راستہ اپنانے والے بھی دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ اپنا دل صاف کر کے اپنے بابا اور دادی کو وقت دو۔ اُن سے باتیں کرو۔ اُن کی خدمت کرو۔ ماں ہونے کے ناتے میرا فرض ہے کہ میں تم لوگوں کو مثبت طرزِ زندگی گزارنے کا درس دوں۔“

فاخرہ نے رسانیت سے ایک ایک بات صبا کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جبکہ فاخرہ کا اپنا دل پھٹا جا رہا تھا۔ وہ سر تپا لرز رہی تھی۔ صبا کے پیچھے فضا بھی آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔

”اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جب آزمائش میں ڈالتا ہے نابینا تب ہی ہماری اچھائی اور برائی کا پتا چلتا ہے۔ جو اللہ کی دی ہوئی آزمائش کو رحمت سمجھتا ہے۔ جھیل جاتا ہے، نبھا جاتا ہے، پھر بھی اُس کی زبان پر شکر کا کلمہ ہو وہی صابر ہے۔ خدا کی ذات پر کامل یقین رکھنے والا، کوئی بھی مرتبہ و مقام بغیر تکلیف یا درد کے کہاں ممکن ہوتا ہے۔ تم لوگ صلہ ہو، خدا تعالیٰ کی طرف سے، نیک صالح اولاد جو ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے۔ اُس سے بڑھ کر کیا صلہ ہو سکتا ہے بھلا۔“

پُر رسان، دھیما، بے حد سبک پُر اثر انداز گفتگو، صبا نے عقیدت سے فاخرہ کے سینے سے سرائٹھا دیکھا۔ کتنا سحر انگیز چہرہ تھا اُن کی ماما کا۔

وہ آج جان گئی تھی کہ ایسے جان لیوا حالات میں رہ کر بھی، اتنا کرب، اتنی صعوبتیں کاٹ کر بھی اگر اُن کا چہرہ اتنا تروتازہ اور بارونق تھا، جیسے گزرتے ہوئے وقت نے فاخرہ کے دنواز چہرے کو چھوا تک نہیں تھا۔ تو یہ فاخرہ کے من کا اُجلا پن تھا جو نور بن کر اُس کے نقوش کو مزید کُشش و جاذبِ نظر بنا گیا تھا۔

”ماما آپ کا فلر ف۔ بہت بڑا ہے آپ عظیم ہیں۔ مجھے فخر ہے آپ پر۔“ ماما نے فاخرہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لکائیے۔ اُس کا سر جھکا ہوا تھا۔

”ماما مجھے معاف کر دیں۔ مجھے اتنی پھوٹی اور گری ہوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بدلہ لینا، کسی کو سزا دینا بہت گھٹیا فعل ہیں اور مجھے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا۔“ اُس کی آواز پھر سے آنسوؤں کی سیٹ لائی۔

فاخرہ زریب مسکرائی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کے دل بغاوت، سرکشی، دہشت دھرمی سے بھر کر اُن کو بھٹکا ڈالے اس لیے جب بھی صبا دادی کے حوالے سے یا زمان کے حوالے سے بھڑکتی جاتی اور کسی تند خیز موج کی طرح سرخ کر سوال کرتی۔ تب اُس کی وحشت چھلکانی نظروں کو دیکھ کر فاخرہ کے حواس مختل ہو جاتے۔ اُس کے اپنے اندر خوف و ہراس پھیل جاتا۔ تب وہ دل پر بھاری پتھر کی سل رکھ کر اُن کو پیار سے سمجھاتی ورنہ اُس کا اپنا دل کیسے لہولہان تھا۔ اُس کو بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ اُس کی اولاد سب سے بدگمان اور بے گانہ ہو جاتی اور فاخرہ ایسا کیسے چاہ سکتی تھی اُس نے خود سارے رشتے کھوئے تھے۔ وہ اپنوں کی بے رخی اور بے اعتنائی برداشت کرتے کرتے جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ وہ اپنی اولاد کو رشتے دینا چاہتی تھی چھیننا نہیں۔

”ارے نہیں میری سہمی پری، معافی کیسی، جاؤ دادی کے لیے دلیہ بناؤ، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرو اور اللہ انسان کی اُمیدوں سے بڑھ کر صلہ اور جزا دینے والا ہے۔“

”جی ماما میں بناتی ہوں۔“ صبا پلٹ گئی تو فاخرہ کیڑے دھونے لگی مگر اُس کے بے آواز آنسو مسلسل گرتے رہے۔



”آپ فکر مت کریں آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔“ صبا کی بات پر وہ بچوں کی طرح ہچکیاں بھرنے لگیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ذہنی خلفشار اور اعصابی دباؤ کی بدولت وہ اس قدر نڈھال ہو کر اور بیمار پڑ گئی ہیں مگر ان کے اندر بیماری کے خلاف لڑنے کی قوت مدافعت ختم ہو چکی تھی۔

صبا نے دادی کو دوا کھلائی پھر دوبارہ ان کو لٹا کر باہر آگئی مگر تھوڑی دیر بعد بھی واپس لوٹ آئی۔

”بابا..... ماما کہہ رہی ہیں ابھی نہائیں گے یا صبح۔“ وہ اب زمان سے پوچھ رہی تھی۔

”بیٹا پرسوں نہلایا تھا تمہاری ممانے، میرا خیال ہے صبح نہالوں گا۔“ پھر کچھ خیال آنے پر دوبارہ بولا۔ ”صبح تو تمہاری ماما اسکول چلی جائے گی، مجھے اُس کے سوا کون نہلا سکتا ہے۔“ صبا کو اپنے بابا کی آواز بہت تھکی تھکی سی لگی تھی۔ صبا کو تشویش ہونے لگی۔

”بابا کیا ہوا۔“ صبا نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔

”اماں بیمار ہیں نا اس لیے اُداس ہوں۔“

”وہ ٹھیک ہو جائیں گی، آپ اُنہیں نہالیں پھر شام ہو جائے گی۔ خدا نخواستہ آپ کو ٹھنڈ لگ گئی تو۔“

صبا نے ایک ہاتھ کندھے پر رکھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اُس کی ٹانگوں کو بیڈ سے فرش پر اتارا پھر بیڈ کے نیچے سے چپل نکال کر اُس کے پیروں میں ڈالی اور پھر دونوں ہاتھوں سے اُسے سہارا دے کر صحن میں لے آئی۔ فاخرہ نے آگے بڑھ کر زمان کو اپنی بانہوں میں بھر لیا پھر اپنا بازو زمان کی کمر میں ڈال کر اُسے واش روم میں لے گئی۔

خالہ اماں چھت کی کڑیاں ملارہی تھیں، کسی غیر میرنی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے آنکھیں مسلسل رورہی تھیں۔ اُس کے دماغ میں آندھیوں کے چھکڑ چل رہے تھے۔ بیمار ہو جانے کے باعث کوئی چیز ان کے

کہاں اتنا آسان ہوتا ہے ایسے لوگوں کو معاف کرنا جنہوں نے ساری زندگی آپ کو کانٹوں پر گھسیٹ کر زخم زخم کیا ہو۔ آپ کے اندر سے جینے کی اُمنگ ہی ختم کر دی ہو۔ بھری دنیا میں تماشا بنایا ہو۔ آپ کی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنی پسند کی سزا تجویز کی ہو۔ زندگی کے ایک ایک پل کو جاں گسل عذاب میں مبتلا کر کے صدیوں پر لٹکا یا ہو مگر وہ فاخرہ جبیں تھی۔ صابر شاہر اپنے سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں دینے والی اور اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔

☆.....☆.....☆

صبا کا غصہ اور برہمی دوسرا رخ اختیار کر چکی تھی۔ یہ سب فاخرہ کی باتوں کا اثر تھا۔ اب اُسے دادی بہت ہی قابلِ رحم لگ رہی تھیں۔ ترس اُمنڈ اُمنڈ کر آ رہا تھا۔ رحم و ہمدردی دل میں جگہ بنا رہی تھی۔

”دلیہ کھالیں۔“ صبا جب کمرے میں آئی تو وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھیں۔ دادی کی نظریں کمرے کی چھت میں اُبھی نجانے کیا تلاش کر رہی تھیں۔ چہرے پر ان گنت سوچوں کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ ”اُنہیں میں آپ کو خود کھلائی ہوں۔“

صبا نے محبت سے سہارا دے کر اٹھایا اور خود اُن کے منہ میں چچ سے دلیہ ڈالنے لگی۔ دادی کی نظروں میں آنسو جھلملائے تھے اور اُن کا جھریوں زدہ چہرہ آنسوؤں سے تر ہونے لگا۔ صبا نے اپنے ہاتھ سے اُن کے آنسو صاف کیے پھر تھوڑا تھوڑا دلیہ اُن کے منہ میں ڈالتی رہی۔ دلیہ کھلایا، پانی پلایا پھر دادی کا چہرہ صاف کیا اور سہارا دے کر پھر لٹا دیا۔

”دادی آپ بیمار ہیں اس لیے رورہی ہیں کیا؟“ صبا نے کہا تو وہ اور بھی شدت سے رونے لگیں۔



اندر بہت گہرائی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ چیز تھی 'خوف' برا ہونے کا خوف، خوف بس خوف۔

وہ تمام زندگی جو کچھ فاخرہ کے ساتھ کرتی رہی تھیں ظاہر ہے اب اُن کا خوفزہ ہونا بنتا بھی تھا کہ کہیں فاخرہ اور اُس کی بیٹیاں اُسے تنہا اور بے آسرا نہ چھوڑ ویں۔ ایسا ضرور ہوتا اگر فاخرہ تنگ نظر اور خدائی فیصلوں میں دخل دینے والی ہوتی۔ کسی سے نفرت کرنا فاخرہ کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ وہ چاہ کر بھی کسی سے نفرت نہیں کر سکتی تھی، چاہے کوئی اُس کے ساتھ کچھ بھی کرتا۔

مگر ہوا کیا؟ فاخرہ خالہ اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، دوا لی، گھر میں بھی اُس کی دیکھ بھال محبت اور لگاؤ سے ہونے لگی۔

اب اُن کی نگاہوں سے خوف و ہل گیا مگر آنکھیں خالی نہیں رہی تھیں۔ ایک اور احساس اُن میں جگہ بنا چکا تھا، ندامت و پچھتاوے کا احساس، جو نظریں اٹھنے نہیں دیتا تھا۔ جھکی آنکھوں میں آنسو آتے اور پھر آتے ہی رہتے۔ آنسو بہہ بہہ کر وامن بھگوتے رہتے۔ نجانے یہ کیسی ندامت تھی جو دھلتی ہی نہ تھی۔

کیسا پچھتاوا تھا جو کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ گنگ سی چھت کو گھورے جاتیں بے حس و حرکت لیٹی رہتیں۔ ہونٹوں پر ملال و شرمندگی کے قفل پڑ چکے تھے۔

وہ انتہائی دلگیری اور بے بسی کی تصویر بنتی جا رہی تھیں۔ وہ عجیب سے سرو اندھیروں میں خود کو بھٹکتا پاتی تھیں۔ کوئی احساس اُنہیں چھین دے کر وہنی چھو کے لگاتا، ضمیر جاگ گیا تھا مگر کب جاگا جب وہ عمر کی پونجی ہارنے والی تھیں۔

فاخرہ نے زمان کو نہلا کر تولیے سے اُس کا بدن خشک کیا۔ اپنے وجود کا سہارا دے کر اُسے کپڑے پہنائے اور اُن کو ساتھ لیے باہر آئی۔ صحن میں پچھی

چار پائی پر آرام سے زمان کو بٹھایا۔

”فضا بیٹا برش لے کر آؤ اور صبا اپنے بابا کے لیے چائے بناؤ۔“ فضا برش لے کر آئی تو فاخرہ زمان کے بال بنانے لگی۔ پھر زمان کے پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔

”بہت شکر یہ فاخرہ۔“ فاخرہ نے ٹھٹھک کر زمان کو دیکھا۔

”یہ میرا فرض ہے۔“ فاخرہ نے مدہم آواز میں کہا۔ زمان بولا کچھ نہیں مگر اُس کے ہاتھوں کی انگلیاں اضطراری انداز میں کپکپانے لگیں۔ اُس کے ہاتھوں کی لرزش فاخرہ سے مخفی نہیں تھی۔

”بابا چائے۔“ بھی صبا چائے لے کر آئی۔ ”میں بھی چائے پیوں گا۔“ بھی اسد بھاگتا ہوا آیا تھا۔

”بچے چائے نہیں پیتے بیٹا۔“ فاخرہ نے کہا تو وہ مچلنے لگا۔ اسد بہت ضد کرنے لگا تھا۔

”تم گندی ماما ہو، واوی کہتی ہیں تمہاری ماما گندی ہیں۔“ وہ چیخنے لگا۔ اور فاخرہ تو ’کالٹو تو بدن میں لہو نہیں‘ کی عملی تفسیر بن گئی گنگ سی بیٹھی رہی۔

”شرم نہیں آتی ماما سے بدتمیزی کرتے ہوئے“

صبانے سختی سے اُسے ٹوکا تو اسد اور بھی اُچھلنے لگا۔ ”کروں گا کروں گا دادی کہتی ہے ماما گندی ہے گندی ہے۔“ اُس نے کپ کو ہاتھ مارا چائے کا بھرا ہوا کپ ہوا میں اُچھل کر زمین بوس ہو گیا مگر اسد کو چنداں پروا نہیں تھی۔

”لفظوں کے ناخن نہیں ہوتے مگر یہ روح و بدن میں پیوست ہو کر اندر تک ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں دل کو خون آلود کر سکتے ہیں گندی ماما لفظ نے جیسے فاخرہ کی ساری توانائی اپنے اندر جذب کر لی تھی۔

یہ سب کیا دھرا اُسی عورت کا تھا جو کمرے میں لیٹی بے بس آنسو بہاتی رہتی تھی۔ اندر بے حس و حرکت لیٹی خالہ اماں نے باہر کا



## مشہور مصنفین کے مقبول ترین ناول

800/-	ایم اے راحت	جاود
300/-	شازیہ اعجاز شازی	تیری یادوں کے گلاب
500/-	غزالہ جلیل راؤ	کانچ کے پھول
330/-	غزالہ جلیل راؤ	دیا اور جگنو
500/-	غزالہ جلیل راؤ	انابیل
500/-	فیصہ آصف خان	جیون جمیل میں چاند کرنیں
500/-	فیصہ آصف خان	عشق کا کوئی انت نہیں
500/-	عطیہ زاہرہ	سلگتی دھوپ کے صحرا
300/-	محمد سلیم اختر	یہ دیا بچھنے نہ پائے
400/-	ایم اے راحت	دش کنیا
300/-	ایم اے راحت	درندہ
200/-	ایم اے راحت	تلی
200/-	ایم اے راحت	بھرم
400/-	خاقان ساجد	چپوں
300/-	فاروق انجم	دھواں
300/-	فاروق انجم	دھڑکن
700/-	انوار صدیقی	درخشاں
400/-	اعجاز احمد نواب	آشیانہ
500/-	اعجاز احمد نواب	جزیرہ
999/-	اعجاز احمد نواب	تاگن

### نواب سنز پبلی کیشنز

1/92، کوچہ میاں حیات بخش، اقبال روڈ

کمپنی چوک راولپنڈی 051-5555275 Ph:

لکھاری بہنیں اپنا ناول شائع

کروانے کے لیے رابطہ کریں

0333-5202706

سادا تماشا دیکھا نہیں مگر سنا ضرور تھا۔ مگر انہیں خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہی تو اسد کو ہر وقت خود سے لگائے رکھتی تھیں۔ اُلٹی سیدھی باتیں اُس کے معصوم زہن میں ڈالتی تھیں۔ صبا اور فضا نے جب سے فاخرہ کا دفاع کرنا شروع کیا تھا تب کوئی اور راہ نہ پا کر خالہ اماں نے اسد کو اپنا ہدف بنا لیا تھا۔ اب وہ اپنی ساری چالبازیاں اسد پر آزمانا چاہ رہی تھیں۔ فاخرہ کو چاروں شانے جیت گرانے کے واسطے وہ اسد کا ذہن خراب کرنے لگیں تاکہ وہ اپنی ماما کے مقابل آ کر بدتمیزی کر لے اور آج دوسری بار اسد نے فاخرہ سے بدتمیزی کی تھی۔ اُسے تو اپنی فتح پر، اپنی کامیابی پر مسرور ہونا چاہیے تھا مگر خالہ اماں خوش نہیں تھی بلکہ ڈر گئی تھی۔ اب فاخرہ بھڑک اُٹھے گی اور..... مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ کی طرح اس درد کو بھی فاخرہ نے اندر چھپا لیا تھا۔ ہاں بہت دن اُس کی آنکھیں گیلی گیلی رہی تھیں اور دوسرا اُس نے اسد پر خصوصی توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ بگڑی ہوئی چیزیں صرف محبت و توجہ سے ہی سنورتی ہیں۔ فاخرہ نا اُمید نہیں تھی۔

☆.....☆.....☆

جویریہ کی گمشدگی پر اسرار معمرہ بنی ہوئی تھی آخر وہ کہاں گئی۔ اُسے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی اسے اغواء کی واردات کہہ رہا تھا تو کوئی اُسے گھر سے بھاگ جانے والی مشکوک عورت گردان رہا تھا۔ کوئی اس واقعے کو حادثے سے موسوم کر رہا تھا، جتنے مندا تنی ہی باتیں۔

ابھی لبتی سلگئی خالہ کے گھر جانے کا سوچ ہی رہی تھی مگر اُس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی اُن کے گھر جانے کی۔ نجانے وہ کیا خیال کریں۔ لوگ طرح طرح کے جملوں میں اظہارِ افسوس کر کے جویریہ کے میاں کی نہ صرف دل شکنی کر رہے تھے بلکہ اُن کی



غیرت پر بھی انگلی اٹھائی جا رہی تھی۔ اُن کو تسلی کے دو بول کہنے والا کوئی نہیں تھا مگر اُن کے حوصلے منہدم کرنے والے بہت تھے۔

یہ تو صدیوں سے زمانے کا چلن رہا ہے کہ آگے بڑھ کر اُمید دلانے والے، زخموں پر پھاہے رکھنے والے کم ہوتے ہیں بلکہ کم یاب ہی نہیں نایاب ہوتے ہیں لیکن..... لیکن ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں بلکہ خود رو پودوں کی طرح جگہ جگہ ہوتے ہیں جو زخموں پر نمک پاشی کرنا خوب جانتے ہیں، تماش گیر۔ دوسروں کی زندگی میں کانٹے بونے والے، بے حس بے مروت لوگ۔

ابھی جو یہ والے واقعے پر دھول نہیں بیٹھی تھی۔ اس سانحے کی گونج ابھی شہر میں لہراتی پھر رہی تھی کہ ایک اور حراساں کر دینے والا واقعہ ہو گیا۔ پچھلی گلی کے قریشی صاحب کے بیٹے کو اسکول سے واپسی پر کسی نے اغواء کر لیا تھا۔ حقیقی معنوں میں گرد و نواح میں ہراس پھیل گیا۔ قریشی صاحب اور اُن کی بیگم کا رورو کر حال برا تھا۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رورہے تھے۔ کچھ معزز حضرات نے ان کی حالت زار کے پیش نظر تھانے میں رپورٹ درج کروادی تھی۔

ایس ایچ اچمدان گیلانی خود شہر میں ہونے والے واقعات سے حواس باختہ تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کون لوگ تھے اور اُن کے اس گھناؤنے فعل کے پیچھے کیا مقاصد و اغراض پوشیدہ تھے۔

حمدان جیسے مضبوط شخص کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا تھا۔ چہرا پتھرانے لگا تعجب بے یقینی، صدمہ کیا یہ الفاظ کافی ہوتے اُن کی کیفیت بیان کرنے کے لیے، قطعی نہیں، پے در پے پڑنے والی اُفتاد نے گویا حمدان کے حواس سلب کر لیے تھے۔ ایک دن میں ایک ہی شہر سے چار بچوں کا غائب ہو جانا معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اوپر سے بہت دباؤ تھا۔ خدشات کی یلغار اُن کو سہا رہی تھی۔

پورے شہر کی فضا بوجھل ہو کر رہ گئی تھی۔ موت جیسا ساننا چہار سو پھیلا ہوا تھا۔ صدمے سے زبانیں گنگ ہو کر رہ گئی تھیں۔ لوگ ڈرنے لگے تھے۔ سب کو اپنے اپنے بچوں کی فکر پڑ گئی تھی۔ سب نے رکشے لگوا دیے تھے، کچھ لوگ خود ہی اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لے کر آنے لگے تھے۔ شہر جیسے سکتہ زدہ تھا۔ گہری، خوفناک خاموشی جیسے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔

عروہ اور امن بھی آج کل رکشے سے کالج جانے آنے لگی تھیں۔ باقی دونوں گھروں کے چھوٹے بچوں کو بھی بطور خاص رکشے لگوا دیے گئے تھے۔

امن کو وہ ہینڈ سم کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہا تھا مگر آج اُس وقت امن کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اُس نے اُسے کالج میں دیکھا۔ امن نے حیرت سے آنکھیں جھپکائیں، اُسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ نایاب لودھی کے پاس کھڑا تھا۔ بلیک شلوار سوٹ میں اُس کی گوری رنگت دمک رہی تھی۔ امن محویت سے دیکھے گئی بنا پلک جھپکائے، جیسی وہ کسی بات پر زور سے ہنسا تھا۔ اُس کے کالے گھنے سیاہ بالوں والا سر اور آدھا چہرہ امن کی نگاہوں کی رسائی میں تھا۔ امن کا دل جذبات کی یورش سے بوجھل ہو رہا تھا۔ امن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ درمیانی فاصلہ پاٹ کر منحوس ووری کو دور اُچھال دے۔ ہر طرف وہی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اتنا بھرپور اور مکمل تھا کہ ہزاروں میں نمایاں جھلکتا تھا۔ اُسے دیکھ کر اپنائیت کا احساس جاگتا تھا۔ اُس کا ہونا تقویت کا باعث تھا۔ اُس کے وجود سے خوشبوئیں بکھر رہی تھیں۔ وہ مسحوری اپنے اطراف سے بے گانہ بس اُسے ہی تکیے جا رہی تھی۔ دھڑکن کو سنبھالتی بے حال ہو رہی تھی، سبھی وہ قایاب لودھی کو گلے مل کر پلٹا اور اُس کی امن سے مدد بھیڑ ہو گئی۔ سجاد بلوچ کی آنکھوں میں شناسائی کی لہر ابھری پھر اُس کے لبوں پر دھیمی مسکان آن رکی۔



”کیسی ہو، فون نمبر۔“ اُس نے کہا تو امن نے  
میکا کی انداز میں اپنا نمبر کہہ سنایا۔ سجاد نے سیل فون  
کی چمکتی اسکرین پر نمبر لکھا اور پھر لیس کا بٹن دبایا۔  
اگلے ہی لمحے امن کے سیل فون پر بے لی ڈول میں  
سونے دی کی آواز ابھری امن کی آنکھیں بے  
پایاں مسرت کا احساس لیے چمکنے لگیں۔

”شام کو فون کروں گا۔“ سجاد نے امن کی  
آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ گہری وارفتگی،  
والہانہ پن، جاں نثاری کیا کچھ نہیں تھا سجاد کی  
آنکھوں میں، اور کیسے پل پل بدلتے رنگ تھے۔  
چہرے کا تاثر معنی رکھتا تھا۔ نگاہوں کی حدت و پیش،  
بند لبوں کی گویائی، کچھ بھی نہیں بولا مگر جیسے سب کچھ  
کہہ دیا۔ نظروں کا تصادم دل کے پیغام، دل کی بے  
چینی و بے کلی کا پیغام بن رہا تھا۔ سارے جذبے  
آشکار ہو گئے تھے۔

”او کے چلتا ہوں بائے۔“ وہ گھوما اور چلا گیا۔  
امن کے دل کی دھڑکنیں یک دم ہی تھمنے لگی تھیں۔  
ہر منظر دھندلانے لگا۔ وہ جو پیار، محبت، عشق، جنون  
جیسے ان لفظوں سے آشنا نہیں تھی۔ تب تک سب  
ٹھیک تھا، جب تک اُسے کسی کی پروا نہیں تھی۔ محبت  
کی خود رو کو نپل نے دل کی سر زمین سے سر کیا نکالا  
سب کچھ بدل رہا تھا۔ تڑپ جاگتی ہے تو تن من پیاسا  
صحرا بن جاتا ہے۔

وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ امن کی آنکھوں  
میں دھند اتر آئی اور پہلو میں دل جیسے سرکشی و بغاوت  
پر آمادہ ہو کر سجاد کے پیچھے لپک رہا تھا۔  
”یہاں کیوں کھڑی ہو، کلاس نہیں لینی کیا؟“  
نیہات ضمیر کی آواز قریب سے ہی ابھری تھی مگر وہ  
متوجہ ہی کہیں تھی۔ وہ مسلسل کالج گیٹ کی طرف  
دیکھے جا رہی تھی، جہاں سے ابھی ابھی وہ ساحر گزر کر  
گیا تھا۔ امن کو کچھ بھی ہوش نہیں تھا، وہ کہاں ہے  
کیسی ہے، محبت یوں ہی تو ہر چیز سے بے گانہ کر دیا

کرتی ہے، لا تعلق و اجنبی۔ ابھی تو خود حیران تھی۔  
ابھی تو وہ ہاتھ چھڑانے والی ہی تھی۔  
”امن، آریو آل رائٹ۔“ نیہات نے نرمی  
سے پکارا۔ امن چونکی جیسے نیند سے جاگی ہو۔ خالی  
خالی نگاہیں، بوکھلا کر رہ گئی۔

”ہاں، ٹھیک ہوں۔“ امن عجلت میں کہہ کر رُک  
نہیں۔ نیہات نے اچنبھے سے امن کے بکھرے  
حواسوں کو سوچا پھر سر جھٹک کر وہیں درخت سے  
ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور تادیر آنکھیں موندے غافل  
سا کھڑا رہا۔

☆.....☆.....☆

حزہ اور حذیفہ ایک چھوٹی سی بال کے پیچھے  
لڑ رہے تھے۔ لبتی اور فرقان اُن کی نوک جھونک دیکھ  
رہے تھے، بھی حذیفہ نے حمزہ کو گرا کر بال اُس سے  
چھین لی تو حمزہ رونے لگا۔ لبتی نے بھاگ کر روتے  
ہوئے حمزہ کو اٹھایا اور اُس کی کمر سہلانے لگی۔

”غلط بات بیٹا، مل کر کھیلو، لڑتے نہیں ہیں۔“  
لبتی نے نرمی سے حذیفہ کو تنبیہ کی۔

”مما سوری۔“ حذیفہ نے شرمندہ ہو کر کہا۔

”مما یہ بھائی حذیفہ اکثر میرے ساتھ زیادتی  
کر جاتا ہے۔“ حمزہ بسورا۔

”بری بات ہے میری جان، چلو گلے ملو، صلح  
کرد، اچھے بچے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، اور بھائی  
بھائی کا رشتہ تو انمول ہوتا ہے۔“ لبتی نے دونوں کو پکڑ  
کر قریب کیا۔ ایک کے چہرے پر شرمندگی تھی اور  
دوسرے کے غصہ، لبتی اور فرقان نے حمزہ کے غصے  
سے تھمتاتے گالوں کو چھوا۔ حمزہ سے حذیفہ نے سوری  
بولا پھر بائیں پھیلا دیں کچھ دیر پھولے منہ کے  
ساتھ وہ گریزاں رہا پھر گلے لگ گیا۔ لبتی اور فرقان  
نے تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ بچے تو بچے ہی  
ہوتے ہیں، جو سکھاؤ سیکھ جاتے ہیں۔ جو اُن کے دل  
و ذہن میں بھرتے جاؤ پھر وہی باہر آتا ہے۔ اچھا یا برا



یہ بھرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ کہا بھرتا ہے۔  
 اچھائی، نیکی، صلہ، رخصی یا تنفر، نفارت، انتقام، غصہ و  
 عداوت، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔  
 بچے اب اسی بال کے ساتھ دوبارہ کھیل رہے  
 تھے، چند لمحے بیشتر ہونے والی بد مزگی کا نام و نشان  
 بھی اُن کے رویوں میں نہیں بھٹک رہا تھا۔ کوئی  
 چپقلش نہیں تھی۔

”چائے بناؤں آپ کے لیے۔“

”ہاں یار، اور ایک ٹیبلٹ بھی، سر میں درد ہو رہا  
 ہے اسی لیے جنرل اسٹور سے جلدی اٹھ آیا۔“

”میں ابھی آئی۔“ لبتی نے فریج سے دودھ نکالا  
 اور کچن میں چلی آئی۔ ٹھیک دس منٹ بعد وہ چھوٹی  
 سی ٹرے میں جب ایک کپ چائے ایک گلاس پانی  
 لے کر آئی تو دیکھا فرقان کے ہاتھ میں اخبار تھا اور  
 وہ گہری سوچوں میں مصروف تھا۔

”یہ کیس جناب چائے۔“ لبتی نے ٹرے  
 صوفے کے سامنے رکھے میز پر رکھی اور ٹیبلٹ فرقان  
 کی ہتھیلی پر رکھ کر پانی کا گلاس تھمایا۔

”صبا کتنی پیاری بچی ہے نا؟“ فرقان نے  
 کھوئے کھوئے انداز میں کہا تو لبتی نے چونک  
 کر دیکھا۔ یہ دوسرا موقع تھا جب فرقان نے صبا  
 کی تعریف کی تھی۔ لبتی کو اچھا نہیں بہت اچھا لگا۔  
 ”جی بہت کیوٹ سے اور قابل بھی۔“

”ہوں.....“ فرقان کی مبہمی ہوں بھی لبتی کو  
 معنی خیز لگی تھی۔ یہ خوش آئند بات تھی کہ فرقان کا  
 طرز عمل مثبت ہو رہا تھا۔ لبتی کے دل سے اچھی  
 امیدیں بندھ گئی۔

”یہ چائے.....“ لبتی نے کپ اُسے تھمایا۔  
 فرقان کپ پکڑ کر چائے کی چسکیاں لینے لگا مگر اب  
 بھی صبا کا معصوم چہرہ، جاذب نقوش فرقان کے دل  
 کو گدگد رہے تھے۔

”نجانے کیوں مگر میرا دل کرتا ہے کہ میں.....“

”کیا دل کرتا ہے۔“ لبتی نے فرقان کے  
 ادھورے جملے کو مکمل کرنے کے لیے سوال کیا۔  
 ”میں تذبذب کا شکار ہوں لبتی، ورنہ دل چاہتا  
 ہے صبا کو گلے لگا کر پیار کروں، اُس کی محنت پر، اُس  
 کی کامیابی پر اُسے سراہوں، اُسے انعام دوں  
 مگر.....“

”مگر کیا فرقان.....“ لبتی نے مزید بولنے پر  
 اُکسایا۔ لبتی اس سے فرقان کے اندر ہلچل مچانی  
 کیفیات کو سمجھ رہی تھی۔ لوہا گرم تھا اور لبتی اپنی طرف  
 سے گرم لوہے پر ضرب لگانا چاہتی تھی۔ اچھا موقع  
 تھا۔

”مگر..... اتنے فاصلے، اتنی دوریاں ہیں کہ بس  
 ایسا ممکن ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔“

”دنیا کا ہر کام مشکل ضرور ہے ناممکن تو  
 قطعی نہیں، فاصلے مٹائے بھی تو جاسکتے ہیں نا۔  
 دوریاں نزدیکیوں میں بھی تو بدل سکتی ہیں نا۔“  
 فرقان کی صبا کی ذات میں دلچسپی نے لبتی کا بھی  
 حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ جو وہ ایسے بات کر رہی تھی  
 ورنہ فاخرہ اور اُس کی اولاد کے دفاع میں بولنے  
 کی کب اجازت تھی۔

”مگر رحمان.....“ فرقان اٹکا۔

”رحمان بھائی کو تو خدا واسطے کا بیرے اُن سے،  
 نجانے کیا حد ہے اُن کی نفرت و بے گانگی کی۔ صبا تو  
 آپ لوگوں کا اپنا خون ہے۔ اُس کی حوصلہ افزائی کرنا  
 چاہیے۔ اتنی ہونہار بچی ہے۔“

”ہاں میں ملوں گا صبا سے، میرے لیے وہ امن  
 جیسی ہے اور میں اُسے انعام بھی ضرور دوں گا۔“  
 ”کب ملیں گے؟“ لبتی کا چہرہ مسکرانے لگا۔  
 اُس کی خوشی کے مارے آنسو نکلنے لگے۔

”پتا نہیں۔“

”کیا انعام دیں گے۔“

”یہ بھی نہیں پتا۔“ فرقان نے کہا۔ مگر لبتی کی



خوشی دیدنی تھی۔ فرقان کی صبا کے لیے تڑپ خوش آسند بات تھی۔ ابھی وہ رحمان سے ڈر رہا تھا شاید کبھی صبا کی یا اُس کے بہن بھائی کی محبت فرقان کے دل میں غالب آجائے اور رحمان کا ڈر مغلوب ہو جائے۔ شاید کبھی ختم ہی ہو جائے۔ لہٰذا پُر امید تھی۔ فی الفور جو کچھ فرقان نے محسوس کیا تھا وہ بھی کمال کامیابی تھی۔

لہٰذا جانتی تھی کہ فرقان نے جو کچھ کہا ہے وہ اُس پر عمل بھی ضرور کرے گا۔ وہ اُس کی شریک سفر تھی اور فرقان کی مزاج آشنا بھی۔ جانتی تھی وہ اپنے قول کا سچا ہے۔ جو کہتا ہے کرتا بھی ہے۔ اپنے ارادوں کا اہل ہے۔ جو ٹھان لے وہ کر دکھاتا ہے۔

☆.....☆.....☆

احتشام والے واقعے کی وجہ سے عجیب سی سوگوار فضا تھی اسی لیے ان دونوں گھرانوں نے گھومنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اُداسی دور ہو جائے۔ رحمان اپنے کام کے سلسلے میں لاہور جا رہا تھا۔ اُس نے ان لوگوں کو بھی تیار ہونے کا کہہ دیا۔ عروہ اور امن بے تحاشا پُر جوش تھیں۔ چھوٹے لڑکے بھی لاہور دیکھنے کا اشتیاق رکھتے تھے۔ پہلی بار لاہور جا رہے تھے۔

اُن کا دو دن کا ٹور تھا۔ احتشام سب عزت افزائی (مارکٹائی) بھول بھال کر تیاری میں مگن تھا۔ رحمان کا ارادہ ہوٹل میں ٹھہرنے کا تھا۔

پروگرام دونوں گھروں میں ترتیب دیا جا رہا تھا۔ لڑکیاں تیاریاں کرنے لگیں کہ کون کون سے کپڑے پہن کر جانا ہیں اور کون کون سے ساتھ لے کر جانا ہیں۔ امن اور عروہ آپس میں ڈسکس کر رہی تھیں۔ جبکہ فروا اس پروگرام سے آگاہ نہیں تھی۔ وہ اب بھی اریز چوہدری کے پاس تھی۔

فروا رحمان بہت سے مہکتے خوابوں کی اُننگی تھا مے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ خوش باش، بے فکر، وہ زندگی کو ایسے ہی دیکھتی تھی، جیسے ہم سمندر کے

کنارے کھڑے ہو کر لہروں کا رقص دیکھتے ہیں۔ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس بات سے قطعاً بے خبر کہ سمندر اپنے اندر کتنے طوفان چھپائے بیٹھا ہے۔ سمندر میں سیپ ڈھونڈنے نکلیں تو کبھی کبھی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔

”ہیلو ماما.....“ فردا نے خوش دلی سے کہا۔ عائشہ شاید سو کر اٹھی تھی۔

”آ گیا میرا بچہ۔“ عائشہ نے آگے بڑھ کر لاڈ سے کہا۔ فروا چپکتی ہوئی عائشہ کے گلے کا ہار بن گئی۔

”بڑا پیار آ رہا ہے آج ماں پر، خیر تو ہے نا۔“ عائشہ نے آبرو اچکا کر کہا۔

”مجھے تو ہمیشہ سے آپ پر ایسے ہی پیار آتا ہے۔“ فردا نے عائشہ کا گال چوم کر کہا۔

”اب جلدی سے بتا دو کہ کیا چاہیے۔ کیوں مسکے لگا جا رہا ہے۔“ وہ بھی ماں تھی۔

”گاڑی، نئی نکور، اپنی ذاتی۔“ فردا نے بھی ٹال مٹول سے کام نہیں لیا بے دھڑک کہہ ڈالا۔

”الگ سے گاڑی کیا کرنی ہے، یہ پاس ہی تو تمہارا پارلر ہے۔“

”میں اپنی ذاتی گاڑی لینا چاہتی ہوں بعد میں، میں اپنا ذاتی سیلون بناؤں گی، ابھی تو میں کام سیکھ لوں، بعد میں اس حوالے سے فیصلہ کروں گی کہ میں کس شہر کے کس علاقے میں سیلون کھولوں۔“ وہ

قطعیت سے سارے فیصلے کر کے اب بس سن رہی تھی۔ کوئی رائے یا اجازت نہیں مانگ رہی تھی۔

مشورہ بھی نہیں کر رہی تھی۔ بس بتا رہی تھی اور عائشہ بس آنکھیں کھولے لنگر لنگر دیکھے جا رہی تھی۔ عائشہ کو

کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، تائید کرے یا تردید اُس کے خیال کی۔ عائشہ کچھ دیر کھڑی سوچتی

رہی پھر سر جھٹک کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔

(اس خوب صورت ناولٹ اگلی قسط آئندہ ماہ ملاحظہ کیجیے)



## تیرے عشق نچایا

عشق کی راہدار یوں، طبقہ اشرافیہ اور اپنی مٹی سے جڑے  
لوگوں کی عکاسی کرتے سلسلے دار ناول کی انیسویں کڑی

### گزشتہ اقساط کا خلاصہ

ملک قاسم علی جہان آباد کے مالک تھے۔ ان کا شمار ضلع خوشاب کے جانے مانے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ ان کے دو بیٹے ملک عمار علی اور ملک مصطفیٰ تھے۔ عمار علی ریاست کے امور میں دلچسپی لیتے تھے جبکہ ملک مصطفیٰ علی چھوٹی بہن امل کے ساتھ تعلیم کے سلسلے میں لاہور رہائش پذیر تھے، ملک عمار علی کی شادی ان کی کزن ماہین سے ہوئی تھی۔ وہ اٹھارہ سالہ لڑکی خود سے عمر میں کئی سال بڑے ملک عمار علی کو ذہنی طور پر قبول نہ کر سکی تھی۔ وہ کانوینٹ سے پڑھی ہوئی اور خاصے آزاد خیالات رکھتی تھی، جو لائف بھر پور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ اُم فرو اُم زارا اور اسماعیل بخش مولوی ابراہیم کی اولادیں ہیں۔ اُم فرو کی شادی بلال حمید سے ہوئی ہے جو میڈم فیروزی کے لیے کام کر رہا ہے۔ میڈم فیروزی کا تعلق اس جگہ سے تھا جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ بلال حمید اُم فرو کو پہلی بار میکے لے کر آیا تھا کہ میڈم فیروزی کی کال آگئی.....

میڈم فیروزی نے بلال عرف بالو کو باور کرایا کہ جلد اُم فرو کو ان کے حوالے کر دے۔ بلال حمید کے لیے یہ ناممکن سا ہو گیا تھا کیونکہ وہ اُم فرو سے واقعی محبت کرنے لگا تھا۔ ماہین اپنے دیور مصطفیٰ علی میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ امل کی تعلیم مکمل ہوتے ہی اُس کی شادی اُس کے کزن محمد علی کے ساتھ ہونے کی تیاریاں ہونے لگی تھیں لیکن امل کے خیالات کسی اور طرف بھٹکنے لگے تھے۔

ماہین اپنے بچپن کے دوست کا شان احمد سے ملتی ہے تو پتا چلتا ہے کا شان بچپن ہی سے اُس میں دلچسپی لیتا تھا مگر کبھی محبت کا اظہار نہ کر پایا۔ ماہین اپنے آئیڈیل کے اس طرح پھڑ جانے پر دکھی ہے۔ کا شان احمد ملک سے باہر جانے سے پہلے ماہین سے محبت کا اظہار کر دیتا ہے۔ ماہین ملک عمار علی سے ویسے ہی ناخوش ہے اس پر کا شان احمد کا اظہار محبت اُس کی زندگی میں ہلچل مچا دیتا ہے۔

ماہین کے دل میں کا شان احمد کی محبت بھی جڑ پکڑ رہی ہے اور اب وہ عمار علی کی شدتوں سے مزید خائف ہونے لگی ہے۔ امل کی شادی اس کے کزن محمد علی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ محمد علی اُسے محبتوں کی بارش میں نہلا دیتا ہے اور یوں فوجی افسر کی بیوی بن کر وہ اپنی پہلی محبت کی یادوں سے پیچھا چھڑا لیتی ہے۔ ماہین اور عمار علی کے بیچ میں تکرار ہونے لگی ہے۔ میڈم فیروزی بلال کو اُم فرو پر کڑی نظر رکھنے کا کہتی ہے۔ ایک دن اچانک بلال کی ملک مصطفیٰ علی سے ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ انہیں اعتماد میں لے کر اپنی اور اُم فرو کی رام کھانا دیتا ہے۔ ملک مصطفیٰ علی اُسے اپنے ساتھ مراد والا میں لے جاتا ہے اور انیکسی میں رہائش اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فیروزی بلال کی تلاش میں ہے۔

اچانک ملک قاسم علی کی وفات ہو جاتی ہے۔ سارا جہان آباد سوگ میں ڈوبا ہے۔ ملک عمار علی سارے انتظام اپنے ہاتھ میں لے کر بڑے ملک کے فرائض انجام دینے لگتے ہیں۔

ماہین کی ذرا سی غفلت اُسے نہ چاہتے ہوئے بھی مان بنا دیتی ہے۔ ماہین کے دل میں کسی طرح بھی بچے کی محبت پیدا نہیں





WWW.PAKSOCIETY.COM





ہو پاتی۔ وہ ماں کے سنگھاسن پر بیٹھ کر بھی کا شان کی محبت کی ہوک اپنے دل میں محسوس کرتی ہے۔ اہل دوسری بازماں بننے والی ہے۔ محمد علی مہر النساء بیگم سے اہل کا خیال رکھنے کا کہتا ہے۔ ادھر مہر النساء بیگم دادی بننے کے بعد چاہتی ہیں کہ ماہین ریاست کی بڑی ملکائیں کی ذمے داریاں اُن کی زندگی ہی میں اپنے ہاتھ میں لے لے۔ ماہین اس صورت حال سے سخت متنفر ہے۔ وہ جلد از جلد جہان آباد سے واپس لاہور جانا چاہتی ہے۔ لیکن ملک عمار علی اُس کی باتیں سن کر.....

(اب آگے پڑھیے)

”آپی میں تو اٹھ گئی ہوں پر آپ یوں کیوں بیٹھی ہیں؟“

”ویسے ہی بیٹھ گئی ہوں۔“ معدوم مسکراہٹ لمحہ بھر کے لیے اُس کے زیم ہونٹوں میں گھلی۔ آخر وہ اُم زارا کو کیا جواب دیتی، خود ہی بھول بھلیوں کی بے اعتباریوں میں جکڑی ہوئی تھی۔

اچانک اُم فردا کا فون بجا۔ خیالوں کی ڈور ٹوٹی چلی گئی مسلسل فون پر بیل آرہی تھی۔ اسکرین پر ملک مصطفیٰ علی کا نام جگ جگ کر رہا تھا۔ وہ بدستور فون اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ اب فون بند ہو چکا تھا۔ اُم فردا نے اُم زارا کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اور کھلے بالوں کی چوٹی بنا رہی تھی۔ اُم زارا نے اس سے نہیں پوچھا تھا کہ کس کا فون تھا۔

اُم فردا نے اب کی بار مسکرا کر اُم زارا کو دیکھا۔ اس وقت اُم زارا کس قدر خوبصورت لگ رہی تھی۔ نیند کے خماری سے بے خود آنکھیں، ڈارک سنہری، آنکھوں والے صبح چہرے پر کیسی میٹھی دم بخود کر دینے والی لا پرواہی تھی۔ اچانک اُم فردا کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی اس کے ہاتھ تھخ بستہ ہو گئے۔ اُم فردا کو محسوس ہوا اُم زارا تو اُس سے بھی کہیں زیادہ حسین ہے۔ چھوٹی سی عمر کی اُم زارا اتنی حسین ہے۔ میں نے تو کبھی غور ہی نہ کیا، اُم زارا کی آنکھوں میں غیر مرئی کشش تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چوٹی گوندھتی بے خودی کے عالم میں نعت پڑھ رہی تھی۔ وہ اپنی ہی ترنگ میں تھی۔ اُم فردا خاموشی سے اُسے سنتی رہی۔ لیکن ذہن میں یہی خیال ابھر رہا تھا۔ ”اے باری تعالیٰ میری بہن کا نصیب بہت اچھا کرنا۔ اے کاتب تقدیر شریف النفس آدمی کے ساتھ اس کا نصیب لکھنا۔“

اب موبائل پر ملک مصطفیٰ علی کا میسج تھا۔ ”سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ دوپہر دو بجے فون کروں گا۔“ اُم فردا نے ہونٹوں کو آپس میں دبایا۔ وہ جس قدر اُن کے خیال سے پیچھا چھڑانا چاہتی وہ اتنا ہی اس کی ذات کے ہر ہر گوشے میں مہکاریں بسا جاتے۔

”مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے اُم زارا۔“

”بولیں آپی۔“ اُم زارا کی سنہری آنکھیں اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس وقت اُم زارا اثر و تازہ لگ رہی تھی۔ نیند پوری ہو جانے کی وجہ سے طمانیت آمیز آسودگی تھی۔ اُس کے چہرے پر۔ خداوند قدوس یہ خوشی ہمیشہ قائم رکھنا اس کے چہرے پر اُم فردا نے پھر چپکے سے بہن کے لیے دعا کی۔ وہ اکثر یونہی سہم جایا کرتی تھی۔

”اُم زارا تم سے کچھ بات کرنی ہے۔“

”آپی آپ اتنی تمہید کیوں باندھ رہی ہیں۔“

”ہاں وہ.....“ وہ اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے سے مسل رہی تھی۔ اُم زارا اسے بے چینی سے دیکھ رہی تھی۔

”ملک مصطفیٰ علی کو تم جانتی ہوناں؟ جن کی لال حویلی کی انیکسی میں تم رہی ہو؟“



”آپی بھول جائیں وہ سب باتیں، اور یوں سمجھیں جیسے آپ کی زندگی میں کبھی وہ عرصہ کبھی آیا ہی نہیں۔“ اچانک سے اُم زارا کی آنکھوں کی چمک ماند پڑی تھی۔ اس کی کھڑی ناک کی نوک سرخی مائل ہو رہی تھی۔

’بھول ہی تو نہیں پاتی زارا جان! اُس نے دل میں سوچا۔

اُم فروا نے مصطفیٰ علی کے میسج کا پیج کھول کر اُم زارا کے سامنے کرویا۔ پڑھنے کے بعد اُم زارا نے اُم فروا کی طرف دیکھا۔ اُم فروا کے پیج رخسار دکھ رہے تھے۔ اُم زارا اس میسج کا مفہوم نہیں سمجھ پائی تھی۔ فروا کے چہرے پر اک بے قراری، ضبط و تحمل تھا۔

”آپی آپ کا خیال کیا ہے یہ میسج پڑھنے کے بعد۔“ یہ پہلا سوال تھا اُم زارا کا۔

”مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟“ وہ گرد آلود گرداب میں غوطے کھا رہی تھی۔ اسی لیے تو اس نے اُم زارا سے بات کی تھی۔ اُم زارا اُس کی عزیز بہن تھی۔ وہ اس سے کچھ نہیں چھپا سکتی تھی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے بہت قریب تھیں۔ خاص الخاص بات بھی شیر کی جاتی تھی۔ ممکن تھا کبھی اُم زارا اُسے ملک مصطفیٰ علی سے بات کرتے دیکھ لیتی۔ یقیناً تب شکوہ یقیناً اُم زارا کی آنکھوں میں بھرنا تھا۔ سوچیں اُسے بے چین کیے جا رہی تھیں۔

”اُم زارا ممکن ہے کوئی وجہ ہو اُن کے فون کرنے کی۔ کچھ بتانا چاہتے ہوں یا کوئی بھی وجہ.....“ اُم فروا نے بات ادھوری چھوڑی۔ سراسیمگی اُم زارا کی سنہری آنکھوں کو حیران کر چکی تھی۔

”آپی..... ملک مصطفیٰ علی ہمارے محسن ہیں۔ اگر وہ اباجی کی ہمت نہ بندھاتے تو ہم اس صدمہ کو کیسے برداشت کر پاتے۔ آپ اپنے اندر عدم اعتماد کے دوسو سے نہ پالیں۔ اُن سے بات کر لیں۔ انہوں نے آپ کو فون کیوں کیا تھا وہ بتادیں گے؟ یقیناً آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے ہی کیا ہوگا۔“ اُم زارا اپنے سوال کا خود ہی جواب دے رہی تھی۔

”اُم زارا میرے پاس مضبوط دلیل نہیں ہے، فضول میں غیر محرم سے بات کرتی پھروں۔“

”آپی آسمانوں پر براجمان رب العزت بندوں کی نیتوں سے بخوبی واقف رہتا ہے۔ بس آپ اپنی نیت درست رکھیں۔ باقی اوپر والے پر چھوڑ دیں۔“ اُم زارا نے کسی قدر صحیح بات کی تھی۔ رب نیتیں جانتا ہے جو بشر اُس پر اپنے شہر ذات کی ہر ہر بات چھوڑ دیتا ہے۔ وہ انسان کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ یک بارگی وہی پُفسوں شہد آگیں مسکان اُم زارا کے دلکش چہرے پر عیاں تھی۔ جو چند لمحوں میں اُس کی گہری آنکھوں میں بس چکی تھی۔ واقعی اُم زارا کی جاندار مسکراہٹ نے اُم فروا کے دل کا بوجھ قدرے کم کر دیا تھا۔

☆.....☆.....☆

اسماعیل بخش کی محنت کی وجہ سے قدرت اُسے فیضیاب فرما رہی تھی۔ اب اسماعیل بخش تمام حروفِ تہجی میں خطاطی کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں روانی خوش خطی اور پھرتی بھری مہارت آ چکی تھی۔ اُسے مختلف بڑی بڑی کمپنیز کی جانب سے آرڈرز دھڑا دھڑل رہے تھے۔ اُس نے اپنے ہی اسٹوڈنٹ کو مستقل دکان پر رکھ لیا تھا۔ اس کام میں اُس کی لگن تڑپ ایسی کہ وہ اس کام میں ڈوب جاتا۔ اُس کی زبان پر درودِ پاک کا ورد رہتا اور اُس کی مضبوط انگلیوں کی پوری قرآنِ پاک کی آیات کو اپنے اندر سموتی رہتیں۔ ایک نشہ، ایک

دوشنبہ 209



سرور رب سونے کے قریب کی تڑپ میں وہ خوش رہتا۔ اُس کے چہرے پر پل پل طمانیت آمیزی چھلکتی۔ اُس کی کچھوں جیسی یا قوتی آنکھوں میں ایسی کشش کہ الفاظ کا جامہ پہنانا مشکل ہو۔ وہ مردانہ و جاہتوں کا مکمل بھرپور شاہکار تھا۔ قدرت کی خاص مہربانی تھی۔ مولوی ابراہیم بخش کی فیملی پر اس کی دکان کے سامنے سے گزرتی خواتین رُک کر، ٹھنک کر، چونک کر، حیرت سے اُسے دیکھتیں بار بار اُس کی دکان کے سامنے سے گزرتیں۔ وہ ہمیشہ اپنے کام میں مہمند رہتا۔ خطاطی کے دوران وہ اک متبرک فیز سے گزرتا تھا۔ اُسے محسوس ہوتا اُس کے سامنے برگزیدہ ہستیاں قرآن پاک پڑھ رہی ہیں۔ اور وہ لکھ رہا ہے۔ دھیمی خوش کن مسکان ہر پل اُس کے ہونٹوں پر گھلی رہتی۔ شلوار سوٹ میں کسرتی سراپے والا شکیل وجیہہ اسماعیل بخش، مرد بھی جسے دیکھ کر رُک جاتے تھے۔ اُسے دیکھ کر اکثر لوگوں کے منہ سے سبحان اللہ نکلتا لیکن اُسے رتی بھر زعم نہیں تھا خود پر۔ وہ اپنے کام کی اجرت کے مطابق ہی معاوضہ وصول کرتا یہی بات اُس نے اپنے شاگردوں کو بھی سمجھائی تھی۔

مولوی صاحب نے اسماعیل کو تاکید کی تھی۔

”بیٹا اپنی حاجت کے مطابق رکھ لیا کرو۔ باقی ہواؤں، یتیم و مساکین میں تقسیم کر دیا کرو۔“ اسماعیل بخش اب ایسا ہی کرتا تھا۔ اب تو پاکستان کی معروف کمپنیز اُسے بڑے بڑے آرڈرز دینے لگی تھیں۔ وہ حیران ہوتا میں اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اُس سے کہیں زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ زیادہ آرڈرز پورے نہیں کر سکتا تھا اگر زیادہ فورس کیا جاتا تو انہیں لائن میں لگنے کا کہہ دیتا۔ کمپنیز بھاری رقم کی آفر کرتیں لیکن اُس کے اپنے اصول تھے۔ مولوی صاحب نے اُسے سمجھایا تھا۔ بیٹا جس طرح ہمارے نبی ﷺ نے تجارت کی اور صحابہ کرام نے، تم ہمیشہ خود کو اُن کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کرنا۔ اسماعیل نے اپنے والد گرامی کی بات ذہن میں محفوظ کر لی تھی۔ منافع تھا کہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بے بے جی اب اُم زارا کے جہیز کی تیاری میں لگی ہوئی تھیں۔ انہیں اُم فروا کا خیال آتا تو دل میں گاتھیں پڑتی چلی جاتیں۔ دل میں کسک اٹھتی تو سر جھکا لیتیں۔

”میرے مالک مجھے معاف فرمادے آخر ہوں تو انسان ہی ناں۔ مالک میں جانتی ہوں میری بچی کے لیے تو بہترین کرے گا۔“ تب وہ خود کو خوش رکھنے کی کوشش کرتیں۔ آنکھوں میں رُکی بے قراری فوراً غائب کر لیتیں۔

☆.....☆.....☆

اب ملک مصطفیٰ علی، موچی گیٹ کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے لگے تھے۔ مولوی صاحب کا خطبہ بہت غور سے سنتے۔ ہر مرتبہ ہی آگہی کے دروازے اُن پر کھلتے چلے جاتے۔ کیسی پُرسوز تاثیر تھی۔ مولوی صاحب کی آواز میں، پُرسوز آواز جب ساعتوں سے نگرانی تو امرت گھولتی محسوس ہوتی۔ ایمان افروز خطبہ ملک مصطفیٰ علی کے اندر کی لگن کو مزید بڑھا دیتا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد جب مسجد نمازیوں سے خالی ہو جاتی تو وہ مولوی صاحب سے ملتے۔ مولوی صاحب اُن سے باتیں کرتے۔ اللہ اور اُس کے محبوب رسول ﷺ کی باتیں یہاں میرے رب نے کیا فرمایا یہاں نبی ﷺ نے کیسے اللہ کا پیغام اپنی اُمت تک پہنچایا۔ تب ملک مصطفیٰ علی گہری نشانی و تقویت محسوس کرتے۔ ملک مصطفیٰ علی نے اب دوستوں کی محفلوں میں جانا ترک کر دیا تھا۔ چھوٹی موٹی گیدرنگ میں چلے جاتے۔ ڈنڈ وغیرہ یا گپ شپ لگا لیتے تھوڑی دیر کے

دو شیشہ 210



لئے۔ ان کے وہ تینوں قریبی دوست حیران ہو کر ملک مصطفیٰ علی کو دیکھتے۔

”تم یکسر بدل رہے ہو ملک مصطفیٰ، مولوی بنتے جا رہے ہو۔“

وہ مسکرا کر ان تینوں کی طرف دیکھتے۔ ”اللہ پاک میری طرح تم لوگوں کو بھی ہدایت دے۔“ وہ ملک مصطفیٰ علی کی بات پر قہقہہ لگاتے۔

”یار خدا دلوں کو بدلنے میں دیر نہیں لگاتا۔“

لال حویلی کے شاہ جہان کتب خانہ میں اب ملک مصطفیٰ علی زیادہ پائے جاتے۔ جہاں پوری دنیا کا بہترین لٹریچر موجود تھا۔

انہوں نے اسلامی بکس سے اپنے مطالعے کا آغاز کیا تھا۔ یہ کیسے ادارک تھے، کیسے لطیف درتھے جو ملک مصطفیٰ علی پر کھلتے چلے جا رہے تھے۔ وہ سب سے پہلے قرآن پاک تفسیر سے پڑھ رہے تھے۔

مولوی ابراہیم بخش کی صحبت میں بیٹھنا انہیں اچھا لگتا مولوی صاحب کی باتیں ملک مصطفیٰ علی کو ان کی ذات کے ذرے ذرے کا چہرہ دکھا دیتیں۔ تب بگڑے ہوئے اس رئیس زادے کو اپنی روح آب زم زم سے غسل لیتی محسوس ہوتی۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اللہ کے بندوں سے کہتے ہیں کہ عابد زاہد و صادقین کی محفلوں میں کثرت سے بیٹھا کرو۔“

اُم فروا کو دیکھ کر ہی انہیں رب یاد آیا تھا۔ پہلا سوال اُن کے ذہن میں یہی اٹھا تھا کہ اس صورت کو بنایا کس نے؟ اسے بے مثال سیرت کس نے عطا کی؟ اسے خوبصورت آواز دینے والا کون ہے؟ تب کسی نے انہیں اندر سے بری طرح جھنجھوڑا۔

رب..... رب!! یہ نعمتیں وہی عطا کرنے والا ہے۔

اُس دن وہ اسماعیل بخش کو بھی چند کتابیں پڑھنے کے لیے دے آئے۔ ”اسماعیل یہ کتابیں گھر والوں کو بھی پڑھنے کا کہنا۔“ اسماعیل بہت خوش ہوا۔

”ملک صاحب آپ کا ذوق مطالعہ بہترین ہے۔“ اسماعیل سرسری صفحے پلٹتے ہوئے ایک دو لائنیں پڑھ کر بولا۔ اسماعیل کی بات پر انہوں نے شرمندگی اندر ہی دبالی۔ وہ کیا کہتے اسماعیل بخش سے کہ میں نے تو ابھی ابھی مطالعہ کرنا شروع کیا ہے۔

ویک اینڈ کی اس شام ملک مصطفیٰ علی کتب خانہ میں موجود تھے۔ اُم فروا کو دیکھے تقریباً دو مہینے ہو چکے تھے۔ وہ اُس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے غیر محرم تھے۔ وہ اُن کے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ اور پھر غیر ارادی طور پر اُن کی مضبوط انگلیوں کی پوریں سیل فون کی روشن اسکرین پر اُم فروا کے نام پر رُک گئیں۔ اندر کی شدید بے قراری نے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دو چار بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ اور سلام کیا گیا تھا۔ کئی لمحوں تک اُن کی سماعتوں میں اُم فروا کی رسیلی آواز گھلتی رہی۔ انہوں نے اُس کے سلام کا جواب دیا۔

”اُم فروا کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ بہت اچھی ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟“

”خیریت سے ہوں۔“ وہ مسکرائے۔ انہیں لگ رہا تھا اُم فروا بھی مسکرا رہی ہے۔ دنوں بعد اُس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اُتری تھی۔ آج کئی روز بعد انہوں نے اُم فروا کی آواز سنی جیسے اُن کے ہر طرف



جھا بھریں بچ اٹھی ہوں۔  
 ”کیا ہو رہا ہے آج کل۔“ اُن کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات کا سلسلہ کیسے آگے بڑھائیں۔ اُم فروا بھی  
 زروس تھی۔ آخر اچانک اُن کا فون آ جانے پر وہ بات کیا کرتی؟  
 ”ملک صاحب آپ کے گھر والے خیریت سے ہیں؟“  
 ”سب ٹھیک ہیں۔ کیا ہو رہا تھا؟“  
 ”عشاء کی نماز سے ابھی ابھی فارغ ہوئی ہوں۔“  
 ”صوبہ!“

اس وقت وہ صحن میں رکھے گملوں کے پاس کھڑی تھی۔ رات کی رانی کی کلیاں مکمل کھل چکی تھیں۔ جن  
 کی مہک سے پورا آنگن مہک رہا تھا۔  
 ”میں نے اسماعیل کو چند بکس دی تھیں۔ برٹش آری آفیسر کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس رائٹر نے باریک بینی  
 سے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد سیرت نبوی ﷺ کو بھی پڑھا پھر تخلیق کی گئی ہیں۔ پیش لفظ میں رائٹر  
 نے تمام ڈیٹیل دی ہے کہ اُسے کیسے اسلام مذہب کی جستجو ہوئی۔“  
 ”جی۔“ وہ ہمتن گوش اُن کی باتیں سن رہی تھی۔

”اللہ جس کو چاہے پل کی دیر بغیر اپنی جانب رجوع کرا لے۔“ اُم فروا آہستہ روی سے بول رہی تھی۔  
 دل میں بار بار بے چینی پریشان کر رہی تھی کہ میں ایک غیر محروم سے بات کر رہی ہوں۔ اُم فروا کی آواز کا  
 بے خود کر دینے والا سحر۔ ملک مصطفیٰ علی کو سرا سیمگی میں لے گیا۔ وہ بدستور زیر لب مسکرارہے تھے۔ اُم فروا  
 کے لہجہ کی خوشبو بھری مہکار اُن کی اطراف سرسرائی کو مل باد صبا کی مانند۔

”اُم فروا آپ خوش ہیں ناں؟“

”بہت زیادہ خوش ہوں میں۔“

”میں اکثر اُس انیکسی میں جاتا ہوں جہاں مختصر دورانیہ آپ نے گزارا۔“

”آپ کیوں جاتے ہیں وہاں۔“ غیر ارادی میں اُم فروا کے ہونٹوں سے پھسلا۔

”دل چاہتا ہے، وہاں ہر چیز ویسی کی ویسی رکھی ہے۔ آپ اپنی ضرورت کی کئی چیزیں وہاں بھول آئی ہیں۔“

”نہیں تو۔“ اُس نے ذہن پر زور دیا۔

”کافی کچھ بھول آئی ہیں آپ۔ آپ کا ہیئر برش جس میں ابھی بھی آپ کے چند بال موجود ہیں۔ وہ

صابن جو آنے سے پہلے آپ نے استعمال کیا تھا۔ جائے نماز، آپ کے سر ہانے تلے گھری بنے ان گنت  
 لمحات، وہ تکیہ جس پر آپ نے نجانے کتنے آنسو بہائے ہوں گے۔ اُس انیکسی کے ایک ایک انچ پر آپ کا  
 لس جوں کا توں موجود ہے۔ میں آپ کی جائے نماز وہاں سے لے آیا تھا۔“

ملک مصطفیٰ علی جانتے تھے۔ اس جائے نماز پر اس لڑکی نے بے انتہا سجدے کرتے ہوئے آنسوؤں کی  
 صورت اپنی آنکھوں کا نور جذب کیا ہوگا۔

”جی.....؟“ اُم فروا کی جی خاصی لمبی تھی۔ متذبذب سی حیرانگی تھی۔ اُم فروا کی آنکھوں میں لہجے کی  
 پور پور ہراساں تھی۔



# پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

## یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو م ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ سیریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈفری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

**We Are Anti Waiting WebSite**

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں


# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on  
Facebook

[fb.com/paksociety](https://fb.com/paksociety)



[twitter.com/paksociety1](https://twitter.com/paksociety1)



”اُم فروا آپ کی اُس جائے نماز پر اب میں نماز پڑھتا ہوں۔“  
 ”آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟“ بغیر ارادہ اچانک اُس کی زبان چلی۔ وہ زور سے ہنسنے۔ اپنی بات اور اُن کے ہنسنے پر وہ سٹ پٹائی۔ اب ملک مصطفیٰ علی کی گھمبیر ہنسی دوبارہ اس کی سماعت سے ٹکرائی۔  
 ”کیا میں نماز نہیں پڑھ سکتا؟“ اُن کی جانب سے بھی سوال ہوا۔  
 ”معافی چاہتی ہوں اپنی اس نادانی پر۔“ وہ شرمندہ لگ رہی تھی۔  
 ”اب میں باقاعدگی سے مسجد میں نماز پڑھتا ہوں۔“ اُم فروا مسکرائی۔ ملک مصطفیٰ علی..... اب..... کا لفظ خود ہی اپنی گفتگو میں لے آئے تھے۔

”آپ کی جائے نماز پر میں رات کے پچھلے پہروں نقلی عبادت کرتا ہوں۔ اُم فروا تب میں آپ کو بھی یاد کرتا ہوں۔“

”مجھے؟ لیکن مجھے کیوں؟“ وہ ابھی تک حیرت میں تھی۔

”میں نہیں جانتا۔“ وہ سبک انداز میں ٹھہر ٹھہر کر لفظ ادا کر رہے تھے۔ درمیان میں تھوڑا توقف لاتے پھر بولتے۔ اُم فروا نہیں جانتی تھی یہ اچانک سے اُس کے اندر یہ کیسی بے ہنگم اٹھل پھل برپا ہوئی تھی۔ جس کی وہ بھرپور طریقے سے سرزنش کر رہی تھی۔

”آپ نے فون کیوں کیا کیا؟ کوئی کام تھا؟“ اُم فروا چاہ رہی تھی اب وہ فون بند کر دیں۔

”آپ کو الگامیر فون کرنا؟“

”نہیں تو۔“ گھبراہٹ میں گھٹی گھٹی آواز حلق سے برآمد ہوئی۔ تو ملک مصطفیٰ علی محظوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔

”میں نے ماں جی سے ذکر کیا تھا آپ کے گھر آنے کا۔“

”کیوں؟“ وہ زور سے تو ویسے ہی تھی۔ ملک مصطفیٰ علی کی ہر بات پر بے تکا بول رہی تھی۔

”اُم فروا کیا میں مولوی صاحب کے گھر آنے کا ذکر نہیں کر سکتا؟“

”بھلا میں کیا کہہ سکتی ہوں۔“

”کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں۔“ اُن کے لہجے میں شوخی عود رہی تھی۔

”میری ماں جی اور بھابی بہت اچھی ہیں۔ میری بہن امل کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوا ہے؟“

”میں نے؟“ یا نہیں آ رہا۔

”میلا دشریف کی محفل میں ایک مرتبہ آپ اپنی بہن اور والدہ کے ساتھ لال حویلی آئی تھیں۔“

”جی مجھے یاد آ رہا ہے میں کافی دیر سے محن میں کھڑی ہوں اب اندر جاؤں۔“ وہ اجازت طلب انداز

میں بولی پریشان ہو رہی تھی کوئی اُسے یوں فون پر بات کرتے دیکھ نہ لے۔

”ٹھیک ہے آپ اندر جائیں اپنا خیال رکھیے گا۔“

”جی۔“ اس وقت ملک مصطفیٰ علی کا دل شدت سے چاہ رہا تھا۔ وہ اُم فروا کو دیکھیں، روبرو اُس سے باتیں

کریں۔ لیکن ایسا اب ممکن نہیں تھا کیونکہ غیر لوگ مولوی صاحب کے اندرون خانہ میں نہیں جاسکتے تھے۔

”کیا اب میں اُم فروا کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا؟“ اس خیال نے اُن کے دل میں چھید کر دیے۔ جب

ماں جی اور ماہین آئی ہوں تو مولوی صاحب کی فیملی کو کیوں نہ دعوت پر مدعو کیا جائے۔ یہ مناسب نہیں ہے



فی الحال ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اُس کے تصور سے باتیں تو کر ہی سکتے تھے۔ ایسے خوشگوار لمحات اکثر نہیں اپنی دسترس میں لے لیتے۔ تو اُن کے ہونٹوں پر پھیلی مسکائیں گہری ہو جاتیں۔

☆.....☆.....☆

ماہین ان دنوں پھر امید سے تھی۔ وہ دوسرا بچہ اتنی جلدی نہیں چاہ رہی تھی۔ لیکن اللہ پاک نے اس کی قسمت میں یہ بچہ لکھ دیا تھا۔ پھر؟..... پھر کے آگے وہ بے بس تھی۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ضرور کرتا ہے۔ رات بھر ہلکی پھلکی بارش جاری رہی تھی۔ پھر بارش تھم جانے کے بعد آسمان صاف ہو چکا تھا۔ بادلوں کے اکاؤ کا ٹکڑے غائب ہو کر صبح صادق کی سپیدی نزل سفیدی جیسی دھند میں تبدیل ہو رہی تھی۔ بارش کے بعد خشکی قدرے بڑھ گئی تھی۔

ملک عمار علی فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد گاؤں کے چند لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے مسجد سے باہر ہی نکلے تھے کہ اُن کا دایاں ہاتھ دل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ شدید درد کی شدت سے وہ نڈھال ہو رہے تھے۔ اُن کے ساتھ چلتے ظفر حسین نے ملک عمار علی کو سہارا دیا۔ سبھی لوگ آس پاس جمع ہو گئے۔ ایک لڑکا جلدی سے چار پائی اٹھا لایا۔ اُس پر ملک عمار علی کو لٹایا گیا۔

”ملک صاحب کیا ہوا؟“ کئی آوازیں اکٹھی ہو کر ابھریں۔ ملک عمار علی کی آنکھیں گلابی ہوتی ہوئی بند ہو رہی تھیں۔ اُن کا ہاتھ ابھی بھی دل پر تھا۔

ریاض جلدی سے گاؤں کے ڈاکٹر نیبل کو بلا لایا۔ ملک عمار علی کی نبض ڈوب رہی تھی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا انہیں ہارٹ اٹیک کا شدید دورہ پڑا ہے۔ فوری طور پر انہیں شہر لے جائیں۔ بڑی حویلی میں صرف مہر النساء تھیں۔ انہیں ابھی تک نہیں بتایا گیا تھا ماہین کو دو دن پہلے ملک عمار علی لاہور چھوڑ کر آئے تھے۔ کیونکہ اُس نے اپنی فیملی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا تھا۔ ملک عمار علی کے ڈرائیور شاہ نواز نے ملک مصطفیٰ علی کو فون کر دیا تھا۔ ملک عمار علی ان دنوں بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ خوش کیوں نہ ہوتے آخر وہ دوسرے بچے کے باپ بننے والے تھے۔ اس خوشخبری پر مہر النساء نے پورے گاؤں میں حلوے کا کڑھا بنوا کر تقسیم کروائے تھے۔ اناج خیرات کیا گیا تھا۔

شاہ نواز کے فون پر ملک مصطفیٰ علی گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے ظفر حسین سے کہا تھا کہ انہیں فوری طور پر خوشاب ڈاکٹر طللال علی کے کلینک لے کر پہنچیں۔ میں نکل رہا ہوں۔“

ظفر حسین انہیں شہر لے جا رہے تھے۔ پیچھے کی گاڑیوں میں ان کے رشتے دار اور گاؤں کے لوگ آ رہے تھے۔ ظفر حسین ملک قاسم علی کے چچا زاد تھے۔ اس وقت ظفر حسین اور شاہ نواز جہان آباد کی حدود سے نکل کر مین جی ٹی روڈ پر ہی آئے تھے کہ ملک عمار علی کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ ظفر حسین جن کی گود میں ملک عمار علی کا سر تھا۔ وہ زور زور سے ملک عمار علی کا دل پمپ کر رہے تھے۔ لیکن آہ! قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ملک عمار علی کی نبض ڈوب رہی تھی۔

انہوں نے دو تین بار زور زور سے ہچکیاں لیں۔ شاہ نواز نے حواس باختہ گاڑی فل اسپید پر چھوڑ دی۔ رہ جانے والا نام صرف اللہ کا جس نے سدا رہنا ہے۔ آخری ہچکی کے ساتھ آخری نبض بھی ڈوب گئی۔ شاہ نواز نے سڑک کے سائیڈ پر پجارو روک دی۔

دو شہزادہ 214



”ملک صاحب! ملک صاحب!“ شاہ نواز چیختا ہوا آوازیں دے رہا تھا۔

ان اللہ وانا الیہ راجعون! ملک ظفر حسین نے با آواز بلند پڑھا۔ اُن کی آواز رندھ کر ضبط میں ڈوب چکی تھی۔ ملک ظفر حسین کی آنکھوں سے تو اتر کے ساتھ آنسو بہہ رہے تھے۔ آواز تو جیسے حلق کے اندر سلب ہو چکی تھی۔ ان کے پیچھے آنے والی گاڑیاں رُک چکی تھیں۔ سبھی دوڑے پجارو کی طرف، ہر شخص گنگ ہو چکا تھا۔ بے یقینی کے عالم میں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے اور پھر اچانک ایک کہرام مچ گیا۔ سب لوگ دھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے۔ کوئی پجارو سے ٹکریں مار رہا تھا، کوئی سر ماتھا پیٹ رہا تھا۔ شاہ نواز نے ملک مصطفیٰ علی کو اطلاع دے دی تھی۔

مراد محل اور لال حویلی میں بھی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ ریاست کے تمام لوگ بے یقینی سے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے۔ کیا ملک عمار علی انتقال کر گئے ہیں..... جہان آباد میں صاف ماتم بچھ گئی۔

مہر النساء فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بڑے برآمدے میں بیٹھ جاتی تھیں۔ جہاں سے حویلی کا کچا صحن وسیع و عریض لان اور لنگر خانہ واضح دکھائی دیتے تھے۔ سیدھے ہاتھ چار شہتیروں پر لنگر خانہ تھا۔ مہر النساء صبح کی تسبیحات برآمدے میں بیٹھ کر پڑھتی تھیں۔ تخت پر بیٹھ کر وہ اس وقت تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ شکور جو صبح صبح بھینسوں کا دودھ اندر لاتا تھا، بھاگتا آیا اور تخت پر بیٹھی مہر النساء کے نزدیک فرش پر بیٹھ گیا۔

وہ دونوں ہاتھوں سے ماتھا پیٹ رہا تھا۔

”کیا ہوا شکور۔“ مہر النساء نے پریشان ہو کر پوچھا۔

”بڑی ملکانی جی وہ چھوٹے ملک.....“ شکور ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔

”شکور کیا ہوا چھوٹے ملک کو؟“ تسبیح اُن کے جھریوں بھرے ہاتھوں میں کانپی۔

”دل کا دورہ پڑھنے سے چلے گئے۔“

”کہاں چلے گئے؟ شکور مجھے سمجھ نہیں آرہی تم رو کیوں رہے ہو اور عمار علی کہاں چلا گیا ہے۔“ وہ تیز

آواز میں دھاڑ کر چیخیں۔ وہ زندگی میں آج پہلی بار اتنی اونچی آواز میں بولی تھیں۔

”ملکانی جی ہمارے چھوٹے ملک ہمیں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے۔“

سہرائی ماسی جو لنگر خانے میں صبح کی چائے بنا رہی تھی۔ شکور کے رونے کی آواز سن کر تیزی سے

برآمدے میں آئی۔ اُس کے پیچھے حمید بھی آئی۔ مہر النساء پھٹی پھٹی ساکن آنکھوں سے روتے بلکتے شکور کو

دیکھ رہی تھیں۔ وہ توبت کی صورت اختیار کر چکی تھیں۔

”کیا ہوا شکور۔“ ماسی سہرائی اور حمید کی اکٹھی آوازیں نکلیں۔

”ملک عمار علی کو دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گئے۔“ مہر النساء نے شکور کو گھورا جیسے کہہ رہی ہوں تیرے منہ

میں خاک۔ گاؤں کی عورتیں لڑکیاں روتی، مراد محل میں داخل ہو رہی تھیں۔ ایک کہرام مچ گیا تھا۔ مراد محل

کے اونچے گنبدوں والی حویلی کے درو بام ہل گئے تھے۔ یہ عالی شان بڑی حویلی جیسے کھڑے قد سے زمین

بوس ہو گئی تھی۔ بڑی بوڑھیاں نا سمجھ عورتیں سینہ کو بی کر رہی تھیں۔

مہر النساء تب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ گرا۔

”ملکانی جی! آپ کے عمار علی مر گئے ہیں۔ اور آپ یوں چپ چاپ بیٹھی ہیں۔“ عمر رسیدہ بھاگاں مائی



مہر النساء کے کندھے ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مہر النساء یوں ہی بیٹھی، روتی بین کرتی عورتوں کو دیکھتی رہیں۔ آس پاس رہنے والے گاؤں سے بھی ان کے رشتے دار آچکے تھے۔

خواتین دھاڑیں مار کر رو رہی تھیں ہر آنکھ اشکبار تھی۔  
ملک عمار علی کی میت اُن کے قریبی رشتے دار حویلی کے اندر لار ہے تھے۔ بہت مزارعے ریاست کے لوگ مردان خانے میں جمع تھے۔ جن کی چیخ و پکار کی آوازیں حویلی کے ہر در سے نوحہ کناں صورت میں لگ رہی تھیں۔

ملک عمار علی کی ڈیڈ پاڈی برآمدے میں آچکی تھی۔ سہرائی ماسی اور حمیدو نے پہلے ہی رنگین پاپوں سے مرصع پلنگ تخت پوش پر بیٹھی مہر النساء کے نزدیک بچھا دیا تھا۔ جس پر سنبل کے نرم گدے پر سفید چادر ڈال دی گئی تھی۔ ملک عمار علی کو بان کی کھر دری چار پائی سے اٹھا کر پلنگ پر لٹا دیا گیا اور پلنگ اس بدنصیب ماں کے مزید نزدیک کر دیا گیا۔ مہر النساء اب بھی ساٹ آنکھوں میں بے یقینیا لیے ٹکڑ ٹکڑ ملک عمار علی کو دیکھ رہی تھیں۔ جن کی پیشانی پر کثرت سے کیے گئے سجدوں کی وجہ سے محراب کا نشان اور روشن دکھائی دے رہا تھا۔ چہرے کی مسکراہٹ اور گہری ہو چکی تھی، شہد آ گیس آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ جیسے گہری نیند سو رہے ہیں۔ ایسی نرمی سے اُن کی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھیں بند تھیں، جیسے ابھی ماہین آئے گی تو اُس کے اٹھانے پر فوراً اٹھ جائیں گے۔

چھامو اپنے ننھے منے ہاتھوں میں اُن کے پاؤں دبوچے گا تو تب ضرور جاگ جائیں گے۔ حسان علی ایسے ہی کرتا تھا۔ اٹھتا گرتا، سوئے ہوئے ملک عمار علی کے بیڈ کے قریب آتا اور اُن کے پاؤں اپنے ہاتھوں کی گرفت میں جکڑنا چاہتا۔ ایک سالہ حسان علی کے ہاتھوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تب وہ اپنے کچھ کچھ نکلے دانت ملک عمار علی کے پیروں پر مارتا..... غا..... غا..... غا..... بابا..... بابا..... غا..... ما..... ما..... کی آوازیں نکالتا۔ مسکراتے ہوئے ملک عمار علی نہایت عجلت میں اٹھتے۔

”ٹھہر تو جا!“ کہتے ہوئے چھامو کو اپنی مضبوط بانہوں کے حصار میں چھپا لیتے۔

”اب بتا چھامو ذرا دانت کاٹ مجھے، بول..... بولو چھامو۔“ وہ زور سے ہاتھ پاؤں چلاتا اور خوش ہوتا۔

”باپ بیٹا مجھے سونے دو گے یا نہیں۔“ ماہین چہرے پر تکیہ رکھے رکھے بولتی۔ مسکراتے ہوئے ملک عمار علی چپکے سے حسان علی کو ماہین کی طرف دھکیل دیتے۔

”ما..... ما..... اماں۔“ وہ منہ کے بل ماہین پر جا گرتا۔

”بیگم صاحبہ اب سولو، صاحب زادے آپ کو اٹھا کر ہی رہیں گے۔“

لیکن اب حسان علی کے اٹھانے سے بھی ملک عمار علی نے نہیں اٹھنا تھا۔ حکمِ ربی یہی تھا۔ مہر النساء اب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھیں اپنے چھتیس سالہ کڑیل بیٹے کے لاشے کو گھور رہی تھیں۔ اُن کے ہاتھ میں لڑنی تہیج کے دانے تیزی سے گر رہے تھے۔

”بھر جائی جی عمار علی مر گیا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتیں۔“ قاسم علی کے چچا زاد نذر علی مہر النساء کے قریب آ کر کہہ رہے تھے۔



”آہستہ بولونڈ رعلی امیر اعمار علی سورہا ہے۔ دیکھو تو وہ کتنی گہری نیند میں ہے۔ اُن سب کو بھی منع کرو۔ یہ عورتیں کیوں رورہی ہیں۔ شور نہ کرو۔“

”بھر جانی جی جتنا بھی شور ہو جائے اعمار علی اب نہیں اُٹھے گا۔ یہ مر گیا ہے۔ آپ کیسی ماں ہیں۔ آپ کا بیٹا مر گیا ہے اور آپ کی آنکھیں ٹٹک ہیں۔“

”ملکانی جی چھوٹے ملک مر گئے ہیں! آپ کو کیوں نہیں پتا چل رہا یہ ابھی چلے جائیں گے۔ وڈے ملک قاسم علی کے پاس۔“ صاباں مالی بین کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ لیکن مہر النساء صورتیں پڑھ پڑھ کر ملک اعمار علی پر پھونکتی رہیں۔ لال رنگ کی کم خواب کی چادر ملک اعمار علی پر ڈال دی گئی تھی۔ ملک شاہ جہان کی یہ قدیم حویلی عورتوں سے بھر چکی تھی۔ آس پاس کے دیہاتوں اور شہر میں ملک اعمار علی کے انتقال کی خبر پھیل چکی تھی۔ لوگ جوت جوت بھاگے آرہے تھے۔ جہاں تک نظر اٹھتی لوگ ہی لوگ دکھائی دیتے۔ جہان آباد کی فضا افسردہ تھی۔ بچہ بچہ اُداس تھا۔ ابھی تو یہاں کے باسی ملک قاسم علی کو نہیں بھولے تھے۔ ملک قاسم علی کے جانے کے بعد ملک اعمار علی نے گاؤں والوں کو شفیق، مہرباں حاکم بن کر دکھایا تھا۔ وہ پورے گاؤں کے سربراہ تھے۔ کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا فوراً منشی یا کاردار پہنچ جاتے مدد کے لیے۔ کنو کا آدھا باغ گاؤں والوں کے لیے وقف تھا۔ ایک ساتھ پھل اُتار جاتا تو ہر گھر میں پچاس کنو کی ڈھیری تقسیم کی جاتی۔ آج جہان آباد کا ذرہ ذرہ اُن کے سوگ میں نڈھال تھا۔ قیامت صغریٰ کا عالم تھا۔

ملک مصطفیٰ علی اور ماہین ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ لوگ حیرت میں تھے۔ کیا ملک اعمار علی فوت ہو گئے۔ ایسا تذکرہ کرنا بھی سب کو عجیب لگ رہا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی اور ماہین ابھی پہنچے تھے۔ اہل ابھی راستے میں تھی۔

صدے سے ملک مصطفیٰ علی اور ماہین نڈھال تھے۔ ملک مصطفیٰ علی نے جب اپنے باپ جیسے بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو صبر کی طنائیں چھوٹ گئیں۔

”لالہ میں آ گیا ہوں۔ اُٹھ جائیں بہت سولیا اب بس کریں، آپ کا چھامو آیا ہے اُسے تو دیکھیں۔ آپ کو کیسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی! میرے ماں جائے! مذاق بہت ہو گیا۔ اب اُٹھ جائیں۔ ہمیں نہ ستاؤ لالہ اُٹھ جاؤ۔ خدا کے واسطے اُٹھ جاؤ۔ چھامو تم اپنے بابا کو اٹھاؤ۔“

ملک مصطفیٰ علی اعمار علی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے بلک بلک کر دھاڑیں مار رہے تھے۔

”ماں جی دیکھیں تو آپ کا راج دلا را بیٹا ہمیں کتنا تنگ کر رہا ہے۔ لالہ میرے یار! میرے سنگی! میرے بھائی! ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ ماہین دیکھو تمہارا اعمار علی نہیں اُٹھ رہا۔“

اس وقت نڈھال سی ماہین بت بنی اعمار علی کے سامنے کھڑی تھی۔ بے آواز آنسو اُس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ دریاؤں جتنا پانی اُس کی آنکھوں میں کہاں سے آ گیا تھا۔ وہ دل میں کہہ رہی تھی۔

”عمار میں آپ کو بہت ستاتی تھی ناں! میں نے بار بار آپ کا دل دکھایا۔ آپ کو رنجیدہ کیا۔ اسی لیے ایسی سزا آپ نے میرے لیے تجویز کی ہے۔ اب میں بھی تمام عمر آپ کے لیے اسی طرح تڑپتی رہوں گی جس طرح آپ میرے لیے دکھی ہوتے تھے۔ آپ کو پکارتی رہوں گی اور آپ بے اعتنائی برتتے ہوئے میری پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ مڑ کر میری جانب نہیں دیکھیں گے۔ عمار کبھی کسی شوہر



نے اپنی بیوی کو اتنا نہیں چاہا ہوگا جس قدر آپ نے مجھ سے محبت کی۔ اب آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ کیسی سزا آپ نے میرے نصیب میں لکھ دی ہے۔ اس بچے کا کیا قصور ہے جو ابھی تک اس دنیا میں آیا نہیں۔ کیا وہ پیدائشی یتیم کہلائے گا۔ میرے مالک! ہم اپنی بڑی آزمائش کے قابل تو نہیں تھے۔ اللہ پاک میں نے ابھی ابھی تو عمار کے ساتھ زندگی کو جینا شروع کیا تھا۔ اتنی کم زندگی لے کر وہ اس دنیا میں آئے تھے۔ ابھی تو ان کا چھما مو ایک سال کا ہے اور دوسرا، ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں اُس کے آنے سے پہلے اُس کے باپ کو بلا لیا۔“

اچانک سے دل دہلا دینے والی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ اہل ملک مصطفیٰ علی کے گلے لگی ہوئی تھی۔ وہ ہندیانی انداز میں تڑپ تڑپ کر چیخ رہی تھی۔ دلخراش چیخوں سے اہل کا گلا کٹ رہا تھا۔

”میرا بھائی..... میرا بھائی، جہان آباد کے لوگوں میرا لالہ مر گیا۔ میں آج دوسری بار یتیم ہو گئی۔ میرا باپ جیسا بھائی مر گیا۔ یہ تو سوئے ہوئے ہیں اٹھ جاؤ لالہ۔ خدا رسول ﷺ کا واسطہ ہے میرے بھائی اٹھ جاؤ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ آپ کے بنا ہم کس کام کے ہیں۔“ اہل ملک عمار علی کو دونوں کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑ رہی تھی۔ تب ایک عورت نے اہل کے سر پر دلا سے بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

”تمہیں صبر کرتے ہوئے اللہ کی رضا ماننی ہوگی۔“

”پھوپھی ماں عمار سے کہیں اٹھ جائیں یہ اتنی دیر تک کبھی نہیں سوئے۔“ ماہین مہر النساء کے گلے لگی سکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔

”ماہین میں تو کب سے تیرے عمار علی سے کہہ رہی ہوں بہت سولیا اب اٹھ جاؤ لیکن یہ آج ہماری کوئی منت سماجت نہیں سن رہا۔“ نڈھال سی مہر النساء ٹوٹے پھوٹے لہجہ میں بولی تھیں۔

”بھر جائی جی آج یہ کسی کی نہیں سنے گا۔ آپ سب اسے اللہ کے سپرد کر دیں اب وہی اس کی مدد کرے گا۔ انشاء اللہ خدا میرے عمار علی کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ نذر علی تم بھی اللہ سے اس کی مغفرت کی فریاد کرو۔ اس نے ہمیشہ اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کی۔ اللہ کی فرمانبرداری کی پوری کوشش کی۔ یہاں موجود لوگوں سے پوچھ لو آج تک عمار علی نے کسی سے تلخ کلامی نہیں کی۔ آنے والے سائل کو یوں ردانہ کرتے کہ ان کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتانا نہ چلتا۔“ ملک نذر علی عمار علی کے تلخ بستہ گالوں پر ہاتھ لگاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔

”عمار پتر جانے کی تو ہماری باری تھی تم چلے گئے۔“ ایک سالہ حسان علی ماں کے گلے لپٹا ہوا۔ رش و شور دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ اہل کی حالت بہت بری تھی۔ یہ کیسا دن چڑھا تھا۔ جس نے سب کو اشکبار کر دیا تھا۔

گزرتے لمحے اُداسی میں سسک رہے تھے۔ آسمان بادلوں سے ڈھک چکا تھا۔ آج پروائی (ہوا) میں وہ شگفتگی نہیں تھی۔ اُس کا وجود بھی سلگ رہا تھا۔ سرسراہتی ہوا کے دوش پر ایک دوسرے کے پیرہن سے چٹے پتیوں کی نوحہ کناں سرگوشیاں ابھرا بھر کر ڈوب رہی تھیں۔ آج سورج آسمان کے سینے پر براجمان تو تھا لیکن بادلوں کی اوٹ سے نکل نہ پارہا تھا۔ آج جہان آباد کی انچ انچ پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ اب جہان آباد کے ملک عمار علی کا وقتِ رخصت آن پہنچا تھا۔ روکنے والے تو بہت تھے لیکن وہ رُک نہیں سکتے تھے۔

اُس دیس جانے والوں کو کہاں روکا جاسکتا ہے۔ انہیں تو ہر صورت جانا ہی ہوتا ہے۔ ملک عمار علی بھی رُکنے



والے نہیں تھے۔ انہیں اپنے اصلی گھر جانا تھا جہاں کے وہ مکین تھے۔ یہاں تو تھوڑے عرصہ کے لیے آئے تھے۔ وہاں جانے کے لیے سامان انہوں نے بہت پہلے سے جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ رب کائنات کے حکم کو بجالاتے ہوئے اُس کی فرمانبرداری میں جو سامان اکٹھا کرتے رہے، ساتھ ساتھ بھجواتے رہے۔ اب تو انہیں چند گز سفید چادر کے لباس میں یہاں سے جانا تھا۔

اس وقت ملک مصطفیٰ علی کی حالت بہت خراب تھی۔ انہیں کوئی ہوش نہیں تھا۔

”ماں جی اپنے گہر پتر کو آخری بار مل لیں اُس نے اب لوٹ کر نہیں آنا۔ یہ بابا جان کے پاس جا رہے ہیں۔“ ملک مصطفیٰ علی ساکن بیٹھی ماں جی کے گال تھپتھا کر کہہ رہے تھے۔ اماں جی اٹھ جائیں اور آخری بار لالہ کو دیکھ لیں، مل لیں۔ اُن کا آپ کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ ماں جی کہیں تمام عمر یہ کک آپ کے دل میں نہ رہ جائے کہ آپ نے آخری بار اپنے سوہنے پتر کا ماتھا نہیں چوما۔“ ملک مصطفیٰ علی نے بمشکل مہر النساء کو تخت پوش سے نیچے اتارا اور سہارا دیتے ملک عمار علی کے پلنگ کے نزدیک لے آئے۔ لوگ خود بخود پیچھے ہٹتے چلے گئے۔

”عمار علی میں کیسے یقین کر لوں۔ پتر شام ہونے والی ہے، اب اٹھ جاؤ۔ عصر اور شام کے درمیان نہیں سونا چاہیے۔ تو ہی تو یہ کہا کرتا تھا۔ جیون جو گے (زندہ رہنے والے) اٹھ جا! دیکھ تو تیرا حسان کب سے تجھے اٹھا رہا ہے۔“ مہر النساء نے نرم پوروں سے اُن کے ٹھنڈے تیخ گال چھوئے پھر پوری ہمتیں اکٹھی کر کے اپنے لرزتے نحیف الوداعی ہونٹ ملک عمار علی کی روشن پیشانی پر رکھ دیے۔ پھر اُن کی پیشانی پر نمایاں محراب پر اپنی کمزور انگلیاں لگا کر آنکھوں سے لگا لیں تو مہر النساء کی آنکھوں سے ایسا بھرا آنسو دس کاریلہ پھوٹا جس پر کوئی بند نہیں باندھ سکتا تھا۔ فرش پر اک بدنصیب لاغراں کا وجود پڑا کانپ رہا تھا۔ اور اُن کے لاغرا ہاتھ، ملک عمار علی کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ غلاف کعبہ کے چند سیاہ دھاگے اُن کی آنکھوں پر پلکوں کے ادھر رکھے ہوئے تھے۔ جو ملک عمار علی کی بند آنکھوں کو قدرتی چمک و انوکھی جج دھج عطا کر گئے تھے۔

مہر النساء کا سکتہ ٹوٹا تو آنسوؤں نے آنکھوں کی ندی کو جل تھل کر دیا۔ درختوں پر تیزی سے جھکتے غمگین دہڑ ملال سائے گہرے ہونے لگے تھے۔

سورج کا انکارے کی شکل کا بڑا سا گولا اپنی لالی دور تک پھیلاتا آہستہ آہستہ اُفق کے پار اپنی بنفشی کرنیں دھرتی کے کشادہ سینے پر اپنا لمس چھوڑ رہی تھیں۔ جب جہان آباد کا سردار یہاں کی رعایا کا باپ کا ڈوں والوں کو یتیم کر کے جا رہا تھا۔ کسی کی آہ و پکار ملک عمار علی کو نہ روک سکی۔ ان کے دادا ملک مراد علی کا انتقال بھی ہارٹ اٹیک سے ہوا تھا۔ ملک قاسم علی کو بھی دل کا دورہ پڑا تھا۔ اب ان کی تیسری پیڑھی کے ولی عہد ملک عمار علی بھی دل کے دورے سے چل بے تھے۔

ملک عمار علی جس کی وجہ سے کئی گھروں کے ٹھنڈے چولہے جلنے لگے تھے۔ اب اپنے حصے کا دانہ پانی سمیٹ کر اس دنیا کے تمام کھاتے بے باک کر کے جا رہا تھا۔ اپنے اصلی سفر پر نہ ہی انہیں جوان بیوی کی سسکیاں روک سکیں۔ نہ چھوٹا بھائی اپنا مضبوط بازو ٹوٹ جانے پر، واسطہ دے کر روک سکا نہ اکلوتی عزیز از جان بہن کی دریا بختی آنکھیں انہیں روک سکیں۔ نہ ہی ایک سالہ چھامو کی حیران آنکھیں انہیں



مناسکیں، نہ ہی نحیف ماں کا زخمی دل، ان کا بڑھا پاپا، اُن کی بیوگی ملک عمار علی کو روک سکی۔ جانے کی عمر تو ماں کی تھی پر جوان بیٹا چلا گیا۔ اگر اُن کا بس چلتا تو بیٹے کی جگہ خود چلی جاتیں۔ جو سچے رب کا حکم وہی بندے کے لیے لازم، صبر تو ہر صورت آجاتا ہے لیکن اس کے لیے طویل مدت و عمل کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے۔ وقت بڑا میچا ہے، وہ اپنی مرہم کے پھائے سے گہرے زخم بھی مندمل کر دیتا ہے۔

مہر النساء نے ایک گہری چپ سادھ لی تھی۔ ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی عبادتِ الہی میں مشغول رہتیں۔ تخت پوش پر بیٹھی تسبیح پڑھتیں۔ وہ ٹکر ٹکر حویلی کے صدر دروازے کی طرف دیکھتی رہتیں۔ اُنہیں لگتا ابھی ملک عمار علی حویلی کے اس لکڑی کے دروازے سے نمودار ہوں گے۔ اُن کی نگاہیں بدستور ماں جی پر گڑی ہوں گی۔ ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ سجائے تیز تیز ڈگ بھرتے برآمدے کی ٹائلز کی جوڑی سیڑھیاں چڑھتے اُن کے قریب آئیں گے۔

”السلام علیکم یاں جی!“ وہ اُن کے کمزور ابھری نسوں والے دودھیہا ہاتھ جن میں ہمیشہ فیروزے کی دو انگوٹھیاں سجی رہتی تھیں۔ ماں کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگائیں گے۔ تب ماں جی دبی دبی مسکراہٹ چہرے اور آنکھوں میں سجائے۔ اُن کی درازی عمر کی دعائیں مانگتی رہیں گی۔ عمار علی نے نہ آنا تھا، نہ وہ آئے۔ کئی لوگ اس دروازے سے حویلی میں داخل ہوتے جس کا مہر النساء کو انتظار رہتا وہ نہ آیا۔ اُن کی آنکھوں کی جوت ماند پڑنے لگی۔ ماہین زبردستی انہیں اُن کی خواب گاہ میں لے آتی۔ انہیں چند لقمے کھلاتی اور دوا دے کر بستر پر لٹا دیتی۔ تب ماہین اُن کی نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے اُداسی سے مسکراتی اور اُن کے ساتھ بیڈ پر لیٹ جاتی اُن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتی، دوسرے ہاتھ سے اُن کا کندھا تھپتھپاتی رہتی جیسے کسی ضدی بچے کو ماں محبت سے سنبھالتی ہے۔

☆.....☆.....☆

ملک مصطفیٰ علی کو اب زیادہ تر جہان آباد میں رہنا پڑتا تھا۔ پہلے تو ملک عمار علی نے یہاں کے تمام معاملات سنبھال رکھے تھے۔

جہان آباد نوڈز فیکٹری کی ذمے داری فی الحال زیدی صاحب کے سپرد کر دی تھی۔ زیدی صاحب قابلِ اعتبار شخصیت تھے، جو ملک مصطفیٰ علی کو کبھی مایوس نہیں کر سکتے تھے۔ بلال حمید پر بھی انہیں بھروسا تھا۔ پر چیز کا لبا چوڑا سلسلہ وہی تو سنبھال رہا تھا۔ بلال حمید اس بات کو بخوبی سمجھتا تھا۔ جب کوئی بھروسہ کرتا ہے تو اُس کے اعتماد کو بحال رکھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ بلال حمید کو اب کسی قسم کا لالچ طمع نہیں تھا۔ وہ خدا کی رضا پر راضی و شاکر تھا۔ زیادہ کی حُب اب اُس کے دل میں نہیں رہی تھی۔ ہر رات وہ پیٹ بھر کر سوتا تھا کیا یہ کم کرم تھا پروردگار کا اُس پر۔ پھر وہ زیادہ کا حرص کیوں کرتا۔

☆.....☆.....☆

جس صبح ملک عمار علی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اُم فروان نماز کے بعد قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ ہاتھ میں تسبیح پکڑے صحن میں آگئی۔ نہ سمجھ آنے والی بے کلی چھا رہی تھی اُس کی طبیعت پر۔ یہاں بھی اُسے بے قراری رہی تو نے تلوے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آگئی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ تسبیح اب بھی اُس کے ہاتھ میں لپٹی تھی۔ موبائل اسکرین پر ملک مصطفیٰ علی کا نام چمک رہا تھا۔ یا اللہ خیر اتنی صبح اُن کا فون؟



WWW.PAKSOCIETY.COM  
سلام کرنے کے بعد اُم فروا نے عجلت سے پوچھا۔

”خیریت آج آپ نے صبح صبح فون کیا ہے۔“

”اُم فروا عمار لالہ کو ہارٹ اٹیک کا شدید حملہ ہوا ہے۔ میں اور ماہین ابھی ابھی جہان آباد کے لیے نکل

رہے ہیں دعا کرنا اللہ پاک میرے بھائی کو بڑی زندگی دے۔“

فون بند ہو چکا تھا۔ اُم فروا پریشان ہو گئی تھی۔ وہ دیر تک ملک عمار علی کے صحت یاب ہونے کی دعائیں کرتی رہی۔

”ملک مصطفیٰ علی اپنے بھائی کی وجہ سے بہت پریشان معلوم ہو رہے تھے۔ اُم فروا پریشان دکھائی دے

رہی تھی۔ ہر ہر پل اُس کے دل سے عمار علی کی دراز زندگی کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ آج اُس نے ناشتا بھی نہیں کیا تھا۔ بے بے جی فکر مندی سے اُسے دیکھتی رہیں۔ آخر وہ بول ہی پڑیں۔

”اُم فروا ناشتا کیوں نہیں کر رہی ہو؟“

”بے بے جی دل نہیں چاہ رہا۔“

”بچے خالی پیٹ رہنا اچھا نہیں ہوتا۔ نیم گرم دودھ کا ایک گلاس لے لو۔“ بے بے جی کا دھیان مسلسل اُم فردا کی طرف تھا۔

”دودھ تو نہیں چائے لے لیتی ہوں۔ اُم زارا مجھے چائے دے دو۔“

”یہ لیں آپ! اُم زارا نے کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ گرم چائے کی ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے

اُس کا دماغ ملک عمار علی کی طرف ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ بے بے جی کو کبھی نہیں بتا سکتی تھی ورنہ وہ پوچھتیں۔ تمہیں کس نے بتایا تو وہ کیا جواب دیتی۔ وہ منتظر رہی ملک مصطفیٰ علی کے فون کی کہ وہ عمار علی کی بابت اُسے بتائیں گے کہ وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔

ظہر کی نماز پڑھ کر مولوی صاحب مسجد سے آئے تو پریشان تھے۔ مولوی صاحب برآمدے میں چار پائی پر آ کر بیٹھ گئے۔

”مولوی صاحب خیریت تو ہے آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔“ بے بے جی اُن کی جانب

متوجہ ہوئیں۔ داڑھی پر وہ بے چینی سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ قریب بیٹھی اُم فروا کی سانسیں رُکی جا رہی تھیں۔ مولوی صاحب کی آنکھوں میں اُذا سی تھی۔

”تھوڑی دیر پہلے ملک مصطفیٰ علی کا فون آیا تھا۔“

”خیریت۔“ بے بے جی فوراً سے پہلے بولیں۔

”اُن کے بڑے بھائی ملک عمار علی کا انتقال ہو گیا ہے۔“

”انا للہ وانا الیہ راجعون۔“ بے بے جی نے با آواز بلند پڑھا۔ قریب بیٹھی اُم فروا نے بھی دل میں

پڑھا۔ اچانک سے اس پر نقاہت طاری ہو گئی تھی۔ ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ بمشکل اٹھی اور اپنے

کمرے میں آ گئی۔ بے حد افسوس ہوا تھا اُسے۔ جانے ملک مصطفیٰ علی کی کیا حالت ہوگی۔ اُن کی بیوی اور

ماں کس کرب سے گزر رہی ہوں گی۔ میرے رب رحم فرما۔ اُم فروا کا دل پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ وہ

ایسا کیوں محسوس کر رہی تھی؟ اُس کا اُن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ ملک مصطفیٰ علی کے بھائی تھے۔ شاید اس وجہ



سے وہ اس حد تک افسردگی میں تھی۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ بے اطمینانی اُس کے روم روم میں اتر رہی تھی۔ اُس نے قرآن پاک کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔

دو دن بعد اُم فردا کو ملک عمار علی کا فون آیا تھا۔ ”اُم فردا میں نے مولوی صاحب کو اطلاع دے دی تھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا۔ عمار لالہ کا انتقال ہو گیا ہے۔“

”جی پتا چل گیا تھا۔ بہت افسوس ہوا ہے۔“ اُس کی آواز میں اضمحلال تھا۔

”خدا کا یہی حکم تھا۔“ وہ اُداس تھے۔

”اللہ پاک انہیں اپنے جوارِ رحمت میں انشاء اللہ بہترین مقام عطا فرمائے گا۔“

”آمین۔“ ایک بارگی ملک مصطفیٰ علی کے ہونٹوں سے پھسلا۔

”اُم فردا خدا سے ہم سب کے لیے صبر کی دعا ضرور کریں۔“

”کیوں نہیں۔“ وہ بولی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی کی اُداس آواز نے اسے بھی افسردہ کر دیا

تھا۔ اُن کا کم سن بچہ، جوان بیوی اور آنے والا بچہ جو تیسری کے ساتھ دنیا میں آئے گا۔ اللہ پاک غیب کا علم تو ہی جاننے والا ہے۔ تیرے حکم کے سامنے کسی کی کیا مجال۔“

کافی دن گزر گئے ملک مصطفیٰ علی کا کوئی فون نہ آیا۔ وہ غیر ارادری طور پر اُن کے فون کی منتظر رہی۔

☆.....☆.....☆

مولوی صاحب اور اسماعیل بخش جہان آباد افسوس کے لیے گئے تھے۔ ملک مصطفیٰ علی غم سے چور تھے۔ مولوی صاحب نے انہیں تسلی و تشفی دی تھی۔ چند آیات پڑھ کر سنائی تھیں تاکہ اُن کا رنج و الم قدرے کم ہو سکے۔ ملک مصطفیٰ علی ابھی تک سنبھل نہیں پارے تھے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ بندے کو خود ہی سنبھال لیتا ہے۔

تقریباً ایک مہینے بعد ملک مصطفیٰ علی کا فون اُم فردا کو آیا تھا۔ وہ بہت ٹوٹے ہوئے تھے۔ اُن کی آواز میں نوحہ کنائی تھی۔

☆.....☆.....☆

اس چھوٹی سی غیر ذمے دار ماہین میں اتنا صبر کہاں سے آ گیا تھا۔ قدرت نے اُسے صدمہ دیا تو صبر کا پھاہا بھی خود ہی رکھ دیا۔ دو دن بعد ماہین کے مئی پاپا آیاں اور اسل بھی آگئے تھے۔ فوزیہ کا برا حال تھا۔ عم سے نڈھال تھیں۔ ملک عمار علی سے اُن کے کئی رشتے تھے۔ وہ اُن کے پیارے بھائی ملک قاسم علی کا لختِ جگر تھا۔ وہ اپنی پھوپھی کی گود میں بڑے ہوئے تھے۔ جو پھوپھی کا راج دلا راتھا اور جب ملک عمار علی فوزیہ کے داماد بنے تو انہیں اور پیارے ہو گئے۔ ہمیشہ فوزیہ نے بیٹی ہی کو سرزنش کی۔ کیونکہ وہ جانتی تھیں ملک عمار علی کبھی زیادتی کر ہی نہیں سکتے۔ وہ تو ماہین کو ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ ماہین کی بے اعتنائی کڑوی ترش باتیں ہنس کر درگزر کر جاتے۔ کیونکہ ماہی اُن کی شریکِ حیات تھی۔ اُن کی پیاری پھوپھی کی بیٹی تھی۔ اُن کی ماں جی کی بیٹی تھی۔ باپ کی بھانجی تھی۔ بھلا ملک عمار علی اس لڑکی سے اتنے رشتے رکھتے ہوئے اُسے کیسے دکھی کر سکتے تھے۔

ملک عمار علی کے ساتھ گزرا ایک ایک پل ماہین کو یاد آتا۔ وہ شکیل و وجیہہ، وہ خوبصورت باتیں کرنے



والا، ماہین کی محبت میں جذبات سے لدی آنکھوں والا، ماہین کی محبت میں دیکھنے لمحوں میں اپنی ہستی ماہین کے نام اغتساب کرنے والا۔ ملک عمار علی اپنی بے کراں یادیں اسے سوئپ گئے تھے۔

اپنے دو سہنے اس کی سپردگی میں دے گئے تھے۔ جن میں سے ایک کو انہوں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ الٹرا سائڈ میں یہ تو ملک عمار علی کو پتا چل گیا تھا دوسرا بھی اُن کا بیٹا ہے۔ ماہین کے پاس اب اُن کی یادوں کے سوا تھا ہی کیا۔ ماہین جب انہیں سوچنے بیٹھتی تو خود سے شرمندہ ہوتی۔ اُن کی بے انتہا محبتوں کے باوجود میں اُن سے بے رخی برت جاتی تھی۔ بار بار انہیں ہرٹ کرتی۔ وہ مسکرا کر اگنور کرتے ہوئے ٹاپک بدل دیتے۔ اُن کی محبت کی وارنٹی میں تب بھی فرق نہ پڑتا۔ میں ہی اُن جیسے شریف اور محبت کرنے والے شخص کی قدر نہ کر سکی۔ اسی لیے تو خدا نے میری ناقدری کی مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے۔ کاشان احمد تمہاری ممنون ہوں۔ در شہوار تمہاری شکر گزار ہوں۔ تم لوگوں نے مجھے سمجھایا۔ خدا کا صد شکر میں سدھر گئی۔ میں عمار سے محبت کرنے لگی۔ اکثر یہ احساس عمار کی آنکھوں میں غرور و گھمنڈ بھردیتا کہ اُن کی ماہین اُن کی جانب لوٹ آئی ہے۔ مختصر وقت جو اس کی زیست کا بہترین وقت تھا اُس نے عمار علی کے ساتھ بتایا تھا۔

مالک تیرا بہت شکر ہے جاتے ہوئے عمار مجھے چھامو کی صورت دنیا کی سب سے بڑی دولت سے نواز گئے۔ میں ہی غلط تھی۔ عمار بہت اچھے تھے۔ میں نے اُن کی قدر نہ کی اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ بچوں کی صورت جینے کی وجہ مجھے دے گئے۔ عمار آپ نے اور میرے رب نے مجھے اپنا مقروض بنا لیا۔ نماز تو وہ پہلے بھی پڑھتی تھی اب زیادہ خضوع و خشوع سے پڑھنے لگی تھی۔ راتوں کو اُسے نیند نہیں آتی تھی۔ اس کی نیندیں ملک عمار علی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے اب تہجد پڑھنے لگی تھی۔

☆.....☆.....☆

بلال حمید نے ملک مصطفیٰ علی سے نورین کے متعلق تفصیل کے ساتھ بات کی تھی۔ ملک مصطفیٰ علی نورین کو جانتے تھے کیونکہ وہ شاہ جہان فوڈز فیکٹری میں جا ب کرتی تھی۔

”بلال تم نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اگر واقعی تم سمجھتے ہو۔ وہ زندگی کے ہر مقام پر تمہارا ساتھ نبھا سکتی ہے تو اس سے بڑھ کر اچھی بات نہیں ہے۔ تم شادی کی تیاری کرو۔ اس نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ پیسوں کی فکر نہیں کرنا۔“

”ملک صاحب! ملک عمار علی کو گزرے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ میں تو بس سادگی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔“

”پھر بھی بلال پیسوں کی تو ضرورت پڑے گی۔“

”ملک صاحب میری سلیری ہی کافی ہے۔“

”بلال کپڑے زیور تو تمہیں بنانے ہی ہوں گے۔“

”ملک صاحب اُم فروا کو جو زیور میں نے ڈالا تھا وہ اُس نے واپس کر دیا ہے، بس وہی کافی ہے۔ کپڑوں کے چند جوڑے بھی بن جائیں گے۔“

”ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔“ ملک مصطفیٰ علی نے تجھے کے طور پر کچھ رقم بلال حمید کو زبردستی تمہادی تھی۔



”ملک صاحب اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے ہی آپ نے میرے لیے بہت زیادہ کیا ہے۔“  
 ”کوئی زیادہ نہیں کیا تم غیروں جیسی باتیں نہ کرو۔ ہاں سنو جو فرسٹ نمبر کی انیکسی ہے شادی کے بعد تم  
 وہاں شفٹ ہو جانا۔ وہ انیکسی مکمل طور پر فرسٹ ہے۔ چند ماہ پہلے اُسے پینٹ بھی کروایا تھا۔“

”ملک صاحب شکر یہ دراصل میں نے فیکٹری کے نزدیک ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا ہے۔“  
 ”ٹھیک ہے جیسے تمہاری خوشی۔ خدا تمہیں نئی زندگی مبارک کرے۔“  
 اس وقت ملک مصطفیٰ علی سوچ رہے تھے کہ بلال احسان تو تم نے مجھ پر کیا ہے اُم فرو جیسی دولت مجھے  
 سونپ کر۔“

”ملک صاحب ایک اور بات آپ کو بتانی تھی۔“

”بولو۔“

”فیری نیویارک شفٹ ہو گئی ہے۔ وہاں اُس کی خالہ زاد راکھی مارشل رہتی ہے۔ وہ اور اُس کا بیٹا عیسیٰ  
 فیری کو لے گئے ہیں۔ یہاں سے اپنا سب کچھ بیچ گئی ہے۔“

”بلال یہ تو اچھی بات ہے۔ اب تو اُس کی طرف سے لگی ٹینشن بھی ختم ہو گئی۔“

”جی ملک صاحب ایسا ہی ہے۔“

ملک مصطفیٰ علی بھی فیری کے چلے جانے سے مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔

☆.....☆.....☆

ماہین آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ در شہوار اور اریبہ، اس کے پاس جہان آباد آئی  
 تھیں، عمار علی کے افسوس کے لیے۔ اُن کے آجانے سے ماہین کو کافی ڈھارس ہوئی تھی۔ کاشان احمد بار بار  
 اُسے فون کر کے تسلیاں دیتا رہا۔ وہ جہان آباد آنا چاہتا تھا لیکن ماہین نے منع کر دیا تھا۔ احمد انکل اور افر  
 آئی کے بھی فون آئے تھے۔ اسے دیر تک نشئی دیتی رہیں۔ کاشان ہر تیسرے چوتھے دن ماہین کو فون کرتا۔  
 نئے سرے سے اس کی ہمت بندھا تا۔ وہ کہتا۔

”ماہی تمہیں خوش ہونا چاہیے، کچھ اچھا وقت تم دونوں نے اکٹھے گزارا۔ اب یہ احساس تمہاری روح کو  
 کچھ کے نہیں لگائے گا کہ تم نے ہمیشہ عمار علی کے ساتھ اذیت ناک بے رُخی برتی۔ تمہارا بچہ ہو بہو باپ کا ہم  
 شکل ہے۔ تم جب اپنے بچے کو دیکھو گی یہ احساس تمہیں تقویت بخشنے گا کہ ملک عمار علی اپنا ہم شکل  
 تمہارے پاس چھوڑ گئے ہیں۔ ناہی یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیا کرو۔ خدا ہمارے لیے جو کرتا ہے یہ اُس کی  
 رضا ہوتی ہے، پھر ہم رب کی رضا کو اپنی رضا کیوں نہ بنالیں۔“

”شان تم بہت اچھے ہو، خدا کا صد شکر اُس نے مجھے اتنے اچھے دوست عطا کیے۔“

”ماہی تم خود بہت اچھی لڑکی ہو۔ نہیں، بلکہ اب تو خاتون ہو خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میں ہمیشہ

تمہارے لیے دعا گو رہوں گا۔“ کاشان احمد دیر تک ماہین سے باتیں کرتا۔

اٹل واپس جا چکی تھی۔ می پاپا بھی چلے گئے تھے۔ ماہین کی عدت کا معاملہ تھا اور نہ وہ ماہی کو اپنے ساتھ امریکہ

لانے کی کوشش کرتیں۔ فوزیہ چاہ رہی تھیں کہ پاکستان واپس آ جائیں لیکن آیان اور ارسل کی پڑھائی ابھی باقی  
 تھی۔ جاتے ہوئے وہ ماہین کے لیے فکر مند تھیں۔ وہ بار بار می کو تسلی دے رہی تھی۔



”پلیز می میرے لیے پریشان نہ ہوں۔ بس آپ میرے لیے دعا کرتی رہا کریں۔ اب مجھے خود کو سنبھالنا آچکا ہے۔ میں چھامو کی ماں ہوں۔ خدا میرے بچے کو سلامت رکھے۔ دعا کرتی رہا کریں۔ میری عدت پوری ہو جائے گی تو مصطفیٰ بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈیں گے۔ میں چاہ رہی ہوں جلد اُن کی شادی ہو جائے۔ تب میری بھی بوریت ختم ہو جائے گی۔ ویسے تمام رشتے دار ہمارا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ گاؤں کی عورتیں روزانہ آتی ہیں۔ گاؤں کی چند لڑکیوں کی شادیاں تھیں۔ جنہوں نے عمار کی وجہ سے موخر کر دی تھیں۔ مصطفیٰ بھائی نے اُن سب سے کہا بھی ہے کہ آپ بچیوں کا فرض ادا کر دیں۔ لیکن وہ نہیں مان رہے۔ اپنے ملک عمار علی کے صدمے میں گاؤں والے بہت دکھی ہیں۔ اب تو پھوپھی ماں کو بھی مجھے ہی سنبھالنا ہے خدا مجھے ہمت دے۔“

فوزیہ ماں تھیں۔ ماہین کے لیے پریشان رہتی تھیں۔ جوان لڑکی ہے، کیسے تنہا رہے گی۔ زمانہ بہت خراب ہے۔ کیا اُسے سکون سے رہنے دے گا؟ قدم قدم پر اُسے مشکلات کا سامنا ہوگا۔ کتنی حالات سے نبرد آزما ہو پائے گی؟ کب تک لوگوں کی باتیں سُن سُن کر سہارتی رہے گی۔

☆.....☆.....☆

ملک مصطفیٰ علی نے اُم فروا کو بلال حمید کی شادی کے متعلق بتایا تھا۔ اُم فروا کے دل میں دو رنگ ایک سکون پھیل گیا تھا۔ لیکن اک اُن دیکھی پھانس بھاری سل کی مانند اس کے دل کو جکڑ چکی تھی۔ جو اطمینان وہ محسوس کر رہی تھی یہ شاید اسی کار و عمل تھا جس سے وہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ شام تک وہ نارمل ہو چکی تھی وجہ یہی تھی کہ کچھ عرصہ وہ بلال حمید کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہی تھی۔

☆.....☆.....☆

مہر النساء بھی ماہین کے متعلق سوچتی رہتیں۔ جو میں سوچ رہی ہوں اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ میری ماہین، میرا پوتا ہمیشہ میرے پاس رہیں گے۔ کیا ماہین مان جائے گی؟ اگر وہ مان گئی تو کیا مصطفیٰ علی مانے گا۔ مالک ہمارے لیے بہترین سبیل نکال۔ جو تیرا حکم وہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ تجھ سے بہتری کے خواستگار ہیں۔

ماہین کی عدت ختم ہو چکی تھی۔ وہ چیک اپ کے لیے لاہور آئی تھی۔ عدت کے دوران وہ سرگودھا میں چیک اپ کرائی رہی تھی۔ اپنی گانا کا لوجسٹ ڈاکٹر کے پاس، خادمہ گلنارا اور ملک مصطفیٰ علی کے ساتھ وہ ڈاکٹر صبا کے کلینک گئی تھی ماہین کا چیک اپ اور چند ٹیسٹ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صبا ملک عمار علی کی ناگہانی موت پر بہت افسوس کر رہی تھیں۔

”ماہین آپ خود کو جتنا خوش رکھیں گی، آنے والے بچے پر اچھا اثر پڑے گا۔“

اس نے اثبات میں آنکھوں کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ ماہین سوچ رہی تھی کسی کو کیا معلوم بظاہر وہ شخص مر گیا ہے لیکن وہ میرے اندر پل پل زندہ رہتا ہے۔ میری جاگتی آنکھوں میں، میرے خیالوں میں، خوابوں کے گھر وندوں میں وہ امر ہے۔ میری ہر ہر دھڑکن میں زندگی بن کر رہتا ہے۔ میں خود تو کہیں نہیں ہوں جدھر نظر دوڑاتی ہوں بس وہی ہے اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں۔ عمار کو یاد نہ کروں؟ بھولوں گی تو ہی یاد آئے گا ناں۔ وہ اپنی مخروٹی انگلیوں والے گلابی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے مسکراتی۔ اس کے خیالوں کے آنگینوں میں عمار علی جو مسکراتے تھے۔



ڈاکٹر صبا دیر تک اُسے سمجھاتی رہیں لیکن وہ اُن کی باتیں سن ہی کب رہی تھی۔ وہ تو عمار علی کی ہمراہی میں زمرد کی سبز واویلوں میں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے لمبی سیر کو نکلے ہوئے تھے۔

☆.....☆.....☆

اُم فروا کا خیال اب بھی ملک مصطفیٰ علی کا پیچھا کرتا تھا۔ اُم فروا کی عدت کب کی پوری ہو چکی تھی۔ ملک مصطفیٰ علی کو طرح طرح کے دوسے گھیرے رکھتے۔ اب مولوی صاحب اُم فروا کا نکاح کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ جلدی میں کہیں بھی اُس کی شادی کر دیں گے۔ وہ اُن کی بیٹی ہے لیکن میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں۔ مجھے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے اُن کے اندر زور سے قبضہ لگایا۔ جس کی کسلی بازگشت اُن کے کانوں میں ابلتا سیال انڈیل گئی۔ اُن کے احساسات باغی ہو رہے تھے۔ اندر سے باور کرایا جا رہا تھا کہ مصطفیٰ تم اُم فروا کو پسند کرنے لگے ہو۔ محبت کرتے ہو اُس سے۔ لیکن کیوں؟ اس کیوں کا جواب اُن کے پاس نہیں تھا۔

لمحے سرکتے رہتے انہیں پتا نہ چلتا، ان گنت ساعتیں دبے پاؤں اُن کے قریب سے گزرتیں۔ وہ یوں ہی سجدے میں پڑے رہتے۔ وہ اپنے معبود کو منا کر پوری ایمانداری سے خود کو اُم فروا کا طلب گار کہلانے کے قابل بنانا چاہتے تھے۔ بھائی کی جدائی سوہان روح تھی اُن کے لیے، اللہ کے حضور پیش ہو کر سکون مل جاتا۔ بھائی کے پچھڑنے کے زخم مندمل ہونے لگتے۔ جیسے پتی ریت پر چلتے چلتے اچانک ٹھنڈے سائے میسر آ جاتے ہیں۔

ملک مصطفیٰ علی کی روٹین تبدیل ہو چکی تھی۔ صبح کی نماز مسجد میں پڑھنے کے فوراً بعد ماں جی کو فون کرتے۔ اپنے دن بھر ہونے والی تفصیل انہیں بتاتے۔ ماں جی ریاست کو سنبھال رہی تھیں، ان کی غیر موجودگی میں اس کی بابت بات ہوتی پھر وہ تیار ہو کر فیکٹری کے لیے نکلنے لگتے تو ماہین سے تفصیلی بات ہوتی۔ زیادہ باتیں حسان علی کی ہوتیں۔ ملک مصطفیٰ علی، ملک عمار علی کا تذکرہ کرتے ہوئے کتراتے۔ اُن کی یہی کوشش تھی ماہین جلد سنبھال جائے۔ لیکن ملک مصطفیٰ علی کو کیا پتا تھا کہ ماہین ہر لمحہ جاں کنی میں وقت گزارتی ہے۔ وہ آنسو میڈیا کا شکار ہو چکی تھی۔ کیسے اُس کے ذہن پر برڈن نہ پڑتا۔ ملک عمار علی اس کی ہنسی کی جھنکاریں بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔

ملک مصطفیٰ علی کا بس چلتا تو اس پیاری سی لڑکی کی تمام اداسیاں اور آنسو اپنی جھولی میں ڈال لیتے۔ لیکن وہ خود بھائی کی ناگہانی موت کو سہا نہیں پارے تھے۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے فیکٹری جاتے تھے۔ چار بجے تک واپسی ہوتی پھر سو جاتے۔ اُم فروا کی ایک جھلک انہیں بے قرار کیے رکھتی لیکن ایسا کوئی اسباب نہیں بن رہا تھا کہ وہ اُسے اپنے سامنے پاتے۔ اُس لڑکی کے لیے یہ اُن کی کیسی تڑپ تھی۔ عشق تھا جو انہیں بے بس کیے جا رہا تھا۔ اُم فروا نے جب سے ملک مصطفیٰ علی کو اُن کے رب سے ملوایا تھا اپنے رب کے ساتھ ساتھ اُم فروا کے بھی مقروض تھے۔ اُن کا دل چلتا اندرا کھاڑ پچھاڑ شروع ہو جاتی۔

☆.....☆.....☆

ماں جی اب خوش رہنے لگی تھیں۔ ملک مصطفیٰ علی کے اندر کی تبدیلیاں دیکھ کر، ملک مصطفیٰ علی کی لائف یکسر بدل رہی تھی۔ اب وہ بڑے بڑے اجتماعات میں جانے لگے تھے۔ خطیب کے لیکچر اُن کے دل پر گہرا اثر چھوڑتے۔ مقرر کی خوش الحانی سے پُر تقریر ہمہ تن گوش سنتے ہوئے گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے۔ ڈانس پر کھڑے لیکچر دیتے، مقرر فرما رہے تھے۔

(عشق کی راہداریوں میں، زندگی کی صحیح بیانیوں کی چشم کشائی کرتے)

اس خوبصورت ناول کی اگلی قسط، انشاء اللہ آئندہ ماہ جولائی میں ملاحظہ کیجیے)

دوسرے شمارہ 227



## زنجیر اور تالا

”اس نیلی چھتری والے کے اشارے پر کھلی میرے بھائی۔ ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔“ تاؤ جی نے ٹوپی اتار اپنے گھنے سفید بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ دوبارہ ٹوپی سر پر دھری ”جب وہ ساعت آگئی تب نہ ایک منٹ آگے نہ پیچھے۔ آدمی خود بخود.....“

سوچ کے نئے دروا کرتا ایک بہت خاص انتخاب

ڈبسو کی موت کا واقعہ ایک مدت تک آنے جانے والوں کو سنایا جاتا رہا۔ ایسے میں آسمان یکدم چپ سادھ لیتا۔ اس میں تیرتی چیلیں ساکت ہو جاتیں اور درختوں کی شاخیں جھک آتیں۔ سارے





میں کچھ نارنجی مائل روشنی گھلتی محسوس ہوتی اور ایک لق و دق میدان کہ جس کا اور نہ چھوڑ اس کی آنکھ کے سامنے کھلتا چھپ جاتا۔ بڑا مانوس مگر کم شدہ۔ اسے اپنی بانہوں کے رد میں ٹک ٹک اٹھتے محسوس ہوتے۔ ڈبو بے حد ڈی کلاس کتا تھا کہ خود بخود گیٹ پر آن بیٹھنے لگا۔ ایک بار تاد جی نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا پھر وہ اپنے مقررہ وقت پر آ کر بیٹھ جاتا۔ قدرے انتظار کھینچتا پھر ایک روٹی ہوئی آواز گلے سے نکالتا۔ کوئی نہ کوئی بچی کھچی روٹی لے کر دوڑتا پھر اس نے ایک ایک قدم حدود توڑنا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے اس کا آسن برآمدے کی سیڑھی بن گیا۔ اب تاد جی دودھ پانی میں روٹی ڈال کر دینے لگے اور برابر کی سطح پر اس سے مکالے کی رسم ڈالی۔

”لے کھالے۔ آج تیری دعوت ہے۔ اوں ہوں۔ یہ چیچڑ کہاں سے آیا۔ بڑا آوارہ مزاج ہے۔ بھی ہیں!“ اب وہ چٹھی سے اس کی بھوری کھال صاف کرتے نظر آتے۔ ایسے میں وہ اپنا لبوترامنہ ان کے پاؤں سے رگڑے جاتا۔ رہ رہ کے اس کی کھال میں کپکپی دوڑتی اور دم کا پنڈلم بری طرح ہلتا رہتا۔ پھر وہ خانہ باغ کے انار تلے بیٹھنے لگا۔ انہی دنوں معلوم ہوا کہ آوارہ کتوں کو مارنے کی مہم زوروں پر ہے۔ میونسپلٹی کی گاڑیاں سڑک کنارے پڑے مردہ کتوں کو لاد لاد کر لے جاتی تھیں۔ تاد جی نے اب ایک ستا سا چاکلیٹی رنگ کا پٹا ڈبو کے گلے میں ڈالا۔ دراصل اس پٹے کے بعد ہی اس کا نام ڈبو پڑا۔

اس کی آوارہ مزاجی سے تنگ آ کر تاد جی نے اسے زنجیر کرنا شروع کیا۔ ہوتے ہوتے وہ تاد جی کے معمولات کا حصہ بن گیا۔ دن کا اکثر حصہ ڈبو بندھا رہتا۔ عصر کے بعد تاد جی مسجد سے لوٹتے تو اس کی رہائی ہوتی۔ کیسی کیسی الٹی چھلانگیں لگاتا۔ پھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر دم ہلا ہلا کے تاد جی کے گلے پہنچ جاتا۔ ایسے میں ہم سب ڈرائنگ روم کی جالی کے دروازے سے لگ کر کھڑے ہو جاتے تاد جی نہایت دوستانہ لہجے میں سمجھاتے۔

”اویار یوں نہیں کرتے۔ شاباش۔ چل ذرا گھوم پھر آ۔ جا.....“ وہ دم ہلاتا گیٹ کی طرف چل دیتا آنے جانے والوں نے سختی سے نوٹس لیا۔

”کتا پال لیا ہے۔ نجس جانور ہے۔ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں کتا ہو۔“

”رحمت کے فرشتوں کے لیے دوسرا گیٹ ہے۔“ تاد جی نہایت سنجیدگی سے اطلاع دیتے۔ ڈبو کے آنے سے اتنا ضرور ہوا کہ تفریحاً گھنٹی بجایا کر مانگنے والے اور گھروں کے پتے پوچھنے والے بالکل غائب ہو گئے۔ اس کی سہیلیاں پہلے فون پر اطلاع دے دیتیں۔ ”ہم آرہے ہیں وہ تمہارا ڈبو نام تو نہیں پوچھے گا؟“

یہ انہی دنوں کی بات ہے جب وہ کمزور ڈی کلاس ڈبو دودھ روٹی کھا کھا کے خوب فریبہ ہو گیا تھا اور اس کی کھال سفیدے کی مانند چمکنے لگی تھی اور اس کی سرمہ لگی آنکھیں روشن چمکتی آئیں میں جڑتی بڑی سمجھ داری سے ہر ایک کو دیکھتیں اور بات بات کی سن گن لیتیں۔ زور آور ایسا ہو گیا تھا کہ اکثر تاد جی کے قابو میں نہ آتا۔ لاکھ زنجیر کھینچتے ان کو بھی گھسیٹ لے جاتا۔ عجب عجب طرح کی آدازیں نکالنا اس کا مشغلہ بن چکا تھا۔ جس روز وہ زیادہ بدتمیزی کرتا تاد جی اس کی پابندی کے وقت میں اضافہ کر دیتے۔ وہ مالی کو حکم دیتے۔ ”آج اس کو پانچ نہیں ساڑھے پانچ کھولنا۔“

”لیو بھی آج تو تاد جی کو ناراج کر دیو۔ کیوں بھی ڈبو۔“ مالی اپنے سیاہ چمکتے چہرے پر ذہین لمبی لمبی آنکھوں میں ہنستا۔ جب پہلے روز فریدہ نے مالی کا نام سنا تو اس کا چہرہ کانوں کی لوڈوں تک دہک اٹھا۔ بڑی باجی مالی سلیم کو گل داؤدی کے گلے رکھنے کی ہدایات دے رہی تھیں۔

”یہ تمہارے مالی کا نام سلیم ہے؟“ اس نے نہایت رنجیدہ بلکہ زخم خوردہ ہو کر پوچھا۔ ”کیوں۔ ہے تو سہی۔“

”اتنا اچھا نام..... مالی..... یہ آیا کہاں سے ہے؟“



”معلوم نہیں۔“ اور واقعی انہیں کچھ معلوم نہ تھا۔ ان دنوں اکثر سرحد پار سے مہاجرین کسی ٹھکانے سرورٹ کوارٹر کی تلاش میں گھر گھر گھنٹیاں بجاتے۔ مالی سلیم ابا جی کے دفتر پہنچ گیا تھا اور وہاں سے گھر۔ دفتر اور گھر دونوں جگہ مالی گیری کرتا۔ خانہ باغ کے ساتھ ساتھ کوارٹروں کی لمبی قطار تھی۔ تعداد میں کل آٹھ کوٹھریاں تھیں۔ ایک آدھ کے سوا ساری پکی اینٹ کے فرش والی۔ ابھی تین کوارٹر خالی پڑے تھے۔ ایک میں مالی سلیم آن جما۔ وہ تنہا تھا۔ پوربی تاؤ جی جب موڈ میں ہوتے تو اسے یورپ کا بھیا کہہ کر پکارتے۔ روزانہ صبح سویرے جب اسکول بس اسٹاپ کے لیے وہ سڑک پر نکلتی۔ مالی سلیم انتہائی سفید جگمگاتے کپڑے پہنے۔ ہاتھ میں سلور کا ٹفن گیریئر پکڑنے کا کام پر جا رہا ہوتا۔ تنگ موری کا پاجامہ کرتا اور صدری۔ سر پر کالی ٹوپی اور جگمگاتے جوتے۔ وہ ہرگز مالی نہ لگتا تھا۔ جب کوارٹروں کے آخر میں لگے بھوری بھینس کے چھپر میں آنا جانا ہوتا تو مالی سلیم کی کوٹھریاں سب سے الگ صاف ستھری چمکتی نظر آتی۔ فرش کی سرخ اینٹیں اتار کے دانوں کی طرح چھپاتیں۔ ایک طرف چار پانی پر کالا سفید ڈبے دار گھیس بچھا ہوتا۔ سامنے دیوار میں بنے طاق پر جگر جگر کرتی ایلو مونیئم کی پتیلیاں اور بھوری پھولدار پیالیاں۔ اسے حیرت ہوئی مرد بھی اتنے اچھے برتن دھوتے ہیں اور جھاڑ ڈھنڈھن گھوم کر دیکھتی مالی گھر کی دھوئی اور صدری پہنے کھر پی لیے کیاریاں کھود رہا ہے۔ ہاتھ مٹی میں سے ہیں۔ یہ پہلے مالی سے کتنا مختلف تھا۔ وہ چھوٹے سے قد اور گھٹے جسم کا پھر کی طرح گھومنے والا مالی پانچ منٹ میں ناچتا کودتا پودوں کو گنجا کیا پانی دیا اور سائیکل پر یہ جا وہ جا۔ بڑے بھیا نے اس کے نوارے پر سفید پینٹ سے ”مالی بھیری“ لکھ دیا تھا۔ اگلے ہی روز وہ بچوں کی بدتمیزی کا عذر کر کے چل دیا مگر یہ مالی سلیم زمین پر کیسے جھے جھے قدم ڈالتا۔ اس کی ہر حرکت میں توازن کا احساس ہوتا تھا۔ اسے فریدہ کا سوال پھر یاد آ گیا۔ ”یہ ہے کون؟“

بھری گرمیوں کی سنسان دوپہر اس کے کوارٹر سے سسکیوں کی آواز آئی۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا مگر سامنے تو کھٹے کی باڑ آ جاتی تھی۔ سب کمرے اندھیرے کیے سو رہے تھے۔ اس نے چپکے سے دروازے کی چٹنی کرائی۔ لان کی سوکھی گھاس پار کرتے کرتے اس کے تلوے چلچلانے لگے۔ مالی کے کوارٹر کی دلہیز برلمل کا دھانی دوپٹہ اوڑھے ایک سانولی سی عورت بیٹھی ہچکیاں لے رہی تھیں۔ اس کی پتلی لمبی چٹیا کمر پر ہلکورے کے ساتھ لرز جاتی۔ بانہوں میں ہری اور بستنی کالج کی چوڑیاں سیاہ لمبے بال سیدھی مانگ۔ وہ حیرت سے کھڑکی دیکھتی رہی مالی غائب تھا۔

شام کو تاؤ جی نے بتایا مالی سلیم کی بھانجی ہے۔ اس کا آدی ہندوستان میں تھا گزر گیا۔ ایک دم اس کا دل ڈھے گیا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ کچھ لوگ ادھر کچھ ادھر اتنی دور اس کی آنکھوں میں لمبی چٹیا کمر اور سبز چوڑیاں گھوم گئیں۔ اب شاید یہ اپنی چوڑیاں توڑ دے گی۔ تو پھر مالی سلیم کے لوگ کہاں ہیں۔ وہ تنہا کیوں ہے۔ شاید اس کے سب عزیز بھی ادھر ہی ہیں۔ وہ یہاں تنہا کیا کر رہا ہے اور پھر وہ اس کے نام پر ششدر رہ گئی۔ فریدہ کا سرخ چہرہ۔ ہاں کیا معلوم یہ کون ہے۔ یوں جما جما کر قدم دھرنے والا۔ شہزادہ سلیم۔ ان دنوں انمراء میں اتارنگلی ڈراما سٹیج کیا جا رہا تھا۔ صاحب عالم مہابلی شیخو زلارام۔ دمدموں میں دم نہیں اب خیر مانگو۔ اے ظفر بس ہو چکی اب تیرے ہندوستان کی۔ غدر کے افسانے شہزادی کی پینا اس کا تصور بھٹکتا چلا گیا۔

مالی کے معمول میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ اسی طرح سفید براق کپڑوں میں چمکتا ٹفن اٹھائے کام پر جاتا۔ کیاریوں میں بیج ڈالتا، نوارے سے پانی دیتا اور تیسرے پہر اس کے کوارٹر سے کیلا دھواں بل کھاتا، کھٹے کی باڑ کے پار اڑتا اور گول گول لہراتا فضا میں تحلیل ہو جاتا۔ لان کے پار کوارٹروں کے ساتھ



ساتھ عجب دنیا آباد تھی۔ اب ایک جانب ڈبو کا ٹھکانہ تھا۔ اسے بیری کے ساتھ باندھا جاتا تھا۔ کونے میں بھوری بھینس کا چھپر۔ ساتھ والے کوارٹر میں مرغیاں اور توڑی ملی جلی اور پھر آگے سب کے ٹھکانے۔ ڈرائیور عظیم جو عرف عام میں جیم کہلاتا تھا اور مالی پھر خانساماں فضل دین جو تیسرے پہر اپنا پھندنوں جڑا الغوزہ بجایا کرتا۔ شام ڈھلے کوارٹروں سے چار پائیاں باہر نکالی جاتیں۔ صاف ستھرے بستر بچتے۔ مالی ہاتھ کی چھوٹی سے حتی پیتا۔ بند مٹھی میں وہ پراسرار حتی ہوتی وہ انگلیوں کی جھونپڑی سی بنا کر منہ کے قریب لے جاتا۔ گڑ گڑ گڑ اور پھر تھوڑا سا دھواں۔ مغرب کی اذان درختوں درختوں ہوتی برآمدے میں اترتی کوارٹروں میں لالٹینیں روشن ہو جاتیں۔ ڈبو کی عجب کیفیت تھی۔ اذان پر ہولے ہولے رونے لگتا۔ اس کے گلے سے درد سے لرزتی باریک آواز نکلتی۔ ایسے میں آس پاس گھروں کی منڈیریں اور بھی تنہا اور خاموش ہو جاتیں اور درخت سراپا سماعت معلوم نہیں کن صداؤں کی لہریں جذب کرتے رہتے۔

وہ شدید گرمی کی شام تھی۔ درود یوار سے آج اٹھ رہی تھی۔ ابھی ابھی عصر کی اذان کے ساتھ ساتھ ڈبو وھاروں وھارو یا تھا۔ ایسے میں اس کے پورے جسم میں جھرجھری اٹھتی۔ اندر فضل دین میز پر شام کی چائے لگا رہا تھا۔

”چائے..... چائے.....“ چھوٹی پیالی پر چمچی کی تال بجا رہی تھی کہ اچانک سڑک پر تیز گھسنتی ہوئی بریک لگی۔ چر..... ر..... کچھ وقفہ..... اور پھر رواں دواں سواریاں۔ گھر لب سڑک ہوں تو دن رات ٹریفک کا ریل گاویا گھر ہی میں بہتا ہے۔

”مگر کھلا کیسے؟ یہ تو بندھا تھا۔ اس زنجیر کے ساتھ۔“ تاؤ جی ہاتھ میں ٹوٹی زنجیر لیے کھڑے تھے۔ ”میں نے خود اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا۔“ انہوں نے سوچتی آنکھوں سے سڑک کے پار دیکھا۔

سورج ڈوبنے کو تھا اور آسمان کناروں کناروں سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر روز ہی کی طرح اندھیرا ہوا۔ مغرب کی اذان گونجی اندھیرا پڑتے ہی مالی حتی گڑ گڑاتا تاؤ جی کے ساتھ تبادلہ خیال کرتا رہا۔

”مگر تاؤ جی۔ میں نے کھود دیکھا۔ اس زنجیر کے ساتھ بندھا تھا۔ میں ادھر درکھت تے بیٹھا تھا۔ ایک دم جیسے کسی بلاوے پر اس نے ایک جور لگایا۔ ایسا بھر کر جور لگایا۔ میں دیکھتا رہ گیا۔ مانو کسی نے کھود ہاتھ سے زنجیر کھول دی ہو۔ وہ تیر کی طریوں بھاگا۔ سیدھا اور اسی دم ادھر سے وہ اینٹوں کا ٹرک چلا آ رہا تھا۔ مانو اسی کی کھاتر اور سیدھا۔ اس کے اوپر سے گزر گیا۔ پر میں کہتا ہوں اس کی زنجیر کس نے کھولی؟“

”اس نیلی چھتری والے کے اشارے پر کھلی میرے بھائی۔ ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔“ تاؤ جی نے ٹوپی اتار اپنے گھنے سفید بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ دوبارہ ٹوپی سر پر دھری ”جب وہ ساعت آگئی تب نہ ایک منٹ آگے نہ پیچھے۔ آدمی خود بخود اپنی جگہ پر کھنچا جاتا ہے۔ یہ اس وعدہ نبھانے والے کا وعدہ ہے۔ چلو اب اس زنجیر کا کیا کرنا ہے۔“ انہوں نے زنجیر ایک طرف ڈھیر کر دی۔ پھر اٹھالی۔ اسے الٹا پلٹا۔ پھر زیر لب..... ”خود بخود زنجیر کی جانب کھنچا جاتا ہے دل۔ کھی اسی فولاد سے شاید میری شمشیر بھی۔“ مالی مفت میں شرمندہ پشیمان بیٹھا حتی گڑ گڑاتا رہا۔

اب مالی کی بھانجی اکثر آنے جانے لگی۔ اس کا سانولا دبلا پتلا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ کبھی وہ کپڑے دھونے والی صابن کی لکیر نظر آتی۔ جو چپ چاپ کھلتی چلی جاتی ہے۔ سردیوں کے آغاز میں دھنیا آنا خالی کوارٹر میں روٹی دھنائی جاتی اور چھت تک روٹی کے گالے برف ایسے سفید پہاڑ سا جمنا چلا جاتا۔ ادھر اس کی آواز۔ دھن۔ دھن۔ دھن۔ دھن۔ برابر کی چھوٹی چھوٹی آوازوں کے بعد ایک ترچھی پڑتی چوٹ۔ دھنیا مالی کا ہم وطن پوربی تھا۔ اس کی وہ لمبی سی کمان



مہارت لیے چلتی رہتی۔ لحاف بھرے جاتے۔ روئی کو چھڑی سے برابر کیا جاتا۔ ہلکی ہلکی چوٹ سے کنارے کنارے روئی پھیلائی جاتی اور پھر مالی کی بھانجی اس کا نام مہرن۔ یقیناً مہر النساء ہوگا۔ مہرن دالان میں فرش پر لحاف پھیلائے سر جھکائے ڈورے ڈالتی رہتی۔ کبھی اماں ادھر آن نکلتیں باتیں کرتے کرتے مہرن کی آنکھیں یکدم جل تھل ہو جاتیں۔

”اور مالی؟ اس کا کوئی نہیں؟“ اماں نے پوچھا۔  
 ”ماما..... ماما ہے دو بیٹے ہیں۔ نانی بھی تھی مگر گئی۔ ایک بیٹا تو بہت بیمار رہا۔ بہت یاد کرتا تھا۔ سب لوگ بہت روتے ہیں ماما تو بالکل.....“  
 ”چلو کبھی ان کو بھی یہیں لے آئے گا نا۔“ اماں نے تسلی دی۔

”بہت کوشش کی مگر پاسپورٹ نہیں بنتا۔ بند ہیں۔ بالکل نہیں بننے کے.....“

ابا جی بھی بہت بھلکرتے تھے۔ اماں کے بار بار کہنے پر بھی مالی کا پاسپورٹ نہ بنوا سکے۔ جانے سے ایک دو دن پہلے وہ بہت سا وقت کوارٹر میں گزارنے لگا تھا۔ کبھی رات گئے اس کی گہری کھر دری آواز لہر لہر کانوں سے نکراتی۔ ندی کنارے دھواں اٹھتے ہیں جانوں کچھ ہوئے جس کے کارن میں جوگن بھٹی وہی نہ جلتا ہوئے وہ جیسے کسی اونچان سے گرتی چلی جاتی۔ پھر ایک روز صبح سویرے مالی سلام کرنے کو پہنچا۔

”میاں تم بغیر پاسپورٹ کے کہاں جا رہے ہو۔ سرحد کیسے پار کرو گے۔ ابھی رکو۔ کچھ عرصے میں سلسلہ چل نکلے گا۔ بن جائے گا پاسپورٹ۔“

”جی نہیں صاحب۔ میرا دل پریشان ہے۔ لگتا ہے وہاں میری جرورت ہے۔ ان سب کی آوازیں آتی ہیں کانوں میں۔ بس ان کو لے کر آ جاؤں گا اپنی اس کوٹھریا میں۔ ابھی تالا لگائے جاتا ہوں۔ تالی صاب کو تھما دی ہے۔“

یوں اس بیچ کے کوارٹر میں تالا ڈل گیا۔ زنجیر دار

کنڈے میں بھاری سا لوہے کا تالا جس میں مسلسل بارش سے زنگ لگ گیا۔ چابی معلوم نہیں اماں نے کہاں ڈال دی ہوگی کیونکہ جب دوسری برسات میں سب کوارٹروں کی چھتیں ٹپکیں تو اس کا تالا تاؤ جی نے ہتھوڑے سے توڑا۔ سامنے جگمگاتی پتیلیوں پر مٹی کی تہہ جمی تھی۔ چار پالی ایک کونے میں کھڑی تھی اس کے پائے کے ساتھ گیندے کا سوکھا ہار لٹک تھا۔ مہرن نے کانپتے کانپتے پتیلیوں رکابیوں پالیوں کے ساتھ وہ ہار بھی بوری میں ڈالا۔ چار پالی ٹھیلے پر رکھوائی۔

”ہمارے محلے کا لڑکا اور ماما ساتھ ہی تو گئے تھے مگر باڑ کے قریب سے وہ تو لوٹ آیا۔ ماما اندھیرے میں سرکا۔ تارو توڑ گولیاں برسائیں مگر وہ بھاگتا ہی گیا۔ آ رہا ہوں۔ آ رہا ہوں۔ وہ نیلی چھتری والا۔ ٹھیلہ جانے کے بعد تاؤ جی نے انکشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی۔“

وہی اشارے کرتا ہے کبھی صدا میں دیتا ہے ہے۔ لبیک لبیک لبیک۔ ہر جی کو وہ مزہ چکھنا ہے۔ حضرت سلیمان دربار کرتے تھے کہ ایک شخص نے بازیابی چاہی۔ بلا کر تخت شاہی پہ بٹھایا۔ وزیر بھی پاس ہی بیٹھا تھا۔ نو وارد اسے بہت دیر تک گھورتا رہا۔ بارے رخصت ہوا۔ وزیر نے حضرت سلیمان سے عرض کی۔ یہ شخص کون تھا جو مجھے اس بری طرح گھورتا رہا۔ حضرت نے فرمایا۔ یہ عزرائیل تھا کہ انسانی بھیس میں آیا۔ وزیر نے عرض کی مجھے اس کا گھورتا بہت برا لگا۔ آپ مجھے فلاں دور دراز کے جزیرے میں پہنچا دیجیے۔ حضرت نے اپنے ہوائی تخت پر اسے مذکورہ جزیرے میں پہنچا دیا۔ وہاں وہ شخص پہلے ہی اس کا منتظر تھا۔ بعد میں حضرت سلیمان سے عرض کی کہ جب میں آپ کے پاس آیا حیران تھا کہ مجھے تو چند لمحوں میں اس جزیرے میں اس شخص کی روح قبض کرنا تھی اور یہ اب تک یہاں بیٹھا ہوا ہے۔

تاؤ جی نے ڈبو کی ٹوٹی زنجیر اور کوارٹر کا تالا لپیٹ کر خالی طاق میں ڈال دیے۔

☆☆☆



# دوشیزہ میگزین

رنگِ کائنات

دوشیزہ گلستاں

نئے نئے لہجے، نئی آوازیں

یہ ہوئی ثابت

بولی وڈ، بولی وڈ

نفسیاتی الجھنیں اور ان کا حل

کچن کارنر

حکیم جی!

بیوٹی گائیڈ



PAKSOCIETY.COM



# دوشیزہ گلستان

اسماء اعوان

## علم

حضرت علیؓ سے کسی نے پوچھا۔ ”علم کیا ہے؟“ آپ نے فرمایا۔  
 ”علم یہ ہے کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اس کو معاف کر دو۔ انتقام کی طاقت ہو تو درگزر سے کام لو۔ خطا کار سامنے آئے تو سوچو اس کی خطا بڑی ہے یا تمہارا رحم۔ غصے میں ایسی بات نہ کرو جس سے بعد میں ندامت ہو۔“

مرسلہ: معصومہ رضا۔ کراچی

## سنہرے اقوال

☆..... محبت اور شک ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ (خلیل جبران)

☆..... طنز وہ آئینہ ہے جس میں دیکھنے والا اپنے سوا ہر کسی کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ (سولفٹ)

☆..... عقل مند لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ بے وقوف اب کیا کہنے والا ہے۔ (برائٹ)

☆..... آنسوؤں کو بہہ جانے دو یہ غموں کو مایوسیوں میں بدلنے سے روکتے ہیں۔ (ادتھیلو)

مرسلہ: افشاں رضا۔ راولپنڈی

## احساس

ابھی میں سوچتا پھرتا تھا کچھ لفظوں کے بارے میں وہ سب کچھ کہہ گیا مجھ کو اشارے ہی اشارے میں

## فرمانِ الہی

(پہلے تو سب) لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا (لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے) تو اللہ نے (ان کی طرف) بشارت دینے والے اور ڈرانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے، ان کا ان میں فیصلہ کر دے اور اس میں اختلاف بھی انہیں لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آچکے تھے (اور یہ اختلاف انہوں نے صرف) آپس کی ضد سے (کیا) تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے، اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔

(سورۃ البقرۃ 2۔ ترجمہ آیت: 213)

## زکوٰۃ

ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے زکوٰۃ مسلمانوں کے دولت مندوں سے لی جائے اور مسلمان کے فقراء کو لوٹا وی جائے۔ اس میں ’ترد‘ یعنی لوٹا دی جائے کا لفظ بڑا اہم ہے۔ گویا زکوٰۃ کی رقم جو دولت مندوں سے لی گئی ہے، وہ فقراء ہی کا حق تھی اور اس کے اصل مالک فقراء ہی تھے جنہیں یہ رقم لوٹائی گئی ہے۔ یہ ان پر کوئی احسان نہیں ہے۔

انتخاب: اخلاق احمد۔ کوئٹہ



میں سے پیسے گا۔“  
 ”پانی والی بالٹی میں سے.....“ ہال میں سے  
 ایک آواز آئی۔

”بالکل ٹھیک۔“ مقرر خوش ہو کر بولے۔“  
 مگر وہ ایسا کیوں کرے گا؟“  
 ”کیونکہ وہ گدھا ہے۔“ جواب آیا۔

مرسلہ: یا سمین اقبال۔ سنگھ پورہ۔ لاہور

### پانی

نہ اس کا رنگ نہ ذائقہ پھر بھی اللہ کی قدرت  
 ہے۔ یہ پانی جس کے کئی روپ ہیں۔

اوپر اٹھے تو بھاپ، اوپر سے گرے تو بارش  
 جم کے گرے تو اولہ، گر کے جمے تو برف  
 پھول پہ گرے تو شبنم، پھول سے گرے تو عرق

آنکھ سے گرے تو آنسو، بہے تو دریا

قدم اسماعیل سے نکلے تو زم زم

اور حضور ﷺ کی انگلی سے نکلے تو آب کوثر

اور اگر نہ نکلے تو کر بلا

مرسلہ: زرین زبیر کوٹھاری۔ کراچی

### مزے کی بات

☆ جانوروں کو یہ فکر نہیں ہونی کہ عید بقر عید  
 اور شادیوں پر بجٹ کا کیا کیا جائے۔

☆ ان کے آخری لمحات غیر ضروری رسموں  
 اور بوجھل تکلفات سے دور ہوتے ہیں۔

☆ ان کے کفن دفن پر کچھ خرچ نہیں ہوتا۔

☆ ان کی موت کے بعد جائیداد کے سلسلے

میں خاندان میں نفرتیں اور زنجشیں نہیں پیدا  
 ہوتیں۔

☆..... انہیں آخرت میں سوال و جواب کا  
 کوئی خوف نہیں ہوتا۔

مرسلہ: شہزاد عدیل۔ کراچی

کسی کے ساتھ اُس کو دیکھ کر جتنا جلا ہے دل  
 جلن اتنی کہاں ہوگی جہنم کے شرارے میں  
 تو میرے پاس میرے دو قدم کے فاصلے پر تھا  
 میں تجھ کو ڈھونڈتا پھرتا تھا قسمت کے ستارے میں  
 نظر منظر سے خالی ہو یہ ممکن ہو نہیں سکتا  
 کوئی موجود رہتا ہے ہمیشہ ہی نظارے میں  
 (عدیم ہاشمی کی کتاب بہت نزدیک آتے  
 جارہے ہوئے ندیا مسعود کا انتخاب)

### نعمت

مریض نے بڑی تشویش سے ڈاکٹر سے کہا۔  
 ”مجھے بہت عجیب سا مرض لاحق ہو گیا ہے۔  
 جب بھی میری بیوی بولتی ہے مجھے کچھ سنائی نہیں  
 دیتا۔“

ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ”یہ مرض نہیں  
 نعمتِ خداوندی ہے۔“

مرسلہ: نگہت عزیز۔ حیدرآباد

### امید

رچرڈ برٹن سے شادی کے چھ ماہ بعد الزبتھ  
 ٹیلر کی اُس سے اُن بن ہو گئی اور نوبت طلاق تک  
 پہنچ گئی۔ الزبتھ ٹیلر نے اُس سے کہا۔ ”تمہیں مجھ  
 جیسی بیوی کبھی نہیں مل سکے گی۔“

رچرڈ نے بے ساختہ جواب دیا۔ ”اسی امید  
 پر تو طلاق دے رہا ہوں۔“

مرسلہ: مسز نوید ہاشمی۔ نارتھ ناظم آباد۔ کراچی

### وجہ تسمیہ

شراب کے نقصانات پر لیکچر دیتے ہوئے  
 ایک صاحب نے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش  
 کی۔

”اگر گدھے کے سامنے ایک بالٹی میں پانی  
 اور دوسری بالٹی میں بیڑ رکھی جائے تو وہ کس بالٹی



# پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

## یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو م ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ سیریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں


# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on  
Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1



”ڈاکٹر: ”تو پھر تم جل کیوں نہیں رہے ہو؟“  
 پاگل: ”ابے یہ پاکستان ہے لائٹ گئی ہوئی ہے۔“  
 مرسلہ: سعدیہ عابد۔ کراچی

### جسارت

مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے  
 یقیناً اک جسارت ہوگئی ہے  
 تمہیں کوئی شکایت تو نہ ہوگی  
 مجھے تم سے محبت ہوگئی ہے  
 شاعر: جون ایلیا، پسند: نعیم فیروز۔ اسلام آباد

### ذرا سنیے

خوش مزاج انسان ٹوٹے ہوئے دل کی دوا ہے۔  
 جب پانچ سینکڑ کی مسکراہٹ سے فوٹو اچھی  
 آسکتی ہے تو ہمیشہ مسکرانے سے زندگی کتنی  
 خوبصورت ہو سکتی ہے۔

کسی انسان کو دکھ دینا ایسا ہی ہے جیسا سمندر  
 میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ پتھر کتنی گہرائی  
 میں گیا ہے۔

گمراہ انسان موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں  
 جبکہ باہمت افراد مواقع خود پیدا کرتے ہیں۔

مرسلہ: ریحانہ مجاہد۔ کراچی

### پریشانی

صاحب نے اپنے ڈرائیور سے کہا۔ ”بشیر کار  
 تیز چلاؤ کہیں میری فلائٹ مس نہ ہو جائے۔“  
 جواباً ڈرائیور فکر مندی سے بولا۔ ”آپ سے  
 زیادہ مجھے پریشانی ہے صاحب کیونکہ بیگم صاحبہ  
 نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ کی فلائٹ مس  
 ہوگئی اور آپ نہیں گئے تو وہ مجھے نوکری سے نکال  
 دیں گی۔“

مرسلہ: اعظم رشید۔ ساہیوال

### ایک سے بڑھ کر ایک

پولیس مین نے ایک کار کو روکا۔ جس میں  
 سردار جی کی فیملی جا رہی تھی۔ پولیس مین نے  
 ڈرائیور سے کہا کہ آج ہم آپ کو سیٹ بیلٹ لگا کر  
 کار چلانے پر پانچ ہزار کا انعام دے رہے ہیں۔  
 آپ اس انعام کا کیا کریں گے۔  
 سردار بولا۔ ”میں اس سے اپنا ڈرائیونگ  
 لائسنس بنواؤں گا۔“

ماں جلدی سے بولی۔ ”اس کی بات کا یقین  
 مت کریں یہ شراب پی کر کچھ بھی بولتا ہے۔“  
 سردار کا باپ سوتے سے اٹھا اور پولیس کو دیکھ کر  
 بولا۔

”مجھے پتا تھا کہ چوری کی کار میں ہم زیادہ  
 دور تک نہیں جا سکتے۔“

مرسلہ: احسن رضا۔ راولپنڈی

### جو کہہ نہ پائے

میں بھول جاؤں تمہیں اب یہ ہی مناسب ہے  
 مگر بھولنا بھی چاہوں تو کس طرح بھولوں  
 کہ تم تو پھر بھی حقیقت ہو  
 کوئی خواب نہیں  
 یہاں تو دل کا یہ عالم ہے کیا کہوں  
 کم بخت!

بھلا نہ پایا وہ سلسلہ جو تھا ہی نہیں  
 وہ اک خیال جو آواز تک گیا ہی نہیں  
 وہ ایک بات جو میں کہہ نہیں سکا تم سے  
 وہ ایک ربط جو ہم میں کبھی رہا ہی نہیں  
 پسند: رضوانہ کوثر۔ شاعر: جاوید اختر۔ لاہور

### بلب

ڈاکٹر: ”تم چھت سے کیوں لٹک رہے ہو؟“  
 پاگل: ”میں ایک بلب ہوں۔“



## لڑکیاں اور پھول

کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ لڑکیاں اور پھول ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ دونوں میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ دونوں خوبصورت، معصوم اور پاکیزہ ہیں۔ دونوں کے احساسات بھی برابر ہوتے ہیں۔ جس طرح پھول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اسی طرح لڑکیاں بھی ہر لمحے دوسروں کی خوشیوں کی خاطر اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹی رہتی ہیں۔

آہ.....! لڑکیاں اور پھول کتنے مظلوم ہوتے ہیں۔

حسن خیال: شاہانہ احمد خان۔ کراچی

## باضمیر

ایک صاحب نے محکمہ انکم ٹیکس کے سربراہ کے نام ایک خط لکھا۔ ”جناب! میں ایک باضمیر انسان ہوں۔ گزشتہ برس میں نے اپنی آمدنی کا غلط حساب بتایا تھا اور اس کے نتیجے میں ایسی بے چینی محسوس کرتا ہوں کہ میں راتوں کو سکون سے سو نہیں سکتا۔ میں اس خط کے ساتھ پچاس ہزار روپے کا چیک بھیج رہا ہوں، اگر اس کے بعد بھی میرے ضمیر کو قرار نہ آیا اور مجھے نیند نہ آئی تو میں بقایا رقم بھی بھیج دوں گا۔“

مرسلہ: شعبان کھوسہ۔ کوئٹہ

## کردار

انسان کا کردار گلاب کے پھول کی مانند ہوتا ہے، اگر ایک بار شاخ سے ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑ سکتا۔ جب تک پھول شاخ سے جڑا رہتا ہے تب تک اس میں رنگ اور خوشبو موجود رہتی ہے، جو اس کے حسن اور سحر میں اضافہ کرتی ہے مگر جب وہ شاخ سے جدا ہوتا ہے تو رنگ اور خوشبو کھو دیتا ہے۔

اسی طرح انسانی کردار جب تک پاکیزہ اور سچا رہتا ہے، دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہوتا ہے لیکن جب وہ اپنی سچائی کھودیتا ہے تو دنیا کی کم تر چیزوں سے ارزاں ہو جاتا ہے۔

حسن خیال: حنا لطیف۔ کراچی

## غرور و تکبر

حافظ بن المنذر اپنی کتاب ’العجائب الغریبہ‘ میں لکھتے ہیں۔ میں نے نجران کی مسجد میں ایک جوان کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہا۔ اس کی خوبصورتی، درازی قد اور مضبوطی سے متعجب ہو گیا۔ اس جوان نے کہا۔ ”تم میری طرف اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟“

”میں نے کہا کہ آپ کے جمال و کمال پر حیران ہوں۔“

وہ کہنے لگا۔ ”تو ہی کیا، خود اللہ تعالیٰ کو بھی تعجب ہے۔“

یہ جملہ کہتے ہی وہ گھٹنے اور پستہ قد ہونے لگا اور کم ہوتے ہوتے ایک بالشت رہ گیا۔ اس کے کسی رشتہ دار نے اسے آستین میں رکھا اور لے گیا۔

مرسلہ: انوشہ آصف۔ کراچی

## ترکیب

ایک شخص نے اپنے دوست سے پوچھا۔ ”میں اپنا رنگ صاف اور گورا کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی ترکیب بتاؤ؟“

دوست نے کہا۔ ”سخت سردی میں رات تین بجے پانی میں برف ڈال کر نہایا جائے تو رنگ صاف اور گورا ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ دیکھ کر بے ساختہ کہیں گے کہ کس قدر صاف اور گورا رنگ نکل آیا ہے، مرحوم کے چہرے کا۔“

مرسلہ: اُم حبیبہ۔ اسلام آباد



# عقباتِ رحمتِ حقّی آواز

## دعائے اشعار

مجھے دولتِ دین و زر دے الہی  
 مجھے گوہرِ سیم و زر دے الہی  
 چلی جاؤں اڑ کے میں طیبہ کی جانب  
 مجھے حصولوں کے تو پُر دے الہی  
 میں باغِ محمد ﷺ کی مالن بنوں گی  
 تو دامن کو پھولوں سے بھر دے الہی  
 محمد ﷺ کے در پہ مری حاضر ہو  
 دعاؤں میں میری اثر دے الہی  
 سلامت رہے میرا سرتاج مالک  
 فنا نظرِ بد کو تو کر دے الہی  
 بنیں پہلے انسان، پھر ہوں مسلمان  
 ہدایت کے ان کو ثمر دے الہی  
 کسی کا بھی یارب نہ محتاج کرنا  
 نصیب ہم کو اپنا فقر دے الہی  
 تجھے واسطہ ہے شہ دوسرے ﷺ کا  
 دعاؤں میں میری اثر دے الہی  
 ہے عاجز کی یہ مخلصانہ دعا میں  
 جو مانگوں میں قطرہ بحر دے الہی  
 شاعرہ: ڈاکٹر اقبال امینہ قادری عاجز۔ کینیڈا

## سہاگن

میں ٹوٹ چکی ہوں اندر سے  
 ہو کے ریزہ ریزہ بکھر رہی ہوں ہوا کے سنگ  
 لیکن پھر بھی آنکھوں میں کجرا  
 ہونٹوں پہ لالی  
 ہاتھوں میں کجرا

پیروں میں پائل باندھے  
 پھرتی ہوں یوں گھر آنگن میں  
 جیسے میں کوئی سہاگن  
 لیکن بھول گئی یہ لگلی!!  
 جسے پیانہ چاہے وہ کیسی سہاگن

شاعرہ: شمینہ عرفان۔ کراچی

## تیری یاد کا موسم

اونچے پہاڑوں پر  
 لہراتے سبزہ زاروں پر  
 لکھی ہے تیری میری کہانی  
 وقت کی زبانی  
 چرچا تھا جہاں وفاؤں کا ہماری  
 وہیں لکھی ہے اب تیری جفا کی داستان ساری  
 خزاں میں مرجھاتے ہیں  
 بارشوں میں روتے ہیں  
 اب نہ ہوگی مزید ہم سے موسموں کی آبیاری

شاعرہ: سعدیہ عابد۔ کراچی

## ایک چاند

میں نے کھڑکی سے جو دیکھا نظر آیا ایک چاند  
 بدلیوں میں بھی چھپتا نظر آیا ایک چاند  
 مجھ کو ہیں چاند ستارے بہت اچھے لگتے  
 میں بھی بن جاؤں ستارہ یا دمکتا ایک چاند  
 روح شفاف ہو چہرے پہ چمک ہو جس کی  
 روشنی بن کے اتر آیا ہو دل میں ایک چاند  
 اے خدا مجھ کو کبھی بھی نہ کوئی غم ہو نصیب  
 یہ دعا کرتی ہوں میں دیکھ کے اکثر ایک چاند



## تو میرے ساتھ رہا

میں نے رکھا تھا تجھے کتنی چاہ کے ساتھ  
 اُنسیت ایسی رہی تجھ سے تو رہا ہاتھوں ہاتھ  
 میں گیا جب بھی کہیں تو میرے ساتھ رہا  
 جتنا سچا تھا میں تو بھی اتنا ہی کھرا  
 تو ہمیشہ میرے تکیے پہ میرے ساتھ رہا  
 مجھ کو نیندوں سے جگانے میں تیرا ہاتھ رہا  
 ہر خوشی غم میں بڑا تو نے میرا ساتھ دیا  
 فردِ مشرق کی طرح ایسے جلا جیسے دیا  
 میں تجھے رکھ کے نہ جانے کہاں بھول گیا  
 تو بھی چپ چاپ رہا تجھ کو آئی نہ حیا  
 اس نئے دل میں نہیں ہیں کوئی بھی یادیں پرانی  
 کوئی بھی نمبر نہیں ہے نہ ہے، میسج کی کہانی  
 شاعر: سید یوسف علی۔ کراچی

## غزل

ایک مہتاب سجا آنکھوں میں  
 پھر ہوئی رات سزا آنکھوں میں  
 جب درتے میں دکھا چاند کوئی  
 پھر کوئی عکس سجا آنکھوں میں  
 پھر تیری یاد کی خوش بو آئی  
 پھر کوئی پھول کھلا آنکھوں میں  
 جب سرشاخ کھلا پھول کوئی  
 آگیا روپ ترا آنکھوں میں  
 پھر درتے میں جلے دیپ جمال  
 پھر کوئی آن بسا آنکھوں میں  
 شاعر: سمیع جمال۔ کراچی

میں نے تو انزاء یہی چاند سے سیکھا ہے سبق  
 روشنی دے کے بھی لیتا نہیں کچھ بھی ایک چاند  
 شاعرہ: انزاء نقوی۔ کراچی

## چاہت دلدل دلدل

گھنگھور گھٹائیں، کالے بادل، تیز بارش  
 ٹھنڈی بست ہوا  
 دل میں بجائے پچھل، کول کی لوک من کے اندر ہوک  
 چاہت ٹھہری دلدل دلدل  
 بے رحم فضا، اکھیاں برسیں، اکھیاں ترسیں  
 سادون کی رم جھم، بھیگتا جائے آ پچل  
 کوئی نہ جانے، کوئی نہ سمجھے  
 ساون برستا ہے، یا آنسو روتے ہیں  
 بھیکتی جائے  
 اک لڑکی پاگل پاگل  
 شاعرہ: فیصحا آصف خان۔ ملتان

## رشتہ

میرا تمہارا وہی ہے رشتہ  
 جو ہواؤں کا فضاؤں سے ہے  
 بارشوں کا گھٹاؤں سے ہے  
 جو رات سے ہے دن کا  
 وہی جو پھولوں سے ہے چمن کا  
 ہوتا ہے کسی روح سے بدن کا  
 جو چندا سے ہوتا ہے کرن کا  
 میرا تم سے وہی تعلق، وہی ہے رشتہ  
 جو کسی مرنے والے سے زندگی کا  
 جو روشنی کا ویپ سے ہے  
 سمندروں کا جو سیپ سے ہے  
 شاعرہ: یاسمین اقبال۔ لاہور



# یہ ہونگی نوابات

## سوال آپ کے... جواب زین العابدین کے!!

اسی ماہ امبرین راتا۔ سا ہیوال کا سوال انعام کا حق دار ٹھہرا۔ انہیں اعزازی طور پر دو شیزہ گفٹ ہمپر روانہ کیا جا رہا ہے (ادارہ)

پہنتی ہے؟

✓ دولہا کو خبردار کرنے کے لیے کہ آگے خطرہ ہی خطرہ ہے۔

ماہم علی۔ کھاریاں

✓ اگر دنیا کی تمام عورتیں میک اپ کرنا بند کر دیں

تو؟

✓ دنیا کے تمام مرد خوف سے آنکھیں بند کر لیں  
گے۔

صائمہ۔ شکار پور

✓ جب سے تمہیں دیکھا ہے کچھ کچھ ہوتا ہے، دل تو

پاگل ہے مجھ سے شادی کر دو گی؟

✓ میں تیرا عاشق دیوانہ، چھوڑ شادی کا فسانہ۔

حمیرا سیال۔ نواب شاہ

✓ کیا زندگی دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے؟

✓ زندگی کھیل نہیں دھوپ چھاؤں سے مزین  
حقیقت ہے۔

فرحانہ۔ مانسہرہ

✓ چکے چکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے۔ ہم کو اب

تک پچن میں پیاز کاٹنے کا زمانہ یاد ہے۔

یا سمین اقبال۔ سنگھ پورہ۔ لاہور

✓ زین جی! ہم رات بہت ردے بہت آہ فغاں  
کی۔ بتا تو دیں کیوں؟

✓ لائٹ جو نہیں ہے دو دن سے۔

ثمرہ خان۔ کراچی

✓ بھیا جی! اگر پاؤں چادر دیکھ کر پھیلانے چاہئیں

تو ہاتھ کیا دیکھ کر پھیلایا جائے؟

✓ نوٹ دیکھ کر... ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر۔

آمنہ علی۔ شیخوپورہ

✓ نیک انسان کو لوگ بے وقوف کیوں کہتے ہیں؟

✓ جسے خدا خود نیکی کی توفیق نہیں دیتا وہ

دوسروں کے لیے ایسے ہی خیالات رکھتا ہے۔

شاہینہ۔ لاہور

✓ بھیا! اگر میں ساس کے آگے بھیگی بلی بن جاؤں تو؟

✓ تو وہ غضب ناک شیرنی کی طرح آپ پر جھپٹے گی۔

ٹومیہ..... ناظم آباد کراچی

✓ دلہن شادی کے دن صرف سرخ جوڑا ہی کیوں



منائل زہرا۔ گلستان جوہر کراچی

☺ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے.....؟

☺ سیخ پر چڑھا دیے..... ہے ناں!

عاقب۔ سیالکوٹ

☺ آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ کسی انسان پر جن آ گیا ہو؟

☺ بی بی پہلی بار انسان ہی جن پر آیا تھا جو آج تک بدلے رہا ہے۔

☺ لگتا ہے میاں جی نے اب خانساں رکھ دیا ہے، جب ہی وہ زمانہ یاد کر رہی ہیں آپ۔

عمیر شاہنواز۔ حیدرآباد

☺ کچھوا ایک ہزار انڈے دیتا ہے اور کسی کو نہیں

بتاتا جب کہ مرغی صرف ایک انڈہ دیتی ہے اور زوردار پکڑتی کرتی ہے کیوں؟

☺ قسم لے لو ہمیں راز کی باتیں بالکل نہیں معلوم۔



صدرہ۔ کراچی

☺ ہمارے سامنے والی کھڑکی میں ایک.....؟  
☺ مٹری کا جالا بنا ہوا ہے شاید برسوں سے وہ گھر خالی ہے۔

امبرین رانا۔ ساہیوال

☺ انسانی جسم میں کون سی ہڈی ڈھیٹ ہوتی ہے جو سب ایک دوسرے کو ڈھیٹ ہڈی کا مالک کہتے ہیں؟  
☺ ڈھیٹ ہڈی ہی ڈھیٹ ہوتی ہے۔

قمرناز۔ سکھر

☺ مردوں کے بال دراز پیدا ہونے لگے تو عورتوں نے اپنے بال قطع کر دیے کیوں؟  
☺ اب باربر کو بھی تو روزی چاہیے ورنہ تو سیلون بند ہو جائیں گے۔

رفعت۔ بہاول پور

☺ مجھے ہر سوال پر کھری کھری کیوں سننے کو ہوتی ہے؟  
☺ آپ کیوں لب سڑک کھڑے ہو کر سوال کرتی ہیں۔



WWW.PAKSOCIETY.COM  
راستہ اچھی طرح کٹ جائے گا۔

نومیرہ۔ سوات

☺: آپ کسی کی دل کی بات زبان پر لانے کا کوئی طریقہ بتائیے؟

☺: سوال کچھ مبہم ہے کیا کسی اور سے اس کے دل کی بات اگلوانی ہے یا اپنی من چاہی بات اس کے منہ سے.....

حسنہ۔ صوابی

☺: پیار، عشق، محبت کیا ان کا وجود دنیا میں اب بھی ہے؟  
☺: جی ہاں بالکل ہے جیسے آپ ہم سے مخاطب ہیں۔

شارق میر۔ سرحد، سندھ

☺: زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام وہ پھر نہیں آتے..... کیوں؟

☺: اے ”حال“ کو بہترین بنائے پھر یہ سوال ذہن میں نہیں آئے گا۔

زو یا شاہ۔ حیدرآباد

☺: اگر فوج میں سب سے زیادہ مرد فوجیوں کے بجائے خواتین کو بھرتی کر لیا جائے تو؟  
☺: سرحدی جھڑپیں بہت بڑھ جائیں گی۔

مہوش، سحرش۔ کراچی

☺: بھیا آپ کی نظر میں خوبصورت ترین تحفہ کیا ہے؟  
☺: دعائیں اور صرف دعائیں۔

☆☆.....☆☆

سعدیہ۔ حب، بلوچستان

☺: آنے والے دور میں میوزیم میں کیا چیزیں نظر آئیں گی؟  
☺: انسانی اقدار۔

عتیقہ نواز۔ ٹنڈو آدم

☺: یہ چھپن چھپری کے کہتے ہیں؟  
☺: آہستہ بولو کہہیں کس نے کہا۔

صفیہ بتول۔ گھومکی

☺: عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن؟  
☺: دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں..... وہ بھی بجلی، پانی، ارزانی اور سب سے بڑھ کر خلوص و محبت کے۔

عارف اقبال۔ پتوکی

☺: دل کی آواز اتنی دل نشیں کیوں ہوتی ہے؟  
☺: کس کے دل کی آواز.....؟ اپنی یا.....

انیتا کنول۔ کوٹری

☺: چڑیا گھر اور ان..... کے گھر میں کون سی بات مشترک ہے؟

☺: دونوں میں ہی ایک چڑیا کو قید کر لیا جاتا ہے۔

انیلا محسن۔ گجرات

☺: اک راستہ ہے زندگی جو وہ نہیں تو کچھ نہیں..... کیا؟  
☺: ہاں عقل ناں! ظاہر ہے عقل کو رہبر بناؤ گی تو یہ

پہلی بات

کوین برائے

جون 2015ء

نام:  
پتا:

242



## بیٹھے چاول

شیرا بھیا میں تم کو کہنا ہی بھول گئی تھی۔ اچھا تو سیر بھر چاول ہیں تم تین چھٹا تک گھی عمدہ لے آؤ لاؤ پیسے مجھ کو دو یہ لور و پیسہ مگر دیکھو گھی ذرا اچھا لینا سو گھ کر اور چکھ کر دیکھ لینا۔ بیٹا جلدی جا۔ اے لودس بچ گئے اب وہ جاتے ہیں۔ کچھری تھوڑی ان چاولوں کے.....

شوکت تھانوی کا توشہ خاص، جو آپ کو ضرور محفوظ کرے گا

شیرا موازندہ ہے کہ مر گیا۔ کسخت آگ لےنے کیا گیا ہے پڑوسن سے رشتہ جوڑنے گیا ہے میں تو کہتی تھی باتیں اڑ رہی ہوں گی۔ سوانو بچ چکے ہیں ابھی نہ چاول چنے گئے ہیں نہ آگ سلگی ہے۔ رحیمن شیرا کو دیکھنے کیا گئی ہیں کہ اب لوٹنے کا نام ہی نہیں لیتیں۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی بوٹیاں چباؤں چاولوں کی فرمائش کر دینا تو سب کو آتا ہے اب دیکھیں آکر موئے نو کر کیسے ڈھنگ کے رکھے ہیں۔ نتھنوں چنے چوارے ہیں۔ آگ لگے ایسے نو کروں پر ان سے تو میں بے نو کر کی اچھی۔ ان نمک حراموں کے بھروسے پر اگر کوئی کام چھوڑ دیا جائے تو قیامت تک تو انشاء اللہ ہو نہیں سکتا۔

لائے شیرا آگ لائے اور یہ موئے تم کہاں مر گئے تھے۔ میں کتیا کی طرح بھونک رہی ہوں نہ رحیمن کا پتا ہے نہ تمہارا۔ رحیمن تم کو دیکھنے کیا گئی ہیں کہ اب تک لوٹنے کا نام ہی نہیں لیا۔ میں نے کہا تھا کہ رحیمن یہیں دروازے سے شیرا کو دیکھ لو ان کو تو بہانہ ملتا ہے

ہوا یہ کہ کل آئی تھی پورے پورے ایک روپے کی شکر اور بقول شخصے پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑا ہی میں تھا۔ میاں امجد کو جو شوق سوار ہوا تو کہہ بیٹھے۔ ”ننھے کی اماں! ذرا بیٹھے چاول پکاؤ۔“ اب کیا تھا آگنی قیامت اور شروع ہوا ساتھ نام اللہ کے انتظام۔ ننھے کو پالنے میں لٹا کر جو تشریف لے چلیں تو بھونچال کی طرح باورچی خانے میں جا کر دم لیا اور احکام جاری ہونا شروع ہو گئے۔ ”رحیمن ذرا چاول نکالو شیرا پڑوس سے جا کر آگ لے آ اور دیکھ کہیں دیر نہ لگانا۔ میاں کو کچھری جانا ہے تیری عادت ہے۔ گلوڑ مارے کہ تو جاتا ہے تو وہیں کا ہور ہتا ہے بس آگ لے کر فوراً لوٹ آنا۔ ابھی بہت سے کام ہیں۔ رحیمن..... اے بوانو بچ! تم سے کوئی کام کو کہے کوٹھری میں چاول کیا نکالنے گئیں۔ جیسے سات سمندر پار کرنے لگیں۔ اے مٹھی بھر چاول لانے میں اتنی دیر۔ نوج بیوی ایسا بھنی کوئی کاہل ہو گھنٹہ بھر میں چاول لے کر لوٹی ہو۔ اچھا دروازے سے جا کر دیکھو



بس غائب ہو گئیں۔ پہنچی ہوں گی اسی موٹی شہزادہ کی لڑکی کی یہاں۔ ان کی بلا سے کسی کا کام ہو یا آگ لگے۔ شیرا میرا بچہ ذرا چولہے میں آگ تو سلگا دے میں جب تک چاول چلتی ہوں۔ دیکھ وہیں توے کے پیچھے نمک کی ہنڈیا کے پاس پھنکنی رکھی ہے تھوڑی سی کھیریل میں سے چپٹیاں چن لا اور لائین میں سے ذرا سا تیل ان پر ڈال کر آگ سلگا دے۔ میں اتنے میں چاول چنے لیتی ہوں۔ ان بوار جہنم کے بھروسے پر رہی تو پک چکے چاول۔ سچ ہے اپنا کام دوسرے کے بھروسے پر کبھی نہ چھوڑو۔ خدا نے ہاتھ پیر دیے ہیں کہ کام کرو۔ اے لاڈ میں بھی دم بھر میں سب چاول چنے دیتی ہوں۔ اے شیرا یہ تم آگ سلگا رہے ہو کہ بیٹھے کھیل رہے ہو؟ پھنکنی نہیں ملتی تو ڈھونڈو۔ اللہ نے یہ بڑی بڑی آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ اے ہاں ٹھیک ہے خوب یاد آیا، پھنکنی موٹی ملے تو کیسے صبح میں نے مرغی کو کھینچ کر ماری تھی وہ سامنے والے ناب دان میں گھس گئی۔ جا تو ذرا نکال لا۔

شکر ہے خدا نے ہماری رحیم کو زندہ تو واپس کیا۔ بیوی آگے سے کان مروڑے اب کبھی تم سے کسی کام کو نہ کہوں گی۔ تم ایسی گئیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ..... لو میں نے چاول اتنی سی دیر میں سب چن کر رکھ دیے۔ تمہارے بھروسے پر رہتی تو کچھ نہ ہوتا۔ ذرا پتیلی تو مانجھ لو، المونیم والی پتیلی لینا اور جلدی سے مانجھ دو۔ موٹی دیر پر دیر ہوئی چلی جاتی ہے اور وہ کپڑے پہن رہے ہیں کچھری کا وقت آگیا، لاؤ میں چاول تو چڑھا دوں جب تک ابلیس شیرا پک کر ایک پیسے کی چھوٹی الاپچی تو لے آ۔ دیکھ مری مری نہ لانا اگر خراب ہوئیں تو منہ پر کھینچ کے ماروں گی اور دیکھ اگر تو نے دیر لگائی تو اچھا نہ ہوگا ایسے جانا جیسے گیا ہی نہ تھا۔ شاباش دیکھیں ہمارا شیرا کتنی جلدی لاتا ہے۔ رحیم تم بیٹھی کیا کر رہی ہو۔

ذرا نگوڑے چاول دھو کر چڑھا دو۔ نونج بیوی تمہارا ایسا کاہل وجود۔ جو کام تم کو نہ کرنا ہوا کرے کہہ دیا کرو۔ اے ہاں رحیم! ذرا جلدی سے شیرا کو آواز دے لینا۔ گھی کا کہنا ہی بھول گئی۔ موا جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ میری بہن جلدی سے جاؤ۔ ابھی جہنم کے دروازے ہی تک پہنچا ہوگا جب تک میں کٹوری دھوئے دیتی ہوں اسی میں گھی لے آئے گا۔

شیرا ابھی میں تم کو کہنا ہی بھول گئی تھی۔ اچھا تو سیر بھر چاول ہیں تم نین چھٹا تک گھی عمدہ لے آؤ لاؤ پیسے مجھ کو دو یہ لورویہ مگر دیکھو گھی ذرا اچھا لینا سونگھ کر اور چکھ کر دیکھ لینا۔ بیٹا جلدی جا۔ اے لوؤں نچ گئے اب وہ جاتے ہیں۔ کچھری تھوڑی ان چاولوں کے پیچھے چھوڑ دیں گے۔ دن بھر فاقہ سے رہیں گے وہ روز کی دال روٹی بھی ان نگوڑا مارے چاولوں کے پیچھے کھوئی۔ میں بھی آخر کیا کروں کوئی دس ہاتھ پیر تھوڑا ہی لگا لوں گی۔ یہ بھی کیا کوئی ہتھیلی پر سرسوں جمانا ہے۔ کمبخت لکڑیوں نے بھی قسم کھالی ہے کہ آج نہ جلئیں گی۔ نامعلوم کہاں کی بھیگی ہوئی لکڑیاں کمبخت ہمارے حوالے کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم کو خیرات ہی تو دے رہے ہیں۔ بھر مٹھی دام لیں گے اور چیز ایسی دیں گے جیسے مفت ہی تو دے رہے ہیں۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ اس موئے مولا بخش حرام خور کے یہاں سے اب کبھی لکڑیاں آئیں تو اچھا نہ ہوگا۔ ”ان کا“ کیا لکڑیاں منگا کر ڈال دیں پھر تو جو کچھ آفت ہوگی وہ جلانے والے کی جان پر ہوگی۔ ان کی بلا سے یہاں موٹی آنکھیں پھوٹی جا رہی ہیں اور لکڑیاں ہیں کہ سلگنے کا نام نہیں لیتیں۔ اے ننھے کے ابا تم تو اور ہاتھ پیر پھلائے دیتے ہو آخر میں پوچھتی ہوں کہ آج جو ذرا چاولوں میں دیر ہوئی ہے تو کیا تمہاری کچھری بھی جھاڑو پھری جلدی کھلنے لگی۔ ایسی بھی کیا جلدی چاول تیار نہیں اب کھا کر جاؤ ذرا موا شیرا الاپچی لے آئے




بس میں ابھی داغ لوں تو دیتی ہوں۔ ایسی چیز بھی پکا کر چھتانا پڑتا ہے کہ کس شوق سے تو تم نے چاولوں کو کہا اور چلے بھوکے کچہری۔ یہ بھی کوئی بات ہے ذرا ننھے کو گود میں اٹھا لو۔ کیسا بلک کر رو رہا ہے۔ مومے کی آواز پڑ گئی، نوح تمہارا جیسا بھی کوئی سنگدل ہو۔ آواز سن رہے ہیں اور کوئی پروا نہیں۔ آخر تمہاری اولاد ہے اسے پرسوں سے ویسے ہی بخار آ رہا ہے۔ سینہ الگ جکڑا پڑا ہے۔ کھانسی سے کہ دم نہیں لینے دیتی۔ نہ موئی دوا ہے نہ علاج اور ہو تو کیسے ہو تم کسی بات میں خبر ہی نہیں لیتے۔ میں گھر کی بیٹھنے والی آخر یہ سب کیسے کروں۔ لو تم تو اس کو لے کر بیٹھ گئے ذرا کندھے سے لگا کر ٹہلو تو وہ چپ بھی ہو معصوم ہے کس وقت سے دودھ نہیں پیا ہے لاڈ میں اس کو ذرا سا دودھ بھی بیٹھے بیٹھے پلا دوں جب تک تم ذرا اس مومے شیرا کو باہر دیکھو کہ زندہ ہے مویا اللہ کو پیارا ہوا۔ آگ لگے اس کجخت کو جیسا اس نے مجھ کو عاجز کیا ہے۔ خدا اس مومے سے سمجھے۔ آنے دو آج میں نے بھی وہ خبر لی ہوگی کہ بچا کر چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ یا تو آج سے وہ نوکری کو سلام کریں گے اور یا پھر ٹھیک ہی ہو جائیں گے۔ آیا مویا ادھر تو آ کیوں رہے یہ تو کہاں تھا کہہ دیا تھا کہ جلدی واپس آنا دو گھنٹے لگا دیے۔ کیا تو اندھا تھا۔ تجھے دکھائی نہیں دیتا تھا کہ مہاں کچہری جانے والے ہیں۔ کیا آنکھیں پھوٹ گئی تھیں۔ مرے اللہ کرے تو آدھی رات کو چچاتی ہوئی کھٹیا نکلے اور اوپر سے گھور رہا ہے۔ آنکھیں پٹی کر مونڈی کالے نہیں تو اسی وقت اپنی اور تیری جان ایک کر دوں گی۔ تو گھورے گا تو لے گھم گھم گھما گھم چٹاخ، چٹاخ، دھڑ پٹ، بھڑاخ.....“

شیرا کی تو مرمت شروع ہو گئی اور میاں امجد دم وبا کر بھاگے کچہری راستہ بھران کے کانوں میں وہی بیوی کی جھنکار دار آواز گونجا کی۔ کچہری پہنچے تو صاحب

نے ٹانگ لی کہ دیر یوں کی اور اس بہانے سے اجب نے آج تک جتنی غلطیاں کی تھیں لگے سب گوانے اور شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھ گئے۔ ایک تو بے چارہ رات سے بھوکا اس پر صبح سے دس بجے تک بیگم صاحبہ کی مسلسل اور دھواں دھار تقریر نے دماغ خالی کر دیا تھا کہ اب صاحب کو شوق سوار ہوا لگے آئیں با میں شائیں ہانکنے انسان ہی تو ہے دماغ بے چارے کا چکرا گیا۔ اب صاحب پوچھتے ہیں کھیت کی تو امجد بتاتے ہیں کھلیان کی اونٹ بکری آگرہ جواب دینے لگے۔

صاحب کا ٹمپر پچر دن بھر تیز رہا اور دن بھر امجد ایک ہاتھ پچکے ہوئے پیٹ پر رکھے اور ایک ہاتھ میں قلم لیے ”ڈنڈم کا فنڈم“ کام کرتے رہے اور صاحب کی ڈانٹ سنا کیے۔ کبھی کبھی یہ بھی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ آج صبح کس کا منہ دیکھ کر اٹھا تھا دن بھر کھانا نہیں ملا خیر نہ ملتا اوپر سے گالیاں کھانے کو مل رہی ہیں ارے صاحب جب آدی بھوکا ہو تو آخر ٹھیک کام کس طرح کر سکتا ہے۔ مارے بھوک کے اس کے تو پیٹ میں آگ لگی ہے اب جو صاحب پوچھتے ہیں کہ بلوے والے مقدمے کا فائل کہاں ہے تو سوائے اس کے کیا جواب دے سکتا ہے۔ ”بیٹھے چاول“ اس پر صاحب کو غصہ آتا ہے۔ خیر خدا خدا کر کے پانچ بجے اور امجد کی کچہری سے جان چھوٹی۔ جلدی جلدی گھر پہنچے دیکھتے کیا ہیں کہ نہ تو شیرا ہے اور نہ رحمن بیوی چولہے کے پاس بیٹھی پھنکنی لیے پھوں پھوں کر رہی ہیں اور چاول پہلی میں کھد بد کھد بد مغل بیٹھانوں کی طرح لڑ رہے ہیں۔ امجد بھوک کی کمزوری کے مارے چاروں شانے چیت چار پائی پر لیٹ گئے اور غنودگی طاری ہو گئی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو چاول تیار تھے مگر ان میں مینگنی نکل آئی اس لیے ٹیپو کو کھلا دیے گئے۔

آج جمعہ تھا امجد نے سب نمازیوں کے سامنے قسم کھائی کہ اب کبھی ”بیٹھے چاول“ نہ پکواؤں گا۔






# لولی وڈیو بولی وڈ

وڈیو بولی وڈ خان

نوم ”مانی پنجابی نکاح“ سائن نری ہے۔ بولی وڈ میں فلم خوبصورت سے فلمی سفر کا آغاز اور فلم فیئر ایوارڈ



حاصل کرنے والے اداکار فواد خان پر قسمت کی دیوی مہربان ہے۔ سلمان خان کے بھائی سمیل خان نے انہیں اپنی اگلی فلم ”مانی پنجابی نکاح“ میں سائن کر لیا ہے۔

”زندگی آ رہا ہوں میں“ کی ویڈیو ریلیز بولی وڈ فلموں میں اپنی آواز کا جادو جگانے والے عاطف اسلم کے نئے گانے ”زندگی آ رہا ہوں میں“ کی ویڈیو جاری کر دی گئی ہے۔ فلم میکرا احمد خان کی ہدایت کاری میں بننے والے اس گانے کے میوزک کیپوزنگ کے فرانسز امال ملک نے نبھائے ہیں

جاوید شیخ کی 3 فلمیں مکمل بولی وڈ اداکار جاوید شیخ کی تین فلمیں مکمل ہو گئی ہیں جو عید الفطر پر ریلیز ہوں گی۔ ان فلموں پر وڈیو سوسائٹی ”بن روئے“ ڈائریکٹر یاسر



نواز کی ”رائگ نمبر“ اور کامران اکبر خان کی ”ہلہ گلہ“ شامل ہیں۔ ان پاکستانی فلموں کے علاوہ بولی وڈ میں ان کی فلم ”تماشا“ بھی مکمل ہو گئی ہے جس میں انہوں نے رنبیر کپور کے والد کا کردار کیا ہے اور اس فلم میں وپیکا پنڈت کون بھی شامل ہے۔

فواد خان کی ”مانی پنجابی نکاح“

لولی وڈ ہیر فواد خان کا بولی وڈ میں کامیابی کا سفر جاری ہے۔ انہوں نے ہدایت کار سمیل خان کی



ہارر اداکولس ری میک کی عکس بندی آئندہ ماہ شروع ہوگی۔

جبکہ ویڈیو میں اداکار نائیکر شروف شاندار ڈانس کا مظاہرہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ عاطف اسلم



کی سریلی آواز میں ریکارڈ کیا گیا زندگی آ رہا ہوں میں کے بولوں پر مبنی یہ گانا نائیکر شروف کی اگلی فلم میں شامل کیا جائے گا۔

### ہما قریشی ہارر فلم میں

بولی ووڈ اداکارہ ہما قریشی نے اپنی نئی ہارر فلم کی تیاری کیلئے بھارت کی آسیب زدہ جگہوں پر تحقیق کرنا شروع کر دی۔ ہما قریشی نے اپنی نئی فلم کے سلسلے میں



آسیب زدہ جگہوں پر تحقیق کرنے کیلئے راجستھان میں بھان گڑ قلعے جانے کی منصوبہ شروع کر دی ہے۔ ان قلعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھارت کی سب سے زیادہ آسیب زدہ جگہ ہے۔ واضح رہے کہ

سلمان خان کیخلاف تمام ثبوت جل گئے ہندوستانی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ بولی ووڈ اداکار سلمان خان کے خلاف ہٹ اینڈ رن کیس



2002 کی تمام فائلیں جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ ایک سماجی کارکن منصور درویش کی جانب سے جب سلمان خان کے خلاف ہٹ اینڈ رن کیس کا ریکارڈ طلب کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ اس کیس کی ساری فائلیں 21 جون 2012 کو سرکاری دفتر میں آگ لگ جانے کے باعث جل کر خاکستر ہو گئی تھیں۔ درویش کو بتایا گیا کہ مذکورہ کیس کی تمام فائلز 21 جون 2012 کو اس وقت جل کر خاکستر ہو گئیں جب اسٹیٹ سیکریٹریٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس طرح ریاست مہاراشٹرا کی حکومت کے پاس بولی ووڈ اداکار کے خلاف ہٹ اینڈ رن کیس 2012 کی کوئی "معلومات" نہیں ہیں۔

ودیا بالن کا ہوائروس بریک ڈاؤن بولی ووڈ بھارتی اداکارہ ودیا بالن کو کام کی زیادتی سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ فلموں کی مسلسل شوٹنگ سے پریشان چو پڑا اور کترینہ کیف کے بعد ان



دنوں و دیا بالن کو بھی بیمار کر دیا۔ گزشتہ ہفتے و دیا بالن

اظہر الدین کا کردار نبھائیں گے۔ پہلی جھلک میں عمران ہاشمی گراؤنڈ میں بیٹس مین کے روپ میں داخل ہوتے ہیں اس موقع پر مشتعل ہجوم اسٹیڈیم میں توڑ پھوڑ کرتا ہے اور کچھ افراد باڑ کو پھلانگ کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ فلم ”اظہر“ کی ہدایات ٹولی ڈیسوزا نے دی ہیں۔

### شاہد کپور کی منگنی

بولی وڈ کے چاکلیٹی ہیر و شاہد کپور کی یا قاعدہ منگنی ہوگئی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی منگیت کو بیس لاکھ روپے مالیت کی انگوٹھی پہنائی جس میں ہیرا جڑا



فلم کی شوٹنگ کے لیے کلکتہ میں موجود تھیں۔ یونی ویرن نیوز کے مطابق شوٹنگ کے دوران و دیا نے اچانک زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ جس سے روتی دھوتی و دیا کو دیکھ کر فلم ڈائریکٹر کو شوٹنگ روکنی پڑی۔ جب و دیا سے رونے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ انھیں سر میں شدید درد ہو گیا۔

### عمران ہاشمی کی اظہر

بھارتی کرکٹر اظہر الدین کی زندگی پر بننے والی



تھا۔ شادی سے پہلے میرا راجپوت کے گھر پر منگنی کی تقریب ہوئی جس میں لڑکا اور لڑکی نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی۔ تقریب میں شاہد اور میرا کے قریبی رشتے دار موجود تھے، شاہد کپور اور ولی کی طالب علم میرا راجپوت دس جون کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں گے، دونوں کی شادی یونان میں ہوگی۔

### شردھا کپور کا چلبلا گیت ریلیز

ادا کارہ شردھا کپور کی فلم اپنی باڈی کین ڈانس ٹو کا ایک اور چلبلا سا گیت جاری، ہیر و ورون دھون نے بھی جگایا آواز کا جادو۔ سب ہیں موج مستی کے موڈ میں، پارٹی شارٹی کی ہو رہی ہے تیاریاں، رنگ برنگے غبارے ہاتھوں میں لیے نوجوانوں کی یہ ٹولی



فلم کی پہلی جھلک منظر عام پر آگئی۔ بالاجی جوشن ہیکرز اور ایم ایس ایم موشن پیکچرز نے فلم ”اظہر“ کی پہلی جھلک جاری کر دی ہے۔ فلم میں عمران ہاشمی



آن لائن ٹائٹل کی وی چینل پر اپنے ڈیزائن کردہ مابوسات فروخت کے لیے پیش کریں گے۔ اکتے کمار کے مطابق یہ مابوسات ناصرف جدید فیشن کے مطابق بلکہ قیمت کے لحاظ سے بھی ہر ایک کی پہنچ میں ہوں گے۔

### ایتا بھ بچن کا مداحوں کو اغتباہ

ایتا بھ بچن نے اپنے مداحوں کو متنبہ کیا کہ وہ ان کے نام سے ٹویٹر پر موجود جعلی اکاؤنٹ جس کے آخر میں سینٹر بچن کے ہمراہ اضافی انگریزی حرف



سی لگایا ہوا ہے کو جو انہن نہ کریں۔ ایتا بھ بچن کا کہنا تھا کہ جو جو ان کے چکے ہیں وہ ان نو لو کر دیں کیونکہ یہ اکاؤنٹ ان ہی کی ٹویٹ کو اس جعلی اکاؤنٹ پر دوبارہ سے اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے تاہم مداح ہوشیار رہیں۔ واضح رہے کہ ایتا بھ بچن کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک کروڑ 50 ہزار فالورز ہیں۔

### ریکھا کا فلم ”فتور“ سے دل بھر گیا

مالی ووڈ اداکارہ ریکھا جنہیں شائقین طویل عرصے بعد فلم ”فتور“ میں دیکھنے کے لیے بیتاب تھے، فلم کی کاسٹ سے علیحدہ ہو گئی ہیں۔ ریکھا نے فلم کی شوٹنگ مکمل کروا دی تھی تاہم انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اسکرین پر ویسی دکھائی نہیں دے رہیں جیسا کہ انہیں دکھنا چاہیے۔

☆☆.....☆☆


ہیروورون دستوں کی سالگرہ کا جشن منا رہی ہے۔ ایٹی باڈی کین ڈانس 2 ”شرودھا کپور کی اولین ترجیح ہے اس کے باوجود وہ فلم انڈسٹری میں خود کو زیادہ سے



زیادہ مصروف رکھنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں اور گزشتہ روز انہیں اس سلسلہ میں ایک اور کامیابی حاصل ہو گئی ہے اطلاعات کے مطابق شرودھا کپور کو فلم باغی میں ٹائیگر شروف کے ساتھ ہیروئن کاسٹ کر لیا گیا ہے۔

### اکتے کمار فیشن ڈیزائنر بن گئے

بولی ووڈ سیرا اکتے کمار اب اداکاری کے ساتھ ساتھ فیشن ڈیزائنر کے روپ میں بھی نظر آئیں گے۔ بولی ووڈ میں کھلاڑی کے نام سے



مشہور سیرا اکتے کمار نے اب ایک نئے میدان میں انٹری دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سماجی ویب سائٹ پراکتے کمار نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ وہ جلد ہی





# نفسیاتی الجھنیں اور ان کا حل

مختار بانو طاہرہ

زندگی اپنے ساتھ جہاں بہت ساری خوشیاں لے کر آتی ہے وہیں بہت سارے ایسے مسائل بھی ہم لیتے ہیں جو اس زندگی کو مشکلات کے ٹکڑے میں جکڑ لیتے ہیں ان میں سے بیشتر الجھنیں انسان کی نفسیات سے جڑی ہوتی ہیں اور انہیں انسان از خود حل کر سکتا ہے۔ یہ سلسلہ بھی ان ہی الجھنوں کو سلجھانے کی ایک کڑی ہے۔ اپنے مسائل لکھ بھیجیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ ان مسائل سے چھٹکارہ پالیں۔

احمد خان - چیچہ وطنی

ساجدہ - حیدرآباد

☆: باجی جان! مجھے کالج سے گھر آنے میں ذرا سی دیر ہو جائے تو ابو بس اسٹاپ پر دیکھنے آجاتے ہیں۔ گھر پہنچنے پر امی حیران و پریشان ملتی ہیں۔ میں پوچھتی ہوں صرف آدھا گھنٹہ دیر ہوئی ہے اور آپ لوگ ٹینشن میں آگئے۔ پتا نہیں ان کے ساتھ کیا نفسیاتی مسئلہ ہے سوچتی ہوں یہ دونوں دنیا سے ڈرتے ہیں یا مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔

☆ کبھی آپ نے ان لڑکیوں کے بارے میں سوچا ہے جن کا گھر پر کوئی انتظار کرنے والا نہیں ہوتا ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں تو کوئی لینے آنے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک ملک سے دوسرے ملک جانے والوں سے پوچھیں جو ایئر پورٹ پر کسی کا انتظار کیے بغیر اپنی منزل کی طرف خود ہی چل پڑتے ہیں۔ انسان اس کا انتظار کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، یہ محبت جن لوگوں کو حاصل نہیں، ان کے دلوں میں حسرت ہوتی ہے۔ والدین کو دیکھ کر مسکرایا کریں۔ ان کو اطمینان دلائیں کہ موجودہ حالات میں آدھا یا ایک گھنٹہ دیر ہونا معمولی بات ہوگئی ہے۔ انہیں آپ پر اعتبار ہے جب ہی تو کالج بھیجتے ہیں۔

☆: پیاری باجی! میری زندگی بہت بے رونق، بے مزا اور بوری ہے مجھ سے کبھی کسی نے محبت نہیں کی، اس لیے میں اپنے دل میں کسی کی بھی محبت محسوس نہیں کرتا۔ سوچتا ہوں بڑا آدمی بن گیا ہوں۔ سب میری عزت کر رہے ہیں۔ آج جو مجھے توجہ نہیں دیتے آنے والے کُل میں ان کی پروا نہ کروں گا۔ دل بچھا بچھا رہتا ہے۔

☆ زندگی بے رونق ہونے کا سبب یہی ہے کہ آپ کسی سے محبت نہیں کرتے۔ سوچوں اور خیالوں میں برے آدمی کا تصور حقیقی دنیا سے بہت دور کر دے گا۔ آج ہی اپنی ذات سے عہد کریں کہ خیالوں کے خود ساختہ جال سے باہر آ کر حقائق کا مقابلہ کریں گے۔ بے مقصد زندگی بوری اور بے رونق ہوتی ہے اس لیے عزم اور ہمت سے مقصد حیات کا تعین کرنا ضروری ہے کیوں کہ کوئی بھی انسان دنیا میں بے کار نہیں ہے۔ کسی ایسے نصب العین کا تعین کر کے جو طبیعت اور مزاج کے مطابق ہو، زندگی میں حرارت اور تازگی محسوس ہوگی۔ اپنی بہترین ذمہ داریوں کی انجام دہی میں ذہن کا بھی محاسبہ کرتے رہیں تاکہ مایوسی اور ناامیدی راہ میں حائل نہ ہونے پائے۔



گھر پر ہے اور بھند ہے کہ شادی کر دی جائے۔ اب اس نے ساری کہانی سنا دی ہے۔ میں بے حد پریشان ہوں کیوں کہ وہ لڑکا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کے والدین بھی رضامند نہیں۔ میرے شوہر ملک سے باہر ہیں، یہاں میرا بیوی پارلر ہے میٹرک تک اسکول سے آنے کے بعد لڑکی گھر میں رہتی تھی، مجھے آتے آتے رات ہو جاتی۔ کالج میں داخلہ لینا تھا کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ میرا دماغ مفلوج سا ہو کر رہ گیا ہے۔

☆ والدین کی طرف سے بچوں کی مادی ضروریات کی تکمیل کافی نہیں ہوتی ان کو نیک فرزندار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وقت دیا جائے اچھا تو یہ تھا کہ بیٹی کو گھر چھوڑنے کے بجائے پارلر میں اپنے ساتھ رکھتیں لیکن اب وقت گزر چکا ہے۔ لڑکے سے بات کریں وہ اپنے والدین کو راضی کرے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی بیٹی کو شادی کے بعد عدم تحفظ یا مسائل و مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ باوجود اس کے کہ بیٹی نے فرمانبرداری نہیں کی، اس کا ساتھ دیں، اس کو تنہا نہ چھوڑیں ورنہ اس کے دکھ آپ کو بھی افسردہ کر دیں گے۔

عرفانہ احمد۔ گھونگی

☆ عرفانہ آپ نے سوال شائع کرنے سے منع کیا ہے اس لیے صرف جواب لکھ رہی ہوں۔ وزن بڑھنے کی پہلی وجہ تو زیادہ کھانا ہی ہے لیکن اگر کھانا کم کرنے کے باوجود وزن میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے تو گھر کے کاموں کی انجام دہی کے علاوہ مناسب ورزش کریں۔ اپنے فیملی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ اتنی کم عمری میں جوڑوں کا درد کمزور سستی چکر آنا بہت زیادہ دل گھبرانا توجہ طلب ہے۔ وزن میں غیر معمولی اضافہ کسی جسمانی مرض کے سبب بھی ہو سکتا ہے۔

☆☆.....☆☆

☆ یا جی! میں لوگوں کی نگاہ میں خوش قسمت ہوں۔ اعلیٰ تعلیم اور اچھی ملازمت بھی ہے دیکھنے میں صحت اچھی نظر آتی ہے، یہ ظاہر پریشانی کی کوئی وجہ نہیں لیکن پریشان رہتا ہوں۔ میرا خواب تھا کہ ملک سے باہر چلا جاؤں، ترقی کروں، سو وہ پورا ہوا لیکن میں خوش نہیں۔ اپنے ملک کی خبریں نہیں سنتا کیوں کہ پھر پریشانی شدید ہو جاتی ہے۔ گھر والوں سے فون پر مختصر بات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ یہ کیا ہوا ہے مجھے۔

☆ ماہرین کے مطابق ذہنی امراض کی عدم موجودگی کسی شخص کو صحت مند ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون خوش و خرم زندگی بسر کر رہا ہے اور کس کی زندگی پریشان کن اور تکلیف دہ ہے۔ سب حاصل کرنے کے بعد بھی اگر آپ اپنے دل میں خوشی محسوس نہیں کر رہے ہیں تو اپنی ذہنی زندگی کا محاسبہ کیجیے اور دیکھیے پریشان ہونا بچپن کی عادت تو نہیں، یا پھر اپنے ملک کی خبریں تکلیف دہ ہیں کہ وہاں آپ ملنے جانا چاہتے ہیں اور کسی طرح کا خوف روک رہا ہے۔ دیکھیں کہ اپنے رب کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہے؟ اگر یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو زندگی میں قلب اور روح کی آسودگی محسوس ہوتی ہے۔

شمن آراء۔ لاہور

☆ میری بیٹی کی عمر 22 سال ہے۔ اس نے ایک لڑکے سے دوستی کی، مجھے معلوم نہیں ہوا، پھر وہ اس کے ساتھ گھومنے جاتی رہی، یہ بھی معلوم نہ ہو سکا پھر وہ اپنے کچھ کپڑے گھر سے لے کر گئی مجھے بتایا کہ سہیلی کی شادی میں جا رہی ہوں، ایک ہفتے بعد آئے گی۔ پندرہ دن گزر گئے۔ میں فون کرتی رہی بات ہوتی رہی۔ اب وہ





# کچن کارنر

نادیہ طارق

قارئین! اس ماہ کچن کارنر میں ہم آپ کے لیے بہت مزیدار لیکن پکانے اور بنانے میں سادہ اور آسان ڈشز لے کر آئے ہیں۔ ان کی تیاری میں، وقت کی بچت بھی ہے اور دسترخوان کے ذائقے بھی آزمائے اور داد وصول کیجیے۔

## کریمی چکن قورمہ

## کچن اپیل رائس

- اجزاء
- مرغی کے سینے کا گوشت : ایک کلو
  - پیاز : چار عدد
  - وائٹ قورمہ مسالا : دو کھانے کے چمچے
  - میدہ : دو کھانے کے چمچے
  - خشک دودھ : دو کھانے کے چمچے
  - سیا ہوا لہسن، ادراک : دو کھانے کے چمچے
  - کشمش : دو چائے کے چمچے
  - فریش کریم : آدھا پیکیٹ
  - تیل : چار کھانے کے چمچے
  - دہی : پون کپ
  - نمک : حسب ضرورت

- اجزاء
- اُبلے ہوئے چاول : آدھا کلو
  - کٹا ہوا لہسن : پون چائے کا چمچ
  - کٹی ہوئی ادراک : پون چائے کا چمچ
  - کٹی ہوئی ہری پیاز : ایک کپ
  - نمک : حسب ذائقہ
  - پسی ہوئی کالی مرچ : ایک چائے کا چمچ
  - کٹی ہوئی لال مرچ : ایک چائے کا چمچ
  - سویا ساس : دو کھانے کے چمچے
  - سرکہ : ایک چائے کا چمچ
  - کٹا ہوا پائسن اپیل : ایک کپ
  - پائسن اپیل سیرپ : آدھا کپ
  - تیل : دو کھانے کے چمچے

ترکیب: مرغی کے سینے کا گوشت لیں اور اس کی چوکور بڑی بوٹیاں بنائیں۔ اس کے بعد دیکھی میں تیل گرم کریں۔ پیاز سنہری تلنے کے بعد تیل سے نکال کر پیس لیں۔ پھر اسی تیل میں مرغی، لہسن، ادراک، قورمہ مسالا اور دہی ملا کر پکائیں، پانی نہیں ملائیں۔ پھر پسی ہوئی پیاز، کشمش ڈالیں۔ درمیانی آنچ پر پکانے کے بعد پانی خشک کر لیں۔ فریش کریم، لیموں کا رس اور خشک دودھ ملا کر اتار لیں۔ گرم گرم نان یا اُبلے ہوئے

ترکیب: چاولوں میں سرکہ ڈال کر اُبال لیں، گلنے کے بعد اچھی طرح ٹھنڈا کر کے رکھ لیں۔ ایک ساس پین میں تیل گرم کریں۔ کٹا ہوا لہسن، ادراک ڈالیں اور ہلکا سا تلنے کے بعد ہری پیاز، چاول، نمک اور کالی مرچیں ڈال کر ملائیں پھر سویا ساس، پائسن اپیل جوس اور پائسن اپیل کے سلائس ڈال کر اچھی طرح ملانے کے بعد ڈش میں نکال کر پیش کریں۔



چاولوں کے ساتھ پیش کریں۔

## روٹلس

ایک برتن میں خشک دودھ، میدہ اور کھئی شامل کریں اور پھینٹ کر انڈے ڈالیں اور نرم درمیانے سائز کے پیڑے بنائیں۔ اب دودھ میں شامل کریں۔ آج تیز کر دیں اور پانچ منٹ تک پکائیں۔ اب آج دھیمی کر دیں اور مزید دس پندرہ منٹ تک پکائیں۔ پتے سے گارنش کریں اور ٹھنڈا کر کے سبزہ کریں۔

## سویوں کے لڈو

اجزاء

کھویا : تین سو گرام  
شکر : ڈھائی سو گرام  
سویاں : سو گرام  
کاجو : سو گرام (توڑ لیں)  
الاجھی : دو سے تین عدد (پسی ہوئی)  
کھئی : دو کھانے کے پیچھے

ترکیب: ہلکی آج پر کڑا ہی میں گھی گرم کریں۔ سویوں کو مناسب انداز میں توڑ لیں اور کھئی میں ڈال کر سرخ کریں۔ بعد میں اسے کسی چیز سے نکال کر الگ کر لیں، اسی کھئی میں کھویا ڈال کر اچھی طرح بھون لیں اور اس میں کاجو شامل کر لیں۔ آخر میں چینی ملا کر اچھی طرح ہلائیں۔ اب اس مکسچر میں الگ رکھی ہوئی سویاں اور الاجھی پاؤڈر بھی شامل کر لیں۔ کچھ دیر بعد آج سے اتار لیں۔ جب یہ آمیزہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس مکسچر کے لڈو بنا لیں اور ٹرے میں رکھتی جائیں آخر میں اوپر سے باریک کٹے ہوئے بادام اور کھوپرا چھڑک دیں۔ مزیدار سویوں کے لڈو تیار ہیں۔

## آلو کی پیسھی کچوریاں

اجزاء

آلو : آدھا کلو

ترکیب: دودھ اباں لیں اس میں الاجھی اور چینی شامل کر دیں۔ دودھ کو پانچ دس منٹ پکائیں۔

اجزاء

پانی : پانچ کپ  
چینی : 750 گرام  
عرقِ گلاب : ایک چائے کا چمچ  
لال رنگ : ایک چنگلی  
لیموں : ایک عدد  
دار چینی پاؤڈر : ڈیڑھ چائے کا چمچ  
ترکیب: ایک پیلی میں پانی اور چینی کو ملا کر پانچ منٹ کے لیے پکائیں۔ یہاں تک کہ آمیزہ گاڑھا ہو جائے۔ چولہا بند کر دیں، پھر اس میں عرقِ گلاب، لیموں، دار چینی پاؤڈر اور لال رنگ شامل کریں۔ اچھی طرح مکس کریں اور ٹھنڈا کر کے پیش کریں۔

## رس ملائی

اجزاء

خشک دودھ : دو کپ  
بیلنگ پاؤڈر : دو چائے کے چمچ  
میدہ : ایک چائے کا چمچ  
کھئی : دو کھانے کے چمچ  
انڈے : دو عدد  
دودھ : دو کپ  
چینی : دو کپ  
ہری الاجھی : آٹھ یا دس  
پستہ : حسب ضرورت

ترکیب: دودھ اباں لیں اس میں الاجھی اور چینی شامل کر دیں۔ دودھ کو پانچ دس منٹ پکائیں۔



مچھلی کی بریانی

- اجزاء:
- مچھلی کے ٹکڑے
  - چاول (اُٹے ہوئے)
  - پیاز (باریک کٹی ہوئی)
  - ٹماٹر (چوپ کیے ہوئے)
  - پسا ہوا لہسن اور رک
  - ہر ادھنیا، پودینہ (چوپ کیا ہوا)
  - ہری مرچیں (باریک کٹی ہوئی)
  - آلو بخارے
  - بادبان کے پھول، چھوٹی الائچیاں
  - بڑی الائچیاں
  - لونگیس
  - پسی ہوئی جائفل جاوتری
  - زر دے کارنگ
  - بریانی ایسنس
  - پسا ہوا دھنیا، ثابت کالازیرہ
  - پسی ہوئی لال مرچ
  - نمک
  - تیل
- ایک کلو  
آدھا کلو  
250 گرام  
375 گرام  
ایک کھانے کا چمچ  
آدھا، آدھا گڈی  
6 عدد  
50 گرام  
4 عدد  
2 عدد  
4 عدد  
آدھا چائے کا چمچ  
پون چائے کا چمچ  
چند قطرے  
ایک، ایک چائے کا چمچ  
ایک کھانے کا چمچ  
حسب ذائقہ  
ایک پیالی

ترکیب:

دیکھی میں تیل گرم کریں اور پیاز تل کر نکال لیں۔ اسی دیکھی میں مچھلی کے ٹکڑے بھی تل کر نکال لیں۔ اسی دیکھی میں ٹماٹر، لہسن اور رک، آلو بخارے، بادبان، چھوٹی اور بڑی الائچیاں، لونگیس، جائفل جاوتری، زر دے کارنگ، دھنیا، کالازیرہ، کالی مرچ، لال مرچ اور نمک ڈال کر ٹماٹر نرم ہونے تک پکائیں۔ اس میں آدھی ہری مرچیں، ہر ادھنیا اور پودینہ ڈال کر مچھلی کے ٹکڑے تہہ کی طرح رکھ دیں۔ اس کے اوپر چاولوں کی تہہ لگائیں پھر باقی ہری مرچیں، دھنیا، پودینہ اور بریانی ایسنس چھڑک کر دم پر رکھ دیں۔ مزیدار بریانی ٹماٹر سے سجا کر پیش کریں۔

☆☆.....☆☆

- شکر  
الابچی  
گھی  
پسا ہوا ناریل
- آدھا کلو  
دو عدد  
حسب ضرورت  
تھوڑا سا

ترکیب: آلوؤں کو اُبال کر چھلکے علیحدہ کر کے باریک پیس لیجیے۔ پہلے آلوؤں کے بھرتے کو گھی میں الابچی کا بگھار دے کر بھونی، بے جب گلابی ہو جائے تو شکر ملا کر بھویے، پسا ہوا ناریل ملا لیں اور حسب معمول میدے یا آٹے کی کچوریوں میں بھر کر تل لیں۔ کچوریوں کے آٹے کو گوندھتے وقت بھی گھی ضرور ملا لینا چاہیے، اس کے بغیر خشکی نہ آئے گی، بہت مزیدار میٹھی کچوریاں تیار ہوں گی۔

کوکوٹ کھیر

- اجزاء
- ناریل
  - چاول
  - چینی
  - شہد
  - الابچی پاؤڈر
  - دودھ
  - ناریل
- پچاس گرام (کدو کش کیا ہوا)  
دو کھانے کے چمچ (ایک گھنٹے پہلے بھگو دیں)  
دو کھانے کے چمچ  
دو کھانے کے چمچ  
آدھا کھانے کا چمچ  
تین کپ  
سجاوٹ کے لیے  
(باریک کٹا ہوا)

ترکیب: ایک پتیلی میں دودھ اُبال لیں۔ اب دودھ میں چاول اور الابچی ڈال دیں اور چاول گلنے تک پکائیں۔ اس کے بعد چینی، شہد اور ناریل شامل کر کے مزید پکائیں۔ گاڑھا ہو جانے پر کھیر کو چولہے سے اتار لیں۔ باؤل میں نکال کر ناریل اور الابچی دانے سے گارنش کریں۔





محمد رضوان حکیم

# حکیم جی!

ساتھیو! اکثر ہمیں کسی ایسی بیماری سے سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے لیے ہمیں سمندر کی تہہ یا آسمان کی بلندیوں، جنگل بیابانوں یا پہاڑوں تک پر جانا پڑ جاتا ہے مگر..... جان ہے تو جہان ہے۔ خدا اگر بیماری دیتا ہے تو اُس نے شفا بھی دی ہے۔ قدرت کے طریقہ علاج کا آج بھی کوئی مول نہیں۔ حکمت کو آج بھی روزِ اول کی طرح عروج حاصل ہے۔ اسی لیے طبیب اور حکیم صا جہان کو خدائی تحفہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے ہم نے یہ سلسلہ بعنوان 'حکیم جی' شروع کیا ہے۔ امید ہے ہمارے مستند اور تجربہ کار حکیم صاحب آپ کی جملہ بیماریوں کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ نیا سلسلہ حکیم جی! آپ کو کیسا لگا؟ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔

اگر اس مرض کا جلد علاج نہ کیا جائے تو اس ضعیف اعضائے رئیسہ اور دیگر مرض کی شکایات کے باعث استقرارِ حمل کی قابلیت نہیں رہتی اور شادی کے ثمر، اولاد جیسی نعمت سے محرومی رہتی ہے۔ آج کل چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو یہ مرض عام ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بازار کا فاسٹ فوڈز کھانا اور تیز مسالے کی

## لیکچر

خواتین کی اکثریت آج کل اس مرض میں مبتلا ہے لیکن فطری شرم و حیا اور مرض کو معمولی سمجھ کر وہ علاج کی طرف توجہ نہیں دیتیں حالانکہ یہ مرض ان کی صحت اور حسن و جمال کو متاثر کرتا ہے



255



25 گرام

اسگندھ ناگوری

25 گرام

لاجوتی

**ترکیب:** تمام چیزوں کا سوف بنا کر 5 گرام صبح 5 گرام رات دودھ کے ساتھ۔

**پرہیز:** تمام گرم اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔

☆☆.....☆☆

## سنہرے درخت کا سہرا پھل پیتا

پیتے کو سنہرے درخت کا پھل کہا جاتا۔ یہ قدرت کا ایک ایسا انمول تحفہ ہے جس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ 1977ء میں لندن کے ایک اسپتال میں پیتے کو ایک ایسا انفیکشن روکنے کے لیے استعمال کیا گیا جو گردوں کے آپریشن کے بعد لاحق ہوتا تھا۔ اس کے استعمال کے بعد انفیکشن اتنی تیزی سے دور ہوا کہ جیسے کسی جادو نے کمال دکھایا ہو۔ لندن کے تمام اخبارات نے اس کراماتی پھل کے متعلق شہ سرخیاں لگائیں۔ اس کے بعد ہی یورپی لوگوں کو پیتے کی تیج اہمیت کا اندازہ ہوا، لیکن برصغیر پاک و ہند میں یہ پھل صدیوں سے مختلف امراض کے خاتمے کے لیے معاون تسلیم کیا جاتا ہے۔ حکمت میں اس کے پھل، چھلکے بیج اور پتوں سے درختوں امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ صرف برصغیر پاک و ہند ہی نہیں دنیا کے دیگر خطوں میں بھی یہ پھل قدیم زمانے سے استعمال ہو رہا ہے۔ پیتے میں وٹامن C وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ ایک تیار پیتے میں وٹامن A اور C، فولاد، کیلشیم اور پوٹاشیم کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بالوں اور جلد کو نکھارنے کے لیے از حد مفید، کھانے کے علاوہ اگر اسے چہرے پر لگایا جائے تو جلد چمکنے لگتی ہے۔ اس پھل میں قدرت نے اتنی غذائیت رکھی ہے کہ اگر انسان اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو ہمیشہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

ورم، رحم کے ٹل جانے، حیض کی بندش، چھوٹی عمر میں حمل ہونے، اندام نہانی کے ورم یا سوزش کی وجہ سے عام جسمانی کمزوری، خون کی کمی، سوزاک، آتشک یا نقرس کے باعث یہ بھی مرض ہو جاتا ہے مباشرت کی کثرت سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

## علامات

کمر درد، پیڑوں میں بوجھ اور درد کی شکایات پائی جاتی ہیں۔ بھوک نہیں لگتی، طبیعت سست اور کسلمند رہتی ہے۔ کسی کام کو جی نہیں چاہتا، عام جسمانی کمزوری ہوتی ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، ماہواری درد اور تکلیف سے آتی ہے۔ پنڈلیوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ قبض کی شکایات ہو جاتی ہے اعضاء شکنی ہوتی ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں۔ چہرہ زرد اور بے رونق ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں۔

## نسخہ:

50 گرام	سنگھاڑا
25 گرام	دکنی سپاری
25 گرام	مازیان
25 گرام	لودھ
25 گرام	طرفا
25 گرام	سنبل کا گوند
25 گرام	موصلی سفید انڈین
25 گرام	تخم جلوئی
25 گرام	بنسلوچین
25 گرام	ضمع عربی
25 گرام	سنگ جراحی





# بیرونی کا صحیفہ

آپ کے جانے پہچانے اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر خروم مشیر

ہر ماہ آپ کی بیوٹی سے متعلقہ مسائل کے حل کے ساتھ

دودھ اور پھل استعمال کریں اور کم سے کم دن بھر میں بارہ گلاس پانی ضرور پیئیں تاکہ زہریلے اور فاسد مادے سم سے خارج ہو جائیں۔ کھلی جگہ میں روزانہ کم از کم دوں بار بی بی اور گہری سانس لیں تاکہ آکسیجن خون میں شامل ہو کر صاف و تازہ خون جسم کو گردش کرنے دے، صاف و شفاف خون چہرے پر ہی نہیں ہاتھوں پر بھی دلکشی بن کر جھلکتا ہے۔ متوازن غذا کے ساتھ لیشینیم کی بھی مناسب مقدار لینی چاہیے تاکہ آپ کے ناخن نوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ہاتھوں کی بے روئی کا سبب نہ بنیں۔

ہاتھوں کی بیرونی حساسی کے لیے روزانہ جتنی بار آپ ہاتھ دھوئیں کم از کم خشک موسم میں ہاتھوں کو خشک کرنے کے بعد ہینڈ لوشن، کولڈ کریم یا پچر بالائی مل لیں، اس طرح کلائیوں تک مساج ہو جائے گا پچر ہتھیلیوں کی پشت اور انگلیوں کی حرکت ہمیشہ نیچے سے اوپر کی جانب رکھیں۔ اوپر سے نیچے کی جانب حرکت کرنے سے جلد ٹٹکنے لگتی ہے۔ گلیسرین، عرقِ گلاب اور لیموں کا رس ہم وزن لے کے ملا لیں۔ اس آمیزے کو بازو سے لے کر ہاتھوں کی انگلیوں تک لگا کر پانچ منٹ مساج کریں۔ اس طرح

حسن اور خوبصورتی میں صرف چہرہ ہی نہیں بلکہ خواتین اپنے ہاتھ اور پیر بھی نرم و ملائم اور خوبصورت چاہتی ہیں۔ اس ماہ ہم بیوٹی گائیڈ میں خواتین کے لیے ہاتھوں کی خوبصورتی کے حصول کے لیے اہم پس لائے ہیں جو یقیناً آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے میں معاون ثابت ہوں گی۔

حسن و خوبصورتی حاصل کرنا ہر عورت کی اولین خواہش ہوتی ہے۔ چہرے کی دلکشی کے بعد ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں نرم و ملائم اور خوبصورت نظر آئیں لیکن اس خواہش کا حصول ایسا کچھ مشکل بھی نہیں، تھوڑی سی توجہ اور محنت سے ہاتھوں اور پیروں کی صفائی اور نکھار کے لیے مینی کیور اور پیڈی کیور کا طریقہ اختیار کریں۔

نرم و ملائم اور خوبصورت ہاتھ جنم کی دلکشی کے لیے متوازن غذا ضروری ہے۔ متوازن غذا میں ایسے پروٹین وغیرہ شامل ہوتے ہیں جو چہرے، ہاتھ اور پیروں کی جلد کو نرم و ملائم اور صحت مند و خوبصورت رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اپنی غذا کو متوازن بنانے کے لیے سبزیاں، دالیں، اناج، مچھلی،



# پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

## یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریٹریوم ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ سیریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on  
Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1



ہاتھوں کی جلد نرم اور دلکش ہو جاتی ہے اور بازو سڈول اور خوبصورت شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

سردیوں میں گرم پانی کے استعمال سے نہ صرف جسم کی جلد خشک ہو کر چٹختی ہوئی نظر آنے لگتی ہے بلکہ ہاتھ بھی گرم اور سرد پانی کے باعث کٹے پھٹے بے رونق اور خشک ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ناخن بھی خراب ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر کا کام کاج مثلاً کپڑے اور برتن دھونے کے باعث بھی ہاتھوں کی جلد اور ناخن کو نقصان پہنچتا ہے اور ہاتھ بد نما دکھائی دیتے ہیں اس لیے ان امور کی انجام دہی کے وقت دستانے پہنیں تاکہ ہاتھوں کی ملامت برقرار رہے بلکہ سبزیوں کو کاٹنے اور انہیں چھیلنے وقت بھی سردیوں کے موسم میں کپڑے کے دستانے استعمال کرنا مناسب ہوگا تاکہ روز روز ہاتھوں پر محنت کرنے سے بچ سکیں اور ہاتھ بھی صاف ستھرے اور نرم و ملائم رہیں۔

ہاتھوں کی خوبصورتی و دلکشی برقرار رکھنے کے لیے رات کو سوتے وقت ہاتھوں پر دودھ کی بالائی مالش کریں۔ دودھ اور عرق گلاب ملا کر ہاتھوں پر ملیں اور ایک گھنٹے کے بعد ہاتھ دھولیں۔ زیتون کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر ہاتھوں پر ملیں تو ناخن گلابی مضبوط اور جلد میں نکھار اور ملامت آئے گی۔ لیموں کا رس اور سرکہ بھی ہاتھوں پر ملنے سے داغ دھبے اور نشانات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جلد نکھر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نیم گرم دودھ کو سونے سے قبل ہاتھوں پر ملنے سے بھی ہاتھ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کھیرے اور ٹماٹر کے گودے کو مسل کر یا ہاتھوں پر اس مساج کریں۔

مردہ اور بھدی کھال نکل کر صاف شفاف جلد نکھر آئے گی اور ہاتھ خوبصورت ہو جائیں گے۔

ہاتھوں اور پیروں کی خوبصورتی کے لیے ناخن تراشنے سے ابتدا کریں۔ یہ عمل ہفتے میں کم از کم ایک بار ضروری ہے۔ ناخن تراشتے وقت اس کی موزوں لمبائی اور گولائی کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ کے ناخن کمزور ہیں اور ٹوٹتے ہیں تو ایسے میں انہیں تین سے چار دن بعد تھوڑا تھوڑا تراستی رہیں۔ ناخن تراشنے کے بعد اگر ان پر تھوڑا سا زیتون کا تیل یا دمام یا ناریل کا تیل مل لیا جائے تو یہ عمل ناخنوں کے لیے موثر اور نازک سبب بنے گا۔

ناخنوں کو خوشنما بنانے کے لیے انہیں دودھ اور لیموں کے رس میں پندرہ منٹ بھگو کر رکھیں۔ کبھی کبھی شہد میں عرق گلاب ملا کر اس سے بھی ناخن صاف کریں۔ اگر ناخن میلے ہوں تو ایک پیالی پانی میں ایک چمچ لیموں کا رس ملا کر اس سے ناخن صاف کریں۔ لہسن کے ایک یا دو جوے روزانہ ناخنوں پر ملنے سے ناخن مضبوط اور خوشنما ہو جاتے ہیں۔ مینی کیور کا اگر بہترین نعم البدل درکار ہو تو ایک چمچ چینی اپنے ہاتھوں پر ڈالیں اور اسے لیموں کے ٹکڑے سے آہستہ آہستہ ملیں۔

ہاتھوں کی خوبصورتی اور دلکشی کہنیوں کی صفائی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ کہنیوں کی دلکشی کے لیے ایک آلوکاٹ کر اسے کانٹے سے گود کر اس کا عرق کہنیوں پر ملنے سے سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لیموں کا رس لگانے سے بھی کہنیوں کی سیاہ رنگت صاف ہو جاتی ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کر کے لگانے سے بھی کھر درئی سیاہ اور بھدی کہنیوں کی جلد صاف ستھری اور چکنی ہو جاتی ہے۔

☆☆.....☆☆